

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
حَمْدُ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
سَمِعٌ بَصِيرٌ

احمیش مبارکہ کے علوم و معارف کا محبوس

قَبْعَ الْكَرْبَ عَلِيٌّ فَاللّٰہُ جَنَّةُ قَدْرٍ مَنِ اتَّخَذَ حَكِيمًا حَكِيمٌ حَمَلَ لَهُ دُرًّا صَادِقًا شَجَاعًا

حَامِفَاهِ إِمَادَتِهِ آئُشْرُقَیَہ

ناشر

: کاشی قیام، کراچی

﴿ ضروری تفصیل ﴾

نام کتاب: خزانہ الحدیث

(حضرت والاکی تایفات سے احادیث مبارکہ کی الہامی تشریحات کا مجموعہ)

نام مؤلف: عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام ظلالہم علینا الی

مأة و عشرين سنة

کمپوزنگ: مفتی محمد عاصم صاحب مقیم خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشنِ اقبال، کراچی

اشاعت اول: محرم ۱۴۳۲ھ

تعداد: ۲۲۰۰

ناشر: کتب خانہ مظہری

گلشنِ اقبال - ۲ کراچی، پوسٹ آفس بکس نمبر ۱۱۸۲

فہرست

صفحہ	عنوان
۱۰	پیش لفظ
۱۱	ذکر پرشیت کی تقدیم کاراز
۱۵	صحبتِ اہل اللہ کے عبادت سے افضل ہونے کی وجہ
۱۶	صحبت شیخ سے کیا ملتا ہے؟
۱۷	کریم کے چار معانی
۲۲	نامحرموں سے شرعی پرده کی تاکید
۲۶	ذکر کا طریقہ
۲۶	ذکر کے بعد دعا
۲۷	رحمتِ حق اور محرومی از رحمتِ حق کے دلائل منصوصہ
۲۸	ترکِ معاصی دلیلِ رحمت اور معصیت ذریعہ شقاوت
۲۹	کیفیتِ احسانی کے انعامات اور طریقہ تخلیل
۳۳	حدیث اللہمَ ارْضِنَا.....الخ کی تشریح کی الہامی تمتیل
۳۶	امام عادل کی عجیب الہامی شرح
۳۷	مکان کی مجتب مکین سے اشد محبت کی دلیل ہے
۳۸	سایہ عرش حاصل کرنے کا طریقہ
۳۹	حسن کا شکر کیا ہے؟
۴۱	چوبیں گھنٹے کا عبادت گذار
۴۳	حق رو بیت اور تقاضائے بندگی
۴۵	چھوٹے بچوں سے وفاداری کا سبق
۴۵	عامِ شباب کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے کا انعام
۴۷	خوفِ شکستِ توبہ اور عزمِ شکستِ توبہ کا فرق

۳۹	توبہ کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے
۵۰	توبہ سے محبوبیت کی ایک عجیب تمثیل
۵۱	نداامت کے آنسوؤں کی کرامت
۵۲	تجلیاتِ جذب کے زمان و مکان
۵۳	تجلیاتِ جذب کے زمان و مکان
۵۵	خاص بندوں کی پیچان
۵۵	تجلیاتِ جذب کے زمان و مکان
۵۶	صحبت یافتہ اور فیض یافتہ
۵۸	کیفیتِ احسانی اور صحبتِ اہل اللہ
۷۲	اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل
۷۵	سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخصوص اوقاتِ قرب
۷۸	قبویٰ توبہ کی چار شرائط
۷۹	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كے چار فوائد
۸۰	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كا مفہوم
۸۲	غیبتِ زنا سے اشد کیوں ہے؟
۸۳	غیبت کے زنا سے اشد ہونے کی وجہ
۸۳	کفارہ غیبت کی دلیل منصوص
۸۵	عجب اور تکبر کا فرق اور انکی تعریف
۹۳	محبت کی عظیم الشان کرامت
۹۳	ایک اشکال اور اس کا جواب
۹۴	محبت و اطاعت پر معیتِ موعود کی تفصیلی تحقیق تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں
۹۶	شانِ نزول
۱۰۶	عجب اور کبر کا فرق
۱۳۰	دعا و خصوکی عاشقانہ حکمت
۱۳۰	وضو کے وقت اہل اللہ کی خشیت

وَسْعُ لِي فِي دَارِي كے معنی	۱۳۱
محبوبیت عند اللہ کے دوام کا طریقہ	۱۳۱
استغفار اور توبہ کا فرق	۱۳۲
لاظتو ابین کے زوال کی حکمت	۱۳۲
ولایت عامہ اور ولایت خاصہ	۱۳۳
مور درحمت چار قسم کے افراد	۱۳۸
رحمت حق کو متوجہ کرنے والا عجیب عنوان دعا	۱۴۹
اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي کی شرح کا درد انگیز عاشقانہ اور نادر عنوان	۱۵۰
رحمت ارحم الراحمن کا کامل نمونہ	۱۵۱
حدیث پاک کے دوسرے جز کی عشق انگیز و عارفانہ شرح	۱۵۲
ارحم الراحمن کی عظمت شان کے عجیب عارفانہ نکات	۱۵۳
حق تعالیٰ کی شان رحمت شان غضب سے زیادہ ہے	۱۵۴
حضرت حوالیہ السلام کی تاریخ	۱۶۳
کلمہ طیبہ کے معانی	۱۷۰
تیسرا اللہ باطل حُبٍ جاہ ہے	۱۷۰
سب سے بڑا اللہ باطل حسن مجازی ہے	۱۷۳
نورِ تقویٰ لا الہ کے منفی اور لا اللہ کے ثبوت تاریخ سے پیدا ہوتا ہے	۱۷۳
اسبالی ازار کی وعید	۱۷۴
(ذکر اللہ کی) پہلی فضیلت	۱۷۷
دوسری فضیلت	۱۷۷
تیسرا فضیلت	۱۷۸
چوتھی فضیلت	۱۷۸
بہترین خطا کار	۱۸۰
فوائد استغفار	۱۸۰
انعاماتِ تقویٰ	۱۸۰

۱۸۱	توبہ و استغفار پر بھی تقویٰ کے انعامات
۱۸۲	دین پر ثبات قدیٰ کی مسنون دعا
۱۸۳	حفاظ قرآن امت کے بڑے لوگ ہیں
۱۸۴	حملہ القرآن اور اصحابِ اللیل کا ربط
۱۸۵	حافظِ قرآن پاک کے لیے تہجد کی اہمیت
۱۸۶	سارے عالم کے اولیاء اللہ کی دعائیں لینے کا طریقہ
۱۸۷	تہجد کا آسان طریقہ
۱۸۸	سونے سے پہلے نماز تہجد کی شرعی دلیل
۱۸۹	صلوٰۃ تہجد بعد عشاء کی دلیل بالحدیث
۱۹۰	بچوں کو بعد عشاء تہجد کی مشق
۱۹۱	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھنائے شہادت
۱۹۲	جنت میں شہداء کی دوبارہ شہید ہونے کی تھنا
۱۹۳	ہمارا اسلام خونِ نبوت اور خونِ صحابہ کاممنونِ کرم ہے
۱۹۴	اغامِ محبت
۱۹۵	نیت کا اثر
۱۹۶	اشدِ محبت مانگنے کا طریقہ حدیثِ پاک سے
۱۹۷	اہل اللہ سے محبتِ ذوقِ نبوت ہے
۱۹۸	اہل و عیال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت مطلوب ہے
۱۹۹	شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ کی محبت مطلوب ہے
۲۰۰	اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ کی الہامی تشریع
۲۰۱	اذان کے بعد کی دعا
۲۰۲	دعا بعد اذان اذان
۲۰۳	حدیث اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي (الخ) کی الہامی تشریع
۲۰۴	رُشْدَ کے متعلق عام عظیم
۲۰۵	گناہوں سے بچانے والی مسنون دعا

۲۰۶	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَيْ بُرْكَت
۲۰۷	موت کامراقبہ
۲۰۸	کفارہ غیبت
۲۱۲	توہبے کے آنسوؤں کی اقسام
۲۱۳	انین غیر اختیاری اور انین اختیاری
۲۱۴	علمی طفیلہ
۲۱۵	قلب کامفہوم
۲۱۶	اس حدیث سے اصلاح قلب پر استدلال
۲۱۷	قلب سلیم کی تفسیر
۲۱۸	دینِ اسلام میں اس حدیث کی حیثیت
۲۱۹	قبولیت دعا کی صورتیں
۲۲۰	دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی
۲۲۰	پانچ فتح کی دعائیں رد نہیں ہوتیں
۲۲۰	ظلہ کرنے سے بچنا فرض ہے
۲۲۱	فرض حج نہ کرنے پر وعید
۲۲۲	کون ہی دعا جلد تبول ہوتی ہے؟
۲۲۳	دعا یے سفر کی عجیب و غریب تشریح
۲۲۴	گانے بجانے کی حرمت
۲۲۵	چار شرائط سے سماع جائز ہے
۲۲۷	حضور ﷺ کی حضرت ابوذر ؓ کو سات تصحیحیں
۲۲۸	صحابہ کرام کی دین کی حرص
۲۲۸	کثرتِ حنف کی شرح
۲۳۰	ہنسنے میں بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو
۲۳۰	حق بات کہنے کا سلیقہ
۲۳۱	راہ حق میں طعن و ملامت سے نہ ڈریں

۲۳۲	اپنے عیوب کا استحضار کھیں
۲۳۲	جنت میں مسلمان عورتوں کی شانِ حُسن
۲۳۲	سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے؟
۲۳۲	صحابہ کرام اور اکابر کے نکاح میں سادگی
۲۳۵	نکاح میں اسراف کا وبا
۲۳۵	حدیث حبّبٰ إلیَ الْخَلَاءُ پر ایک وجہ آفرین علم
۲۳۷	حدیث صحت کی عجیب تشریع
۲۳۸	حدیث دعائے صحت کی الہامی تشریع
۲۳۹	احادیث میں مذکور دو عظیم الشان خیر
۲۴۰	حدیث الْخَلْقُ عَيَّالُ اللَّهِ لِنَحْنُ کی ایک جدید اور نادر تشریع
۲۴۱	ذوقِ عاشقانہ بیویت صلی اللہ علیہ وسلم
۲۴۲	لفظِ مُبَشَّر کا نزول
۲۴۲	اسلام کی صداقت کی ایک دلیل
۲۴۴	قرآن و حدیث میں بیٹیوں کی فضیلت
۲۴۵	شرح حدیث اللهم اجعلنى صبورا... لِنَحْنُ
۲۴۶	حقیقی شکر کیا ہے؟
۲۵۳	حدیث مَنْ عَشَقَ وَكَتَمَ لِنَحْنُ کی تشریع
۲۵۹	حدیث إِذَا رأَوْ ذِكْرَ اللَّهِ كی تشریع
۲۵۹	حدیث شوقاً الی لقائک کی شرح
۲۶۰	بیویوں کے ساتھ زندگی کیجیے
۲۶۱	شرح صدر کی علامات
۲۶۳	حدیث یا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ الخ کی انوکھی شرح
۲۶۷	بخاری شریف کی آخری حدیث کَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ لِنَحْنُ کی انوکھی تشریع
۲۶۹	مذکورہ حدیث کے متعلق ایک منفرد علم عظیم



پیش لفظ

محبی و محبوبی شیخ العرب و الحجج عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب اطآل اللہ ظلام سے تعلق رکھنے والے اکثر اکابر علماء کا عرصہ سے اصرار تھا کہ حضرت والا نے اپنی تقاریر و تصانیف میں جہاں جہاں قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح کی ہے اور جہاں جہاں الہامی مضامین از قبل واردات غیبیہ بیان ہوئے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کو حضرت کی تصانیف سے منتخب کر کے الگ شائع کر دیا جائے تو یہ سینوں میں محبت کی آگ لگانے والا ایک بے مثال علمی خزانہ ہو گا۔ حضرت مولانا یوسف پلیل صاحب نے ساوتحہ افریقہ میں کئی موضع پر فرمایا کہ کاش حضرت والا کے ان علوم کا مجموعہ الگ شائع ہو جائے تو قیامت تک امت مسلمہ کی ہدایت و اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی اشد محبت کے حصول کا بے مثل ذخیرہ ہو گا اور یہ الہامی علوم ایسے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے۔

اس سلسلہ میں کئی علماء حضرات نے کوششیں بھی کیں لیکن تکمیل کونہ پہنچ سکیں لیکن یہ سعادت لاہور کے جناب عامر نذری صاحب زید مجدد کی قسمت میں تھی جنہوں نے بڑی محنت و جال فشانی سے اس کام کو انجام دیا اور حضرت والا کی جملہ تصنیفات سے قرآن و حدیث کے علوم جمع کیے اور کمپیوٹر سے ٹائپ کرا کے لاہور سے کراچی بھیجے جو خزانہ القرآن اور خزانہ الحدیث کے نام سے ان شاء اللہ عنقریب شائع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم الشان خدمت کو قبول فرمائے اور صدقۃ جاریہ بنائے۔

پیش نظر مجموعہ خزانہ الحدیث آج طباعت کے لیے دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، آمین۔

العارض

احقر سید عشرت تمیل میر عفاف اللہ تعالیٰ عنہ
خادمِ خاص حضرت والا دامت برکاتہم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

خزانہ الحدیث

حدیث نمبر ۱

﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾

(صحیح البخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف بدء الوحی، ج: ۱)

ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیت نوات سے ہے جس کے معنی ہیں گھٹھلی۔ کہتے ہیں آکلُ التَّمَرَةَ وَ لَفْظُ النَّوَّاهَ میں نے کھجور کو حالیا اور گھٹھلی پھینک دی۔ فرماتے تھے کہ جیسی گھٹھلی ہوگی ویسا ہی درخت ہوگا۔ اگر گھٹھلی اچھی ہے تو درخت بھی اچھا ہوگا اور اگر گھٹھلی خراب ہوگی تو درخت بھی خراب ہوگا۔ پس جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا شرہ ہوگا، اچھی نیت ہوگی تو شرہ بھی اچھا ہوگا۔ اب کوئی نیم لگا کرامیدر کھے کہ اس میں آم آجائیں تو یہ بے وقوفی ہے۔

حضرت فرماتے تھے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور آخری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے پہلے جس کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں لیکن ہر طالب علم غلیقہ نہیں ہو سکتا لہذا آخری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لیا تاکہ طلباء پڑھنے پڑھانے کا ذوق رکھیں اور ان کے مزاج میں درویشی غالب رہے۔ (خزانہ شریعت و طریقت، ج: ۲۶۳)

حدیث نمبر ۲

﴿اللّٰهُمَّ اجْعَلْ وَسَاؤِسَ قَلْبِيْ خَشِيْتَكَ وَ ذِكْرَكَ﴾

ترجمہ: اے اللہ! میرے دل کے وساوس کو اپنی خشیت اور ذکر سے تبدیل فرمادیجئے۔

ذکر پر خشیت کی تقدیم کاراز

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ وَسَاؤِسَ قَلْبِيْ خَشِيْتَكَ وَ ذِكْرَكَ میں خشیت کو پہلے کیوں بیان فرمایا؟

تاکہ خشیت غالب رہے کیونکہ محبت جب خوف پر غالب ہو جاتی ہے تو بدعت ہو جاتی ہے۔ خشیت محبت کو حدودِ شریعت کا پابند رکھتی ہے۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وَ اَمَا مَنْ جَاءَ كَيْسُعِي میں صحابی کا دوڑ کر آنا بوجہ محبت کے تھا وَ هُوَ يَخْشِي اور وہ ڈر بھی رہے تھے، یہ حال ہے اور حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے یعنی ان کی محبت خشیت کی پابند تھی۔ معلوم ہوا کہ جب محبت خشیت کی حدود کو توڑتی ہے تو بدعت ہو جاتی ہے۔

اور خشیت کا تضاد تو محبت تھی لیکن حدیث پاک میں محبت کے بجائے ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ذکر سببِ محبت اور حاصلِ محبت ہے۔ جو ذکر کرے گا اس سے معلوم ہو گا کہ اس کو محبت حاصل ہے ورنہ جو محبت، محبت تو کر رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ محبت میں صادق نہیں۔ لہذا یہاں ذکر کی قید سے منافقین نکل گئے۔ جو صادق فی الْمُحْبَتِ نہیں وہ ذا کرنہیں ہو سکتا۔ (فیوضِ ربانی، صفحہ ۱)

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وسوسوں اور خیالات کا ہجوم ہو تو کہو وہ کیا شان ہے اے اللہ آپ کی کہ ڈیڑھ چھٹا نک کے دل میں آپ نے خیالات کا سمندر بھر دیا کیاڑی کا سمندر بھی بھرا ہوا ہے کلپن بھی ہے اور کشمیر کی پیہاڑیاں بھی بھسی ہوتی ہیں سارا عالم ایک ذرا سے دل میں سما یا ہوا ہے ایک چھوٹی سی چیز میں خیالات کا سمندر چلا آ رہا ہے تو فرمایا کہ یہ خیالات کا ہجوم جو شیطان نے ڈالا تھا اللہ سے دور کرنے کو اس شخص نے بزرگوں کی تعلیمات کی برکت سے اس کو ذریعہ معرفت اور ذریعہ قرب بنا لیا تو پھر شیطان ہاتھ ملتا ہے اور افسوس کرتا ہوا بھاگتا ہے کہ اس نے تو میرے وساوس کو بھی معرفت بنالیا۔ اس طرح وسوسوں کو ذریعہ معرفت بنائیجئے اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَسَاوِسَ قَلْبِي خَشِيتَكَ وَذُكْرَكَ﴾

اے اللہ! میرے دل کے خیالات کو اپنا خوف اور اپنی یاد بنا دے۔ اور دوسری ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، مشکلا کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَةً إِلَى الْوُسُوْسَةِ﴾

(مشکوٰۃ المصایب، باب فی الوسوسة، ص: ۱۹)

شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے معاملہ کو اس کے مکروہ کو صرف وسوسہ تک محدود کر دیا اس سے زیادہ اس کو طاقت نہیں دی ورنہ مان لیجئے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے دین کی بات سن رہے ہیں اگر شیطان آتا اور سب کو اٹھا اٹھا کر سینما ہاؤس میں لے جا کر بیٹھا دیتا تو بڑی مشکل میں جان پھنس جاتی، لوگ کہتے کہ بھائی ہم تو گئے تھے خانقاہ میں اللہ کی بات سننے مگر وہاں شیاطین کا ایک شکر آیا اور سب کو اٹھا اٹھا کروی سی آر اور

سینہاوس میں بیٹھا دیا۔ شیطان کو اگر یہ طاقت ہوتی تو بتائیے ہم کتنی مشکل میں پھنس جاتے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ادا کرو کہ وَهُوَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَةً إِلَى الْوُسُوْسَةِ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں۔ عربی میں یاد رہے تو سبحان اللہ و رہ اردو ہی میں کہہ لیجئے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے کید کو، اس کی طاقت کو صرف خیالات اور سوسمہ ڈالنے تک محدود کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر سکھایا اور شکر سے اللہ کا قرب ملتا ہے پس وسوسہ کو ذریعہ قرب و معرفت بنادیا کہ شکر ہے کہ شیطان صرف خیالات اور سوسمہ ڈال سکتا ہے تم کو عمل پر مجبور نہیں کر سکتا۔ گندتا تقاضا دل میں پیدا ہوا آپ اس پر عمل نہ کیجئے بالکل آپ کا تقویٰ قائم ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کا روزہ ہے، جون کا مہینہ ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے بار بار دل چاہتا ہے کہ پانی پی لوں مگر پیتا نہیں بتائیے روزہ اس کا ہے یا نہیں۔ کیا پانی پینے کے وسوسوں سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ پانی پینے کے لاکھ تقاضے ہوتے رہیں جب تک پئے گا نہیں روزہ اس کا قائم ہے۔ بلکہ اس کو ڈبل اجر مل رہا ہے تقاضہ کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اسی طرح گناہ کے گناہ وسوسے آئیں جب تک گناہ نہیں کرے گا یہ شخص بالکل متقی ہے وسوسہ سے تقویٰ میں ہرگز کوئی نقصان نہیں آئے گا سبحان اللہ! یہ ہمارے باپ داداؤں کے علوم ہیں اُولئکَ ابائیٰ فَحْسُنُ بِمِثْلِهِمْ لہذا گناہوں کے تقاضوں پر آپ بس عمل نہ کریں لاکھ تقاضے ہوں تو آپ کا تقویٰ بالکل ٹھیک ہے دیکھئے اس وقت بھی سب کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ پاخانہ ہوگا۔ ابھی ایکسرے کراچیتے تو نظر بھی آجائے گا لیکن جب تک گندگی باہرنہ نکلے آپ کا وضو ہے اس طرح دل میں گندے خیالات آئیں اس میں مشغولی نہ ہو اس پر عمل نہ ہو بس آپ کا تقویٰ قائم ہے۔ دین لتنا آسان ہے۔

جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان

جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں

دین تو بہت آسان ہے ہم خود اس کو دشوار کرتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ جس شخص نے بھی شیطان کے وسوسوں کا جواب دیا پاگل ہو گیا ایک وسوسہ کا جواب دیا اس نے دوسرا پیش کر دیا اب رات بھر بیٹھے ہوئے وسوسوں کا جواب دے رہے ہیں۔ بتائیے کیا ہو گا دماغ خراب ہو گا یا نہیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو جواب ہی مت دیجئے بس یہی کہیے کہ اللہ تیراشکر ہے کہ تو نے اس کا اختیار وسوسہ ڈالنے تک ہی رکھا اور بزرگوں کے پاس آئیے جائیے ان کی صحبتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ابليس کے تمام مکروہ کیوں خوتم کر دیتا ہے کیونکہ اہل اللہ اسم ہادی کے مظہر ہیں، اسم ہادی کی تجلی ان پر ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں پر بھی وہ تجلی پڑ جاتی ہے جس سے ان کو ہدایت ہو جاتی ہے اور ابليس اللہ تعالیٰ کے اسم مضل کا مظہر ہے گمراہ کرنے کی

طافت کا ظہور اس پر ہوتا ہے الہذا گمراہ لوگوں سے بھاگنے اور اللہ کے خاس بندوں کی صحبت میں رہیے جو بزرگانِ دین کے صحبت یافتہ ہیں، اسم مضل کے مقابلہ میں اسم ہادی کے ساتے میں آجائے جس شخص کو دیکھو کہ اس نے بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی چاہے مطالعہ اس کا بہت وسیع ہو ہرگز اس کی صحبت میں نہ بیٹھئے۔ یہ بات میں نہایت اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں کسی تعصب سے نہیں۔

مثال کے طور پر جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے معارف القرآن ایسے صحبت یافتہ بزرگوں کی تفسیر اور کتابت میں دیکھئے ورنہ اگر کسی غیر تربیت یافتہ خود ساختہ مفسر کی تفسیر یا تصنیف دیکھی تو اس پھر سمجھ لو کہ خطرہ میں پڑ جاؤ گے ایمان ہی کے لالے پڑ جائیں گے کبھی انبیاء علیہم السلام پر اس کا گستاخ قلم اٹھ جائے گا کبھی صحابہ پر۔ ایسی نئی چیزیں نکال دے گا کہ قرآن کو، دین کو، جو میں نے سمجھا ہے کسی نے سمجھا ہی نہیں، یہ قلم سب کی تنقیص کر دے گا ایسے صاحب قلم قابل سرقلم ہیں اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ خاص نصیحت کی ہے کہ جب تک یہ معلوم نہ کرو کہ یہ شخص کس شخص کا صحبت یافتہ ہے ہرگز اس کی صحبت میں مت بیٹھو، نہ اس کی تصانیف پڑھو چاہے وہ بظاہر بیعت بھی کرتا ہوا س سے پوچھو کہ اس نے بھی کسی سے بیعت کی ہے یا نہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِيْنَكُمْ﴾

(صحیح مسلم، ج: ۱، ص: ۱۱)

یہ علم دین ہے پس خوب دیکھو تو تحقیق کرو کہ تم کس شخص سے دین حاصل کر رہے ہو۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ جس سے دین سیکھ رہے ہیں اس نے کس سے سیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے **أَلَا إِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ اسْنَادُكِي** دین میں خاص اہمیت ہے میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے مثنوی حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور انہوں نے حضرت حاجی صاحب سے پڑھی اور الحمد للہ میں نے شاہ عبدالغنی صاحب سے پڑھی۔ دیکھئے سند دیکھنی پڑتی ہے یا نہیں اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ان کے استاد فلاں اُن کے استاد فلاں اور اگر کسی سے نہیں سیکھا محض ذاتی مطالعہ سے حاصل کیا ہے تو پھر وہ ایسے ہی ترجمہ کرے گا جیسے کسی نے کتاب میں دیکھا کہ نماز ہلکے پڑھو لہذا وہ پوری نماز میں ہل رہا تھا حالانکہ لکھا تھا کہ نماز ہلکی پڑھو پہلے زمانہ میں یہ کو لمبا کھینچ کر ہے۔ لکھ دیتے تھے تو اس نے ہلکی کو پڑھا ہلکے اب جناب نماز میں ہل رہے ہیں کسی کو استاد بنایا نہیں تھا کہ پوچھ لیتا۔ کتاب دیکھ کر دین سیکھنے والوں اور دین سکھانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ خود بھی ہلیں گے آپ کو بھی ہلا دیں گے۔ (بدگانی اور اس کا علاج صفحہ ۵۔ ۱۳)

حدیث نمبر ۳

﴿وَجَبَتْ مَحِبَّتُ الْمُتَحَابِينَ فِي وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي وَالْمُتَزَارِ اورِيْنَ فِي وَالْمُتَبَادِلِيْنَ فِي﴾

(موطا مالک، کتاب الجامع، باب ماجاء في المتها比ین فی الله، ص: ۲۳)

ترجمہ: میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں اور میری محبت میں آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور میرے لیے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔

یہ اللہ والی محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَبَتْ مَحِبَّتُ الْمُتَحَابِينَ فِي جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے یعنی احسانًا اپنے ذمہ واجب کر لیتا ہوں۔ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں جس کی برکت سے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مگر صرف قلبی محبت پر اکتفانہ کرو جسم کو بھی اللہ والوں کے پاس لے جاؤ کیونکہ قلب چلنہیں سکتا قلب کے ذریعہ جائے گا لہذا فرمایا وَالْمُتَجَالِسِينَ فِي اپنے قلب کو قلب کی سواری پر لے جاؤ اور اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو اس کے بعد وَالْمُتَزَارِ اورِيْنَ فِي فرمایا اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہو، وہیں نہ رہ جاؤ کہ بال بچوں کو اور ذریعہ معاش و تجارت کو چھوڑ دو اور اس کے بعد وَالْمُتَبَادِلِيْنَ فِي ہے کہ یہ بندے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جان لے لینا لیکن مال کی بات نہ کرنا۔ گر جاں طلبی مضائقہ نیست ورز طلبی سخن درین ست۔ لہذا ایک دوسرے پر خرچ بھی کرو۔ صوفیاء کو اللہ نے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے کہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ (فویض ربانی صفحہ: ۱۰)

صحبتِ اہل اللہ کے عبادات سے افضل ہونے کی وجہ

حضرت حکیم الامت نے مفتی شفیع صاحب سے فرمایا کہ ایک شاعر نے جو کہا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سو سال کی اخلاص والی عبادات سے بہتر ہے یا اس نے کم کہا ہے، اللہ والوں کی صحبت ایک لاکھ سال کی عبادات سے بہتر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ ملتا ہے اور کثرت عبادات سے ثواب ملتا ہے۔ اور اہل اللہ کی صحبت کے عبادات سے افضل ہونے کی دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ مَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحْبِهُ إِلَّا اللَّهُ كَمْ جو کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ حلاوتِ ایمانی عطا فرمائیں گے اور حلاوتِ ایمانی جس کو نصیب ہوگی اس کا خاتمه ایمان پر ہونے کی بشارت ہے۔ دیکھئے اس محبتِ اللہ پر کسی ثواب کا وعدہ نہیں فرمایا گیا بلکہ حلاوتِ ایمانی عطا فرمائی کہ ہم اسے

مل جائیں گے۔ (فیوض ربانی، صفحہ: ۵۳)

صحبت شیخ سے کیا ملتا ہے؟

بُنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے تو اپنے شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ میرے قلب کو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ جواب عطا فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور مرشد کو دیکھنے سے کعبہ والا ملتا ہے، رب الکعبۃ ملتا ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے:

﴿إِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ﴾

(مسند احمد، مسند الشامین)

اللہ والوں کی پہچان یہی ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ ان کی صحبت سے اصلاح ہوتی ہے۔ اصلاح کے لیے انسان چاہیے اسی لیے پیغمبر بھیجے جاتے ہیں۔ اگر کعبہ شریف میں اصلاح کی شان ہوتی تو تین سو ساٹھ بست کعبہ کے اندر رکھے ہوئے نہ ہوتے۔ نبی اور پیغمبر اصلاح کرتا ہے پھر کعبہ شریف کی تجلیات نظر آتی ہیں ورنہ کفر کے موتیا سے جس کے دل کی آنکھیں انہی ہیں وہ کعبہ کے انوار کیا دیکھے گا۔ (فیوض ربانی، صفحہ: ۵۳)

حدیث نمبر ۲

﴿اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي﴾

(سنن الترمذی، کتاب الدعوات، ج: ۲، ص: ۱۹۱)

بعض کتب احادیث میں عفو کے بعد کریم کا اضافہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں۔ ملا علی قاری نے عفو کی شرح کی ہے کثیر العفو یعنی جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہو اور رحمت للعلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارحم الراحمین کے دریائے رحمت میں جوش دلانے کے لیے کریم کا اضافہ فرمایا تاکہ میری امت کے نالائقوں، ناہلوں، گھنگاروں اور خطکاروں کی بھی معافی ہو جائے اور امت کا کوئی فرد ایسا نہ رہے جس کو معاف نہ کر دیا جائے کیونکہ کریم وہ ہے جو اپنے کرم سے نالائقوں کو بھی محروم نہ کرے اور ناقابلِ معافی کو معاف فرمادے۔ (دری مشوی، ص: ۱۰۵-۱۰۶)

حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شبِ قدر میں پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي﴾

آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثناء و تعریف فرمائی کیونکہ شَنَاءُ الْكَرِيمِ دُعَاءُ الْكَرِيمِ کی تعریف کرنا اس سے مالگنا ہے اور جو چیز کریم سے مبنی ہوتی ہے اسی صفت کی تعریف کرتے ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمت

کو معافی دلوانی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفتِ عفو کا واسطہ دیا۔ اللہمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ أَيُّ إِنْكَ أَنْتَ
كَشِيرُ الْعَفْوَاءِ اللَّهُ! آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور کریم کیوں فرمایا؟ تاکہ امت کے گھنگار
بندے بھی محروم نہ رہیں کیونکہ کریم کے معنی ہیں الَّذِي يُعْطِي بِدُونِ الْإِسْتِحْقَاقِ وَالْمُنْتَهَى كَرِيمٌ وَهُوَ
نالائقوں پر بھی فضل فرمادے اگرچہ استحقاق نہ بنتا ہو تو کریم فرمًا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنگاروں کو
مایوسی سے بچالیا کہ تم مانگو، تمہارا پلا کریم مالک سے ہے جو بدون استحقاق اپنے نالائقوں کو بھی عطا فرماتا
ہے۔ تَحْبُّ الْعَفْوَ کی شرح ہے کہ اُنَّتَ تُحِبُّ ظُهُورَ صِفَةِ الْعَفْوِ عَلَى عِبَادِكَ اپنے بندوں کو
معاف کرنا یہ عمل آپ کو بہت محبوب ہے فَاعْفُ عَنِّي پس ہم کو معاف کر دیجئے، اپنا محبوب عمل ہم گھنگاروں
پر جاری فرمائیں ہمارا بیٹا اپار کردیجئے۔

کعبہ شریف میں جا کر یہ دعا مانگنے کا بہترین موقع ہے کہ اے اللہ! ہم اپنے اپنے ملکوں سے آئے
ہیں آپ کو کریم جان کر۔ ہر آدمی جب باادشاہ کے پاس جاتا ہے تو کوئی تھنڈے کر جاتا ہے۔ اپنے اپنے ملکوں
سے، آپ کے پاس ہم اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ و استغفار اور طلب معافی کی درخواست کا تھنہ لائے
ہیں تاکہ آپ ہم کو معاف کر کے اپنی صفتِ عفو کا ہم پر ظہور فرمائیں کہاں محبوب عمل ہم پر جاری فرمادیں کیونکہ ہم
نالائقوں کے پاس آپ کے لائق اس سے بہتر کوئی تھنہ نہیں مگر یہ تھنہ ہم نے آپ کے رسول سرورِ عالم
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جن سے زیادہ آپ کا کوئی مزاج شناس نہیں۔ (نویں ربانی، صفحہ ۸۲-۸۳)

کریم کے چار معانی

محدثین نے کریم کے چار معانی بیان کیے ہیں:

۱۔ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَيْنَا بِدُونِ الْإِسْتِحْقَاقِ وَالْمُنْتَهَى كَرِيمٌ وَهُوَ جو اپنے کرم سے نالائقوں
کو بھی محروم نہ کرے، جس کا حق نہ بنتا ہو اس کو بھی عطا فرمادے، (دریں مشتوی، ص: ۱۰۶) جو ہم پر بغیر الہیت کے،
باوجود ہماری نالائقی کے مہربانی کر دے جیسے ایک باادشاہ نے اپنے خادم سے کہا کہ رمضانی مگسماں می آئند۔
رمضانی میرے پاس مکھیاں آرہی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ حضورنا کسماں پیش کسماں می آئند۔ حضور نالائق
لائق کے پاس آرہی ہیں۔ پس کریم حقیقی تو ہمارا اللہ ہے کہ بُرے اعمال سے ہمارا طاحر بھی گند اور ہمارا باطن
بھی گند اکہ اندر پیشاب پاخانہ بھرا ہوا ہے لیکن ہم جیسے نالائقوں کو بھی اپنے پاس آنے سے منع نہیں کرتے
 بلکہ حکم دے دیا کہ وضو کرو اور میرے حضور میں آجائو۔ اسی طرح باوجود ہماری باطنی گندگی یعنی گناہوں میں
ملوث ہونے کے ہر سانس اور ہر لمحہ ہم پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ (فناں روی، ص: ۲۹۸)

۲۔ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَيْنَا فَوْقَ مَا نَسْمَنَى بِهِ یعنی ہماری تمناؤں سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا

کہ ہم اگر ایک بول شہد مانگیں تو وہ ڈھائی من کا مشک دے دے، (فغان روی، ص: ۲۹۸) جو ہماری تمناؤں سے زیادہ دے دے جیسے ایک کریم سے کسی نے ایک بول شہد مانگا اس نے ایک مشک دے دیا۔ کسی نے کہا کہ اس نے تو ایک بول مانگا تھا آپ نے پوری مشک کیوں دی۔ کہا کہ اس نے مانگا اپنے ظرف کے مطابق، میں نے دیا اپنے ظرف کے مطابق۔ جب دنیاوی کریموں کا یہ حال ہے جن کو کرم کی ایک ذرّہ بھیک مل گئی ہے تو اس کریم حقیقی کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے۔

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیئے ہیں دُر بے بہا دیئے ہیں

۳۔ الَّذِي لَا يَخَافُ نَفَادًا مَا عِنْدَهُ كَرِيمٌ وَهُوَ جَوَاهِيرٌ مِّنْ بَشَرٍ مَّا اتَاهُنَّ بِإِنْتَهَا عَطَافِرَ مَادِيَّةٍ أَوْ رَأْيَنِ خَزَانَوْنَ
کے ختم ہونے کا جسے اندیشہ نہ ہو کیونکہ غیر محدود خزانوں کا مالک ہے اور اپنے خزانوں سے بے نیاز ہے،
ہمارے لیے ہی و خزانے ہیں۔ (دریں مشتوی، ص: ۱۰۷)

۴۔ الْمُتَفَضِّلُ عَلَيْنَا بُدُونَ مَسْتَلَةٍ وَلَا سُوَالٍ جَوَاهِيرِ سُوالٍ، بِغَيْرِ مَانِكَ هُوَنَّ هُمْ پُرْمَهْرَانِيَّ کِر
دے۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں جیسے ہمارا ایمان مغض حق تعالیٰ کا کرم
ہے اس میں ہماری کسی محنت کا دخل نہیں، عالم ارواح میں ہم بے زبان تھے، ہم نے سوال نہیں کیا تھا کہ
اے اللہ نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیجئے لیکن بدون طلب اور بدون سوال مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے
ایمان عطا فرمادیا اور مفت میں جنت کاٹکت دے دیا۔ اسی طرح ہر لمحہ بے شمار افضل و عنایات بدون سوال عطا
فرماتے ہیں۔ (دریں مشتوی، ص: ۱۰۶)

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ! آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور کریم بھی
ہیں کہ نالائقوں کو اور ناقابلِ معافی کو معاف فرمادیتے ہیں تُحِبُّ الْعَفْوَ اور صرف معاف ہی نہیں
فرماتے بلکہ اپنے بندوں کو معاف کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے اُنَّ تُحِبُّ ظُهُورَ صِفَةِ الْعَفْوِ
عَلَى عِبَادِكَ۔ تُحِبُّ الْعَفْوَ کی یہ شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عمده فرمائی کہ اپنے بندوں پر
اپنی مغفرت کی صفت ظاہر کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے یعنی اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کا عمل آپ
کو نہایت پیارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مزاج الوہیت اور مزاج ربویت کوون
پہچان سکتا ہے لہذا اپنی امت کو معافی دلانے کے لیے آپ کس کس عنوان سے حق تعالیٰ کی شافر مارے ہے ہیں
کیونکہ شَنَاءُ الْكَرِيمِ دُعَاءُ كَرِيمٍ کی تعریف کرنا اس سے مانگنا ہے جیسے کسی کریم سے کہا جائے کہ آپ کسی کو
محروم نہیں کرتے تو اس کے معنی ہیں کہ ہمیں بھی عطا فرمادیں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ

سے اُمت کو معافی دلوانی تھی اس لیے آپ نے حق تعالیٰ کی صفت عفو کا واسطہ دیا کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کے عمل کو آپ خود محبوب رکھتے ہیں لہذا معاف کرنے کے عمل کو جاری کرنے کے لیے کوئی سبب، کوئی تحفہ تو ہونا چاہیے، لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو شاہوں کے مزاج کے موافق تھائے لے کر جاتے ہیں۔ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سلطان السلاطین ہیں ہم آپ کے مزاج کو کیسے پہچان سکتے تھے کہ ہم حادث آپ قدیم، ہم فانی آپ لافانی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہم پر جاری ہونے کا راستہ توبہ و ندامت ہے لہذا ہم گنہگار اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ کی گھٹڑی کا تحفہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی درخواست کرتے ہیں کہ فَاغْفُ عنِّی ہم گنہگاروں کو معاف فرما کر اپنا محبوب عمل ہم پر جاری کر دیجئے۔ آپ کا محبوب عمل ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا لہذا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاعل تعقیبیہ لگادی کہ اے اللہ معاف کرنے میں دیرینہ کیجھ، جلد معاف کر دیجھ کیونکہ معاف کرنا آپ کو خود محبوب ہے۔ (دریں مشوی مولانا روم، صفحہ: ۱۰۸)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، کثیر العفو ہیں، نالائقوں کو اور ناقابلِ معافی مجرموں اور خططا کاروں کو آپ صرف معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ آپ کی ایک صفت اور بھی ہے کہ تُحِبُّ الْعَفْوَ بَنْدُوْلُوْنَ کو معاف کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے اُنْتَ تُحِبُّ ظُهُورَ صَفَةِ الْعَفْوِ عَلَى عِبَادِكَ اپنے گنہگار بندوں پر اپنی صفت عفو کا ظاہر کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے یعنی اپنے گنہگاروں کو بخشنے کے عمل سے خود آپ کو پیار ہے۔ ہم جب اپنے کسی ستانے والے کو معاف کرتے ہیں تو وجہ بشریت کے ہم کو مزہ نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی شانِ الوہیت اور شانِ ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے مزاجِ عظیم الشان کا عارف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب ہیں کہ آپ کے صدقہ میں یہ کائنات پیدا کی گئی۔ جیسا کہ حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْلَا كَ لَمَا خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ إِنَّمَا كَلِمَ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو ہی پیدا نہ کرتا۔ صاحبِ قصیدہ بردہ کا کیا پیار اشعار ہے۔

فَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةً مَنْ

لَوْلَا هُوَ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

دنیوی ضرورت آپ کو دنیا کی طرف کیسے بلا سکتی ہے جبکہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا خود عدم سے وجود میں نہ

آتی۔ دنیا اپنے وجود میں آپ کی محتاج تھی تو آپ کیسے دنیا کے محتاج ہو سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مزاج مبارک و عالیشان کے سب سے بڑے مزاج شناس سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اس لیے آپ امت کو آگاہ فرمائے ہیں کہ تمہارے رب کا مزاج عظیم الشان یہ ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرنا ان کو بہت زیادہ محظوظ ہے لہذا کہو فَاغْفُ عنِّی هُمْ كَوْمَعْفٍ فَرِمَاتَجَنَّهُ اور کیونکہ معاف کرنا آپ کو محظوظ ہے لہذا آپ کے اس عمل کے لیے کوئی معمول، کوئی سبب، کوئی میدان، نزول رحمت کے لیے کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے لہذا ہم نالائق اپنے گناہوں پر ندامت واستغفار اور توبہ کی گھٹڑی لے کر حاضر ہو گئے ہیں اور فَاغْفُ عنِّی کی درخواست کر رہے ہیں کہ معاف کرنے کا محظوظ عمل ہم پر جاری کر دیجئے اور لوگ جب دور دراز سے بادشاہوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے مزاج کے موافق قیمتی ہدایا و تھائف لے کر آتے ہیں لیکن ہم تو ایسے بے ما یہ وہی دامن ہیں کہ ندامت کے چند آنسوؤں کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔

چند آنسو کے سوا کچھ مرے دامن میں نہیں

لوگ حیرت سے مرا زادِ سفر دیکھیں گے

لیکن آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا اور حدیث قدسی میں ہمیں خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا يُنِيبُ الْمُذَنبِينَ أَحَبُّ إِلَيْيَ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ﴾

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، سورۃ القدر، ج: ۳۰، ص: ۱۹۶)

گنجگاروں کی آہ و زاری مجھے نسبت پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محظوظ ہے اور یہی دلیل ہے کہ آپ ہمارے سچے اللہ ہیں۔ دنیوی بادشاہ تو اپنی تعریف کے محتاج ہیں کیونکہ تعریف سے ان کی عزت بڑھتی ہے چنانچہ اگر ان کو استقبالیہ دیا جا رہا ہو اور ان کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہوں اس وقت اگر کوئی مصیبت زدہ آکر رورو کر فریاد کرنے لگے تو اس کو بھگا دیتے ہیں کہ کہاں ہمارے رنگ میں بھنگ ڈال دیا لیکن اے اللہ! آپ اپنی تعریف و تسبیح و تحدیث سے بے نیاز ہیں کیونکہ اس سے آپ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا کے بادشاہ ایمان لا کر سجدہ میں گرجائیں اور دنیا میں ایک فرد بھی کافرنہ رہے تو آپ کی عظمت میں ایک ذرہ کی اضافہ نہیں ہو گا اور ساری دنیا کافرا اور آپ کی باغی ہو جائے تو آپ کی عظمت میں ایک ذرہ کی نہیں ہو گی۔ آپ مخلوق سے بے نیاز ہیں۔

پس اگر آپ کے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے لیکن مزاج شناس الوہیت سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مایوسیوں کے اندر ہیروں میں آفتاً امید طلوع فرمادیا کہ اگر تم سے گناہ ہو گئے تو تمہارا رب معاف کرنے کو محظوظ رکھتا ہے لہذا اس سے معافی مانگ

او اور کہو فاغفُ عَنِیْ کے معاف فرمانے کا محبوب عمل ہم پر جاری فرماد تھے۔ آپ کا محبوب عمل ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور فاغفُ عَنِیْ میں سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاءٰ تعقیبیہ لگادی کے معاف کرنے میں دیرینہ تکمیل، جلد معاف فرماد تھے، معاف کرنا جب آپ کو خود محبوب ہے تو جلد کرم فرمائیے۔ سجادۃ اللہ! جلبِ رحمتِ حق کے لیے کلامِ نبوت کیا بلیغ و جامع ہے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرُ الْخُلُقِ كُلِّهِمْ

(فغان روی صحیح ۳۹-۴۳)

حدیث نمبر ۵

﴿لَعْنَ اللَّهِ النَّاطِرَ وَالْمَنْظُورُ إِلَيْهِ﴾

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب النکاح، باب النظر الى المخطوبة، ص: ۲۷۰)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس شخص پر جو بد نظری کرے یا بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے۔ عبادات کے انوار کا تحفظ بھی سالک پر فرض ہے اور یہ فرض تب ادا ہو گا جب حسن کے ڈاؤں سے نظر کو بچاؤ گے۔ آپ میں سے اکثر تو تاجر اور بنس میں لوگ ہیں۔ بتائیے جتنا مال کمانا ضروری ہے اتنا ہی مال بچانا ضروری ہے یا نہیں؟ ان عورتوں کو دیکھنا ایسا ہے جیسے کوئی مالدار ڈاکو سے کہہ کے میرا سب مال لے جاؤ۔ بد نظری کرنے والا گویا حسینوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا تقویٰ کا نور تم لوگ لے لو۔ اس نے مرنے والوں پر اس حی و قیوم کی عظمت اور تعلق و محبت کی دولت کو گویا ضالع کر دیا۔ لہذا نیک اعمال سے دل میں جونور آر رہا ہے اس کو نظر بچا کر گناہوں سے نج کر محفوظ رکھنا ضروری ہے اور اگر شیطان کہے کہ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے تو اس وقت میرا شعر پڑھ دینا۔

ہم ایسی لذتوں کو قابلِ لعنت سمجھتے ہیں
کہ جن سے رب مرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے

اگر آپ نے اس عریانی کے ماحول میں آنکھوں کی حفاظت کر لی تو ایسا قوی نور دل میں پیدا ہو گا جو اڑا کر عرش والے مویٰ تک ان شاء اللہ پہنچا دے گا۔ اور اگر حفاظت نہ کی تو جونور حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بتائیے کیا فائدہ ہوا، وطن سے اتنی دور آئے، گھر بارچھوڑا، کار و بار چھوڑا، سفر کی مشقت اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت خرید لی کیونکہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے لَعْنَ اللَّهِ النَّاطِرَ وَالْمَنْظُورُ إِلَيْهِ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے آنکھوں کا زنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے زَنَى الْعَيْنِ النَّظَرُ۔ اور لعنت

کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو عورتیں نگلی پھر رہی ہیں اور اپنے کو دکھار رہی ہیں ان پر بھی لعنت بر س رہی ہے اور جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان پر بھی لعنت بر س رہی ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچو۔ پیروں کی بد دعا سے ڈرنے والو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کے صدقہ میں پیری ملتی ہے ان کی بد دعا سے لکناؤ رنا چاہیے۔ آپ نے بد دعا فرمائی ہے:

﴿لَعْنَ اللَّهِ النَّاطِرَ وَالْمُنْظُورُ إِلَيْهِ﴾

اے اللہ! اپنی رحمت سے ان سب کو محروم کر دے جو آپ کو چھوڑ کر غیروں پر مر رہے ہیں، جو غیروں کو دیکھ رہے ہیں اور خود کو غیروں کو دکھار رہے ہیں۔ یہ بے وفا ہیں، نالائق غلام ہیں جو آپ عیسے محسن اور پالنے والے کو چھوڑ کر عاجز اور بے وفا غلاموں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ (الاطاف ربانی، صفحہ: ۱۵۔ ۱۶)

حدیث پاک میں ہے:

﴿النِّسَاءُ حَجَائِلُ الشَّيْطَانِ﴾

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الرفاقت، ص: ۳۳۲)

عورتیں شیطان کا جاہل ہیں جن سے وہ گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ اس زمانے میں شیطان نے عورتوں کو بے پردہ کر کے قدم قدم پر یہ جاہل بچھا دیئے، ان کے گاہ اور بال دکھا کر پھر وبال میں بتلا کر دیتا ہے۔ منشایہ ہے کہ جتنی باتیں بھی اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں وہ سب شیطان کے دام و دانہ میں شامل ہیں خواہ وہ عورتیں ہوں خواہ حسین اڑکے ہوں خواہ حرام مال ہو وغیرہ۔ جس چیز سے بھی شہوت نفس سے مغلوب ہو کر گناہ میں بتلا ہو جائے وہی شیطان کا جاہل ہے اور اس زمانے میں چونکہ بے پردگی و عریانی عام ہے اس لیے شیطان کا سب سے بڑا جاہل حسین صورتیں ہیں۔ (درس مشنوی، صفحہ: ۲۷)

نامحرموں سے شرعی پرداہ کی تاکید

اب رہ گیا یہ سوال کہ کیا اپنے بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ڈش بھی نہ کھائیں۔ جیسا کہ آج کل بعض گھروں والے اس بے چارے پر طعن کرتے ہیں جو ڈاڑھی رکھ لیتا ہے اور گول ٹوپی پہن لیتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ کے حکم غرض بصر پر عمل کرتا ہے اور نامحرم یعنی اپنی بھائی، ممانی، چچی، پچازاد، خالہ زاد بہنوں وغیرہ سے اپنی آنکھوں کی احتیاط کرتا ہے اور ان کے قریب بھی نہیں بیٹھتا کیونکہ یہ حسن کا مرض ایسا ہے کہ اگر دس فٹ پر بھی بیٹھ رہا وہ معلوم ہو جائے کہ یہاں ایک نامحرم عورت ہے تو اس کی گرمی وہاں تک پہنچتی ہے۔ انگیٹھی کی گرمی حد و انگیٹھی تک نہیں رہتی، حد و انگیٹھی سے تجاوز کر کے دور تک پہنچنے میں کوشش اور روایاں دواں ہوتی ہیں۔ ورنہ دھوایا تو دیتی ہی ہے اور اللہ والے دھویں سے بھی

بچتے ہیں۔ بعض لوگ نادانی سے کہتے ہیں کہ ایک دسترخوان پر چار بھائی اور ان سب کی بیویاں بیٹھ جائیں۔ بھائی ایک طرف ہو جائیں اور بیویاں دوسری طرف ہو جائیں لیکن ذرا اس پر عمل کر کے دیکھو، اگر دل کو نقصان نہ پہنچ تو کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا:

﴿تُلَكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾

(سورة البقرة، آية: ۱۸۷)

قرآن پاک کی آیت ہے کہ گناہوں کی حدود سے بہت فاصلہ رکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی:

﴿اللَّهُمَّ بَايِعُدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَّايَىٰ كَمَا بَايَعْدَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب ما يقرأ بعد التكبير، ج: ۱، ص ۱۰۳)

اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دے۔ کیا مطلب؟ تعلیق محال بالحال ہے کہ نہ مشرق مغرب کبھی ملیں گے، نہ ہماری امت کے لوگ کبھی گناہوں سے منہ کالا کریں گے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کسی نے آپ کو غلط اور نامناسب جگہ مثلاناً محروم کے ساتھ دھنادیا تو آپ کیوں تسامح کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہیں، آپ نے کیوں فاصلہ نہیں رکھا، کیوں اس وقت آپ کو بھاگنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ یاد رکھو! شریعت کے حکم میں ماں باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ دخل اندازی کریں۔ بتاؤ ماں باپ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے۔ لہذا بیٹوں کو اپنے ماں باپ سے بہت بھی ادب کے ساتھ، بے ادبی سے نہیں، اکرام کے ساتھ میٹھی زبان میں کہہ دینا چاہیے کہ میری پیاری اماں، میرے پیارے ابا! ہمارے ربا کا حکم یہ ہے اس لیے ہم مجبور ہیں، آپ کا پاخانہ پیش اٹھانے کے لیے تیار ہوں، آپ پر جان مال فدا کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اے میرے ماں باپ! اللہ کی نافرمانی میں مجھے ڈال کر جہنم کے راستہ پر نہ لے جائے۔ فتویٰ لے لو تمام علمائے دین سے۔ اب کوئی کہے کہ گھر چھوٹا ہے، الگ الگ کھانے کے لیے اتنے کمرے نہیں تو اوقات یعنی ٹائم نگ بدلت دو۔ ایک وقت میں عورتیں کھالیں، اس کے بعد فوراً مرد کھالیں یا مرد پہلے کھالیں، عورتیں بعد میں کھالیں۔ ایک ہی وقت میں کھانا کیا ضروری ہے۔ کہیں جماعت سے کھانا واجب ہے، نماز جماعت سے واجب ہے یا کھانا بھی واجب ہے؟ خوب سن لو، خوب سن لو اور خوب سن لو۔ (ہم کس کو ملتے ہیں اور ہم کو کون پاتا ہے، صفحہ: ۱۳۴)

حدیث نمبر ۶

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْنُقْلِبُونَ ۝﴾

(صحیح مسلم، کتاب الحج، باب ما يقول اذارک)

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا پاک ہے وہ اللہ جس نے اس مرکب اور سواری کو ہمارے لیے سمجھ فرمادیا، ہمارے قبضہ اور کنٹرول میں کر دیا۔ جب یہ دعا سکھائی گئی اُس زمانہ میں اونٹوں اور گھوڑوں کی

سواری تھی اور اب کارا اور ہوائی جہاز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے جس نے اجزاءے بے جان کو جانداروں کے لیے مسخر فرمادیا کہ لوہا، لکڑی بھاپ وغیرہ بے جان چیزوں کو مسخر کرنے کی، اگر آپ کا کرم نہ ہوتا تو ہم ان کو اپنے قضاہ اور کنٹروں میں نہیں لاسکتے تھے۔ جانور بھی طاقت میں ہم سے زیادہ ہیں، وہ ہم کو زمین پر پٹک سکتے تھے اور کار اور ہوائی جہاز کا لوہا لکڑ پھٹ کر گر سکتا تھا لیکن اللہ کے کرم نے ان چیزوں کو ہمارے تالع کر دیا۔ لیکن عالیشان سواری پر بیٹھ کر شاندار گھوڑوں اور مر سیدیز پر بیٹھ کر تکبر نہ کرنا، آخرت کو نہ بھول جانا، سواری کی قیمت سے کہیں اپنی قیمت نہ لگالینا اور اپنے کو قیمتی نہ سمجھ لینا اس لیے کہو اَنَا إِلَى رَبِّنَا لَمْنُقْلِبُونَ ہم اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، سو وہاں ہماری قیمت لگے گی، وہاں ہمارا حساب ہو گا، غلاموں کی قیمت مالک لگاتا ہے، وہاں معلوم ہو گا کہ قیمتی گھوڑوں اور شاندار مر سیدیز پر بیٹھنے سے ہم قیمتی ہیں یا گناہوں کی وجہ سے سزا کے مستحق ہیں۔ جس سے مالک تعالیٰ شاندار ارضی ہو گا، ہی بندہ قیمتی ہو گا۔ گھوڑوں، مر سیدیز اور بینک بیلن سے ہماری کوئی قیمت نہیں۔

ہم ایسے رہے یاں کہ ویسے رہے
وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْنُقْلِبُونَ کا ربط اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا، میں نے یہ کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔

(اطافِ رباني، صفحہ: ۲۱-۲۰)

حدیث نمبر ۷

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ﴾

(مشکوٰۃ المصایبیح، کتاب الدعوات، باب ثواب التسبیح والتحمید، ص: ۲۰۲)

ترجمہ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے وقت یہ مراقبہ کریں کہ کلمہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ساتوں آسمان پار کر کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہے اور یہ کوئی جاہلانہ تصوف نہیں مدل بالحدیث ہے۔ فرمان نبوت کے مطابق تصوف کو مدلل پیش کرتا ہوں۔ جو تصوف قرآن و حدیث سے مدلل نہ ہو وہ تصوف ہی نہیں۔ مغلکوہ شریف کی روایت ہے، سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے یعنی لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ساتوں آسمان پار کر کے عرشِ اعظم ہی تک نہیں پہنچتا ربِ عرشِ اعظم سے متا ہے۔

سوچیں کہ لاَ إِلَهٌ سے سارا عالم ختم ہو گیا۔ ہم ہیں اور ہمارا اللہ ہے۔ آخر میں دعا کر لیں کہ ہم نے غیر اللہ کو دل سے نکالا لیکن اے اللہ! ہم سے کیا نکلے گا، ہم کمزور ہیں جس طرح کمزور پچھا بابا کو پکارتا ہے، بندہ کمزور ہے تو ربا کو پکارے کہ اے میرے ربا! آپ اپنی مذہبیج دیتھے اور غیر اللہ کو ہمارے قلب سے نکال دیتھے۔

حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزانہ سو بار لاَ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن چودھویں تاریخ کے چاند کے مثل چمکے گا۔ اس پر اگر کوئی کہے کہ ۱۰۰ ادفعہ لاَ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ پر اتنی بڑی بشارت ہے تو کوئی صرف لاَ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ پڑھتا رہے اور نماز روزہ نہ کرے اور گناہوں میں مبتلا رہے تو کیا لاَ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ سے پھر بھی اس کا چہرہ چمکے گا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ جو سو دفعہ لاَ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی لاج رکھتے ہوئے اس کو منہ اجلا کرنے والے اعمال کی توفیق اور منہ کا لامکرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس طرح قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کے مانند چمکے گا۔

چہرہ ترجمانِ دل ہوتا ہے۔ اگر دل میں اللہ اپنی تجلیاتِ خاصہ سے متعلق ہے تو چہرہ اللہ کا ترجمان ہوگا، اس کے چہرہ کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے گی جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

﴿إِذَا رأَوْا ذُكْرَ اللَّهِ﴾

(مسند احمد، مسند الشافعی)

اللَّهُوَ لَوْلَا جِنْ كَوْدِيْكَهْ كَرَاللَّهِ يَا دَاتَاهْ

اسی طرح اگر کسی شخص کے دل میں غیر اللہ ہے تو چہرہ ترجمانِ غیر اللہ ہوگا، دل میں اگر کفر ہے تو چہرہ ترجمانِ کفر ہوگا، دل میں اگر نفاق ہے تو چہرہ ترجمانِ نفاق ہوگا، دل میں اگر اللہ کی محبت کا درد ہے تو چہرہ ترجمانِ درد دل ہوگا اور اگر دل تجلیاتِ الہیہ کا حامل ہے تو چہرہ ترجمانِ تجلیاتِ الہیہ ہوگا۔ جو دل میں ہوگا چہرہ وہی بتائے گا۔ اسی لیے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو جو آپ کی مجلس میں بدنظری کر کے آیا تھا دیکھ کر فرمایا ما باُ أَفْوَاهٍ يَتَرَشَّحُ مِنْ أَعْيُنِهِمُ الزِّنَا کیا حال ہے ایسے لوگوں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹکپتا ہے۔

اس لیے کلمہ کی بنیاد ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ تم لاَ إِلَهٌ سے غیر اللہ کو دل سے نکال دو پھر إِلَّا اللَّهُ سے تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی تجلیاتِ خاصہ سے متعلق ہو گا تو پھر سارے عالم میں تمہارا چہرہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوگا اور ہر مومن سارے عالم میں ایمان پھیلا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے چہرہ کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ کلمہ کا یہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار عطا فرمایا۔ یہ میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ مجھے عجیب نادر موتی دے رہا ہے۔ (عطاءربانی، صفحہ: ۸۳-۸۹)

ذکر کا طریقہ

ذکر اللہ کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ حدیث کا مضمون ہے کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُوْنَ اللَّهِ بِنَدِهِ جَبْ زَمِينَ پُرْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَهْتَا ہے تو اس کی لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَرْشِ اعْظَمٍ پُرْ جَا کرْ بے جِبَابٍ اللَّهُ سے ملتی ہے۔ کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ تصوفِ مدلل بالحدیث ہے۔ یعنی لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ عرشِ اعظم تک اور اللہ تک جاتی ہے۔ اللہ سے ملاقات کرتی ہے کیوں صاحبو اور اللہ کا ذکر کرنے والے دوستو! کیا تصور میں یہ مزہ نہیں ہے کہ ہم تو نہیں پہنچ مگر ہمارا ذکر اللہ تک اور عرشِ اعظم تک پہنچ جائے ساتوں آسمان عبور کر کے۔

مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ترجمان السنۃ میں لکھتے ہیں کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَی رفتار اور کاٹ اتنی تیز ہے کہ ساتوں آسمان پار کر کے عرشِ اعظم پر اللہ سے ملتی ہے، اگر اللہ کو عرشِ اعظم پر نہ پاتی تو عرشِ اعظم سے بھی آگے بڑھ جاتی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے۔

نظر وہ ہے جو اس کون دمکاں کے پار ہو جائے
مگر جب روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے

یہ لا إِلَهَ كَادَ ذَكْرَهُو گیا اور لا إِلَهَ میں یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ستون ہمارے قلب میں لگا ہوا ہے اور عرشِ اعظم سے نور آ رہا ہے اور اللہ اللہ میں دو ضربیں ایک لطیفہ قلب پر اور ایک لطیفہ روح پر ہو۔ آخر میں جو ایک اللہ کی تسبیح ہے اس میں یہ تصور ہو کہ میرے بال بال اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ طریقہ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں بتایا کہ مولانا عبدالغنی اللہ اللہ اس طرح کہو کہ زبان سے اللہ نکلا اور دل سے بھی نکلا اور کھینچ کر کہو اللہ اور آہ بھی شامل کرلو اور یہ تصور کرو کہ میرے بال بال سے، ذرہ ذرہ سے، سمندر کے ہر قطرہ سے، درختوں کے ہر پتہ سے اور عالم کے ایک ایک ذرہ سے اور سورج اور چاند سب ہمارے ساتھ اللہ کہتے ہیں۔ (مجلس ذکر، صفحہ: ۱۷-۱۶)

ذکر کے بعد دعا

اور ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا کرے کہ یا اللہ! اس ذکر کی برکت سے ذا کر کو مذکور تک پہنچا دے یعنی اپنی ذات تک مجھے پہنچا دے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ذکر، ذا کر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ ذال، کاف، راء، ذا کر میں بھی ہے مذکور میں بھی ہے، یہ ذکر بواسطہ اور اباطہ ہے بنہ اور اللہ کے درمیان۔ (مجلس ذکر، صفحہ: ۱۹)

حدیث نمبر ۸

﴿اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي﴾

(سنن الترمذی، کتاب الدعوات)

ترجمہ: اے اللہ! مجھ پر ایسی رحمت نازل فرماد تجھے کہ جس سے تمام گناہ چھوٹ جائیں۔

رحمت حق اور محرومی از رحمت حق کے دلائل منصوصہ

گناہ بُری چیز ہے اور بُری چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے۔ جیسے اگر کپڑے میں کہیں پاغانہ لگ جائے تو جلدی سے صاف کرتے ہو کہ نہیں؟ لیکن آج کل لوگوں سے ایک بدنظری ہوتی ہے تو جلد تو نہیں کرتے۔ شیطان کہتا ہے ابھی تو راستے میں بہت سی شکلیں نظر آئیں گی سب کو خوب دیکھ بحال لو، شام کو گھر جانا، جب سورج غروب ہو جائے تو اندھیرے میں رو دھو کر خوب تلافی کر دینا۔ اجالوں میں اندھیرے کام کرو اور اندھیرے میں اجائے کام کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص خوش نصیب ہے اور اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ محروم رحمت الہیہ نہیں ہے تو ان شاء اللہ ایک سینڈ بھی برداشت نہیں کرے گا، صدور خطا کے بعد فوراً حق تعالیٰ سے استغفار و توبہ کر کے مور دعطا ہو جائے گا۔ جو لوگ تسلسل کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہیں اور توبہ واستغفار کر کے اپنے کو صاف نہیں کرتے یہ حق تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے محروم ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ **اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي** اے اللہ! مجھے وہ رحمت عطا فرمائیے جس سے میں گناہ چھوڑ دوں۔ معلوم ہوا کہ گناہ چھوڑنا اللہ کی رحمت کی دلیل ہے اور نفس کے شر سے وہی نفع سکتا ہے جو اللہ کی رحمت کے سامنے میں ہوگا۔ اس کی دلیل **إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي** ہے۔ یہ آتشی اللہ تعالیٰ کا ہے، خالق نفس امارہ کا آتشی ہے۔ نفس امارہ کے معنی ہیں کثیر الامر بالسوء جس کا ہندی ترجمہ میں نے کیا ہے کہ مہاؤ شست یعنی زبردست خطرناک، انتہائی خراب اور السوء میں الف لام اسم جنس کا ہے۔ جس وہ گلی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہو یعنی زمانہ نزول قرآن سے لے کر قیامت تک گناہ کے جتنے بھی انواع و اقسام ایجاد ہوں گے سب اسسوء میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت تو دیکھئے کہ الف لام جنس کا داخل فرمایا کر قیامت تک ہونے والے تمام گناہ ٹوی، وی سی آر، ڈش انٹینا کی بد معاشریاں، اماڑا اور کتوں سے شادیاں وغیرہ وغیرہ سب اس میں شامل ہیں لیکن **إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي** جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے میں رہے گا وہ نفس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ الہذا جس کو دیکھو کہ نفس کے شر سے محفوظ ہے، گناہوں میں مبتلا نہیں تو سمجھ لو کہ یہ سایہ رحمت الہیہ میں ہے اور اس سایہ میں آپ بھی بیٹھ جائیے۔

مطلوب یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہو کیونکہ وہ لوگ سایہِ رحمتِ الہیہ میں ہیں۔ دلیل وہی ہے جو اور پر بیان ہوتی کہ وہ لوگ نفس کے شر سے محفوظ ہیں اور اگر کبھی بر بنائے غلبہ بشریت ان سے خطا ہو جائے تو ان کی ندامت اور استغفار کا بھی وہ مقام ہوتا ہے کہ عوام الناس اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو مقرب ہوتے ہیں، عظیم الشان قرب جن کو عطا ہوتا ہے ان کی ندامت بھی عظیم الشان ہوتی ہے، ان کے آنسو بھی عظیم الشان ہوتے ہیں، جس مقام سے وہ استغفار و توبہ کرتے ہیں عوام کو اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی، اللہ کے حضور میں وہ جگر کا خون پیش کرتے ہیں۔

آخر جوبات پیش کر رہا ہے یہ حاصل سلوک اور اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے اس مقام تک پہنچانے والی ہے۔ جان لو، مان لو اور ٹھان لو کہ ایک لمحہ کو خدا کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ گناہ نہ کرنے سے بالفرض اگر جان جاتی ہے تو جان فدا کر دو۔

مبارک ہے وہ جان جو اللہ پر فدا ہو، مبارک ہے وہ جوانی جو خدا پر فدا ہو، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہیں۔ باقی جتنے کام خدا کی مرضی کے خلاف ہیں وہ مومن کے لیے خسارہ ہیں۔ بس میری سارے عالم میں یہی صدا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کو خوش رکھو اور ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناخوش کر کے حرام خوشی اپنے قلب نفس میں نہ لاؤ۔ یہ غیرت بندگی کے بھی خلاف ہے، حیا کے بھی خلاف ہے، شرافت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے اپنے نفس میں حرام خوشی لانے والے سے بڑھ کر کوئی بے غیرت کمینہ ناشکرا اور بین الاقوامی احمق نہیں ہے کیونکہ اتنی بڑی طاقت والے مالک کو ناراض کر کے اپنے نفس دشمن کو خوش کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی صفت، ذوالانتقام کا ظہور ہو جائے تو یہ کیا کر سکتا ہے۔ (افضالِ ربی، صفحہ: ۲۵-۲۸)

ترکِ معاصی دلیلِ رحمت اور معصیت ذریعہٗ شقاوت

چند دن کی فانی لذتوں کے لیے اپنے اللہ کو غضب ناک نہ کرو دوستو! اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم کرے بہت بڑی رحمت ہے جو گناہ سے فجح جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استقامت کے لیے دو دعا میں سکھائی ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجئے اللہُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي اے اللہ! ہم پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا ہو جائے، اے اللہ! وہ رحمت دے دے ہم کو جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں، آپ کو ناراض کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے وَلَا تُشَقِّي بِمَعْصِيَتِكَ اور اپنی نافرمانی سے مجھ کو بد نصیب اور بد بخت نہ بنائیے۔ یہ دعا تاریخی ہے کہ گنہگار انسان سخت خطرے میں ہے اور کسی وقت وہ بد نصیب اور سوئے خاتمہ میں مبتلا اور خدا کے قہر میں گرفتار ہو سکتا ہے ورنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ الفاظ کیوں استعمال فرماتے؟ اہل علم سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں یہ مضمون کیا بتا

رہا ہے؟ کہ اے خدا مجھ کو اپنی نافرمانی سے بد بخت نہ بنائیے۔ معلوم ہوا کہ گناہ میں خاصیت موجود ہے بد بختی اور بد نصیبی کی اگر تو بہ نہ کی تو کتنے لوگ بصورتِ بازیزید تنگ یزید ہو کر مر گئے، وہیں دھر لیے گئے، فرشتوں نے عذاب میں انہیں دبالیا۔ یہ دو دعائیں یاد کر لیجئے:

(۱) اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي اے خدا ہم پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے معصیت کو، گناہ کو چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، رو باہیت شیریت سے بدل جائے، ہمت میں ہم لومڑی ہیں اگرچہ صورت میں شیر ہیں۔ دنیاوی معاملات میں تو ایسا غصہ آئے گا کہ ان سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں لیکن نفس کی اتباع اور غلامی میں اس شخص سے بڑھ کر کوئی کمینہ کوئی بزدل نہیں ہے، ایسے لوگوں سے اگر اللہ تعالیٰ ستاریت کا پردہ ہٹا دے تو پتہ چل جائے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کمینہ کوئی بزدل نہیں ہے۔ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے آپ گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا کرتے ہیں۔ لومڑیوں کو شیر بنا دیتے ہیں رو باہ طریق کو شیر طریق بنا دیتے ہیں اور دوسرا دعا ہے:

(۲) وَ لَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ اور اپنی نافرمانی اور گناہوں سے ہم کو بد نصیب نہ بنا معلوم ہوا کہ گناہ میں شقاوت اور بد بختی کی خاصیت ہے ورنہ اگر معصیت میں یہ خاصیت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے کیوں پناہ مانگی؟ دوستو! ہمت سے کام لو، ڈھیلے مت بنو، ڈھیلا ہوا کہ ڈھیلا ہوا۔ اللہ نے ہمت دی ہے، ہمت پور نہ بنو، میں قسم کھا کر کھتا ہوں کہ جس نے ہمت کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو چالیس چالیس برس تک ایک گناہ کی عادت تھی، ہمت سے کام لیا، نجات پا گئے۔ (تجیاتِ جذب، حصہ سوم، ص ۲۵-۲۶)

حدیث نمبر ۹

﴿أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب سؤال جربیل الیبی عن الایمان والاسلام، ج: ۱، ص: ۱۲)

ترجمہ: تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔

کیفیتِ احسانی کے انعامات اور طریقہ تحصیل

حضر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَكَ تَرَاهُ اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ تم اگر اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ احسانی کیفیت کے درجے ہیں (۱) تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں

اور (۲) کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں مگر قطب العالم حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا درجہ جو ہے وہ اس مراقبہ کی علت ہے لہذا یہ درجہ نہیں ہیں ایک ہی درجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ رہا ہے تو گویا ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں کائنات کا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کائنات کا کاف نکال دیں گے وہاں آنکے سے دیکھو گے۔ دنیا میں آنکھیں بنائی جائیں ہیں ایمان، تقویٰ اور غم تقویٰ سے یعنی حصول تقویٰ میں بندہ جو مجاہدات اور حسرت اور غم اٹھاتا ہے اور خون تنما پیتا ہے اسی خون تنما سے آنکھیں بنائی جائیں اور جب آنکھیں بنائی جاتی ہیں تو پڑی بندھی رہتی ہے، اس وقت دیکھنے کی ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا اور جب روشنی آ جاتی ہے تو پڑی ہٹادی جاتی ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ یہ پڑی ہٹادیں گے۔ وہاں کاف کی پڑی ہٹادی جائے گی پھر آنکے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ یہ تقریر میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو ایک واسطے سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں اس احسانی کیفیت کو بیان

فرمایا ہے کہ احسان کیا ہے؟ فرماتے ہیں:

﴿أَن يَغْلِبَ عَلَيْهِ مُشَاهَدَةُ الْحَقِّ بِقَلْبِهِ حَتَّى كَانَهُ يَرَاهُ بِعَيْنِهِ﴾

(فتح الباری لابن حجر، کتاب الایمان، باب مسوال جبرئیل النبی ﷺ عن الایمان، ج: ۱، ص: ۱۲۰)

یعنی مشاہدہ حق ایسا غالباً ہو جائے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔

اس کیفیت کو مدارس سے، کتابوں سے، تبلیغ سے، تدریس سے کوئی نہیں پاسکتا۔ یہ کیفیت صرف اور صرف اہل اللہ کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے۔ کیفیات کے حامل قلوب ہوتے ہیں، تو الاب اور اوراقِ کتب نہیں ہوتے۔ کتابوں سے یہ چیز نہیں مل سکتی۔ کیا تشریعہ کتابوں سے ملتی ہیں لیکن کیفیات احسانیہ کے حامل اور اوراقِ کتب نہیں ہو سکتے۔ یہ کیفیات احسانیہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں لہذا جب شیخ کے پاس جاؤ تو اضافہ علم کی نیت نہ کرو، کیفیت احسانیہ کی ترقی کی نیت کرنا چاہیے۔ اعمال کی ترقی اور تقویت احسان پر موقوف ہے کیت پر موقوف نہیں جیسے جہاز میں لوہا کم ہوتا ہے اس کا جنم بھی کم ہوتا ہے اور میل کا لوہا اور جنم زیادہ ہوتا ہے لیکن جہاز چھوٹا ہو چاہے ڈکوٹہ ہی ہو لیکن اپنی آسٹیم کی کیفیت کی وجہ سے یہاں سے چند گھنٹوں میں جدہ پہنچ جائے گا جبکہ ریل کو پہنچنے میں کئی دن لگ جائیں گے۔ لہذا اپنے بزرگوں کی خدمت میں ہم جائیں تو یہ نیت کریں کہ کیفیت کی آسٹیم لینے جا رہے ہیں کیونکہ اگر علم کی نیت کی تو ممکن ہے وہاں ایک علم کی بار بار تکرار ہو۔ اس تکرار سے بعض نادان گھبرا تے ہیں کہ میاں وہاں تو ایک ہی بات کو بار بار بیان کرتے ہیں ایسا سمجھنا سخت نادانی ہے تکرار علم قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، ایک ہی

آیت کتنی جگہ نازل ہوئی ہے۔ تکرارِ علم دلیل شفقت ہے۔ باپ اپنے بیٹوں سے بار بار کہتا ہے کہ بیٹا اس لگلی سے نہ جانا وہاں غلط قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ پھر دو تین دن کے بعد یہی کہتا ہے۔ بار بار ایک ہی آیت کا نزول حق تعالیٰ شانہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ ایسے ہی شیخ اور مرتبی پر رحمت کا غالبہ ہوتا ہے تو بار بار کہتا ہے کہ دیکھو نظر بچانا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ تکرارِ غذائے جسمانی میں آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہوتا۔ روزانہ چائے پینتے ہو۔ یہاں کیوں نہیں کہتے کہ میاں کل بھی چائے پلائی آج پھر پلار ہے ہو۔ جس طرح تکرارِ غذائے جسمانیہ احباب ہے اگر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو تکرارِ علوم روحانیہ سے بھی مزہ آنے لگے گا۔

اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کی مجلس میں جو سنتے ہیں ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہمارا حافظہ کمزور ہے ہمارے پلے تو کچھ پڑتا ہی نہیں لہذا وہاں جانا بے کار ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تب بھی فائدہ ہوتا ہے جیسے دو تین پلے ہم نے کیا کھایا تھا یاد نہیں رہتا لیکن اس غذائے جو خون بنا وہ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے تو جس طرح نسیانِ غذائے فوائدِ غذائی کا فقران لازم نہیں آتا اسی طرح شیخ کی مجلس میں اس کے علوم و ملفوظات جو سنبھالے ہوں پلائی رہیں لیکن ان سے جو نور پیدا ہو گا وہ نور ہماری رگوں میں دوڑتا رہے گا کیونکہ قلب جہاں جسم میں خون سپلانی کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا نور بھی سپلانی کرتا ہے، وہ خون جب آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے تو ساتھ ہی قلب سے آنکھوں میں اللہ کا نور بھی داخل ہوتا ہے۔ پھر اس کی آنکھوں کو کچھ اور نظر آتا ہے۔ جب نسبت عطا ہوتی ہے تو اس کے زمین و آسمان بدل جاتے ہیں، یہ زمین و آسمان تو کافر بھی دیکھتا ہے لیکن اللہ والوں کے زمین اور آسمان، سورج اور چاند کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔

اب وہ زماں نہ وہ مکاں اب وہ زمیں نہ آسمان

تو نے جہاں بدل دیا آ کے مری نگاہ میں

لہذا جب اپنے بزرگوں کے پاس جائے تو یہ نیت نہ کرے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو گا، معلومات بڑھیں گی بلکہ یہ مراقبہ کرے کہ ان کی احسانی کیفیت، ان کا ایمان و یقین اور ان کا تقویٰ و خشیت اور اللہ سے ان کی محبت ہمارے قلوب میں منتقل ہو رہی ہے اور اس انتقالی نسبت کی کیا صورت ہوتی ہے؟ اس کو مولا نارومی بیان فرماتے ہیں۔

کہ ز دل تا دل یقین روزن بود

نے جدا و دور چوں دو تن بود

دولوں سے دولوں میں خفیہ راستے ہیں جیسے جسم الگ الگ ہیں لیکن دل الگ الگ نہیں ہوتے۔ قلوب میں آپس میں روابط ہوتے ہیں جو ضوابط سے بالاتر ہوتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں۔

متصل نبود سفال دو چراغ

نویر شان ممزوج باشد در مساغ

دو چراغ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، ایک بلب وہاں جل رہا ہے ایک بیہاں جل رہا ہے۔ دس چراغ جل رہے ہیں ان کے جسم تو الگ الگ ہیں لیکن ان کی روشنی فضائیں مخلوط ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس

لیے جہاں دس ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں نور بڑھ جائے گا۔

بست مصباح از یکے روشن تراست

کہیں ایک چراغ جل رہا ہوا رکھیں بیس چراغ جل رہے ہوں تو بیس چراغوں کی روشنی زیادہ ہوگی۔ لہذا صالحین اور نیک بندوں کے اجتماع کو معمولی نہ سمجھیں۔ ان کی مجلس میں ایمان و یقین کی روشنی بڑھ جائے گی۔ کمزور کمزور بلب اگر قریب قریب جل رہے ہوں تو روشنی بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ جب صالحین کی صحبت نفع سے خالی نہیں تو اولیاء کاملین کی مجلس کیسے بے فیض ہو سکتی ہے لیکن اس میں ارادہ اور اخلاص کو بہت دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یُرِیدُونَ وَجْهَهُ کی قید لگا دی کہ فیضان نبوت ان ہی لوگوں کو ملتا ہے جو یَدُعُونَ رَبَّهُمْ ہیں یعنی مجھے یاد کرتے ہیں لیکن وہ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ بھی ہیں ان کے قلب میں، میں مراد ہوں۔ پس اصلی مرید وہ ہے جس کے قلب کی مراد اللہ ہو ورنہ وہ مرید نہیں ہے لہذا اس کی فکر کیجئے، بار بار اپنے قلب کا جائزہ لو کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ کس لیے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو سیاحی مقصود ہے کہ مختلف شہروں کو دیکھیں گے اور مختلف دسترخوانوں کا ذائقہ چکھیں گے تو وہ اللہ کا مرید نہیں ہے وہ تو مریدِ غذاء ہے، مریدِ چثارہ ہے، مریدِ سیاحی ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں یُرِیدُونَ وَجْهَهُ قرآن پاک کی آیت ہے کہ میں انہیں کو ملتا ہوں جن کے دل میں، میں مراد ہوتا ہوں وہ مجھ کو پیار کرتے ہیں، میں ان کو پیار کرتا ہوں۔

تو دل میں صرف اللہ مراد ہو پھر صاحبِ نسبت شیخ کے پاس بیٹھو تو اس کی کیفیتِ احسانی، ایمان و یقین و حضورِ مع الحق آپ کے دل میں منتقل ہو جائے گا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے بزرگوں سے یہ احسانی کیفیت ملنے سے پھر آپ کی دور کعات ایک لاکھ کعات کے برابر ہو جائیں گی اور اپنے بزرگوں کے بارے میں یہی حسنِ ظن رکھیں کہ ان کی دور کعات ہماری ایک لاکھ کعات سے افضل ہیں، ان کا ایک سجدہ ہمارے لاکھ سجدے سے افضل ہے، ان کا ایک اللہ کہنا ہمارے ایک لاکھ اللہ کہنے سے افضل ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے حضرت صدقیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں بھیج دیں اور ان کی مجلس میں اس امت کے تمام صحابہ اور اُمم سابقہ کے تمام صحابہ اور اس امت

کے تمام اکابر اولیاء اللہ اور امم سابقہ کے تمام اولیاء اللہ موجود ہوں اور حضرت صدیق اکابر ایک بار اللہ کہیں اور تمام صحابہ اور اولیاء اللہ ایک بار اللہ کہیں تو بتائیے حضرت صدیق اکابر کا اللہ سب سے بڑھ جائے گا یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت صدیق اکابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کیفیتِ احسانی حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ معلوم ہوا کہ کیفیتِ احسانیہ اصل چیز ہے۔ جس کی کیفیتِ احسانی جتنی قوی ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کا عمل مقبول ہوتا ہے اور جس کو یہ کیفیت جتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے اتنی ہی تیزی سے وہ اللہ کا راستہ طے کرتا ہے جیسے بعض جہاز چھ گھنٹے میں جدہ پہنچتے ہیں اور بعض تین گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں بوجہ زیادہ اسٹیم کے۔ جس کی احسانی کیفیت قوی ہوتی ہے اس کی رفتارِ سلوک میں بہت تیزی آ جاتی ہے وہ بہت جلد اللہ تک پہنچتا ہے اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی تہنیاں یوں کی عبادتوں سے لاکھ درجہ بہتر سمجھو کر کسی صاحب نسبت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ وہاں تمہیں پکی پکائی مل جائے گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر سیب خریدنا ہو تو بازار اور منڈی سے مت خریدو سیب کے باغ میں چلے جاؤ۔ بازار میں تو باسی اور گلاسر سڑا سیب ملے گا اور بازار کے گرد غبار اور دھوپ کی گرمی سے الگ سابقہ بڑے گا اور باغ میں تازہ تازہ سیب پا جاؤ گے۔ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا گویا سیب کے باغ میں بیٹھنا ہے، اگر ان کے یہاں سوتے بھی رہو گے تو ان کی نسبت مع اللہ کے سیب کی خوبی ملتی رہے گی۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحنف صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کی رانی کے نیچے چار پائی بچھا کرسو جائے تو صبح جب اُٹھنے کا تودما غنا ملے گا۔

اسی طرح اولیاء اللہ کی خانقاہوں میں اگر کوئی سو بھی جائے، تہجد بھی نہ پڑھے تو بھی قلب میں نور پہنچ جائے گا۔ سائنس دانوں کے نزدیک تو انسانوں کی سائنس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتی ہے لیکن انہیں علیہم السلام کی سائنس میں اور اولیاء اللہ کی سائنس میں صرف کاربن ڈائی آکسائیڈ نہیں ہوتی ان کے پا کیزہ انوار کو سائنس دان کیا جائیں۔ افلاس نبوت، صحابہ ساز ہوتے ہیں اور افلاس اولیاء اولیاء ساز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے قلب میں اللہ کا نور بھرا ہوا ہے۔ جلنے پھنسنے دل سے جو سائنس نکلتی ہے اس میں وہ انوار شامل ہوتے ہیں جو دوسرے دلوں میں نفوذ کر جاتے ہیں۔

لیکن صحبتِ اہل اللہ کے باوجود جن لوگوں کے سلوک میں دیر ہو رہی ہے، وصولِ اہل اللہ، نصیب نہیں ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہیں۔ ذکر بھی کرتے ہیں لیکن ذکر سے جہاں نور پیدا ہوا پھر بد نظری کر کے یا کوئی گناہ کر کے اسے بجھا دیا۔ مولانا رومی نے اس کی عجیب مثال دی ہے ایک حکایت سے۔ دو چور ایک گھر میں داخل ہوئے۔ آٹھ سو سال پہلے کی حکایت بیان فرمائی ہے۔ جب دو چھماق پھر کوآپس میں رگڑ کر اندر ہیرے میں روشنی کی جاتی تھی۔ دونوں میں آپس میں یہ طے ہوا کہ ایک تو مال لوٹے گا اور دوسرا

یہ کام کرے گا کہ مکان جب روشنی کے لیے پھر رگڑے گا تو تم اس روشنی پر انگلی رکھتے رہنا تاکہ روشنی نہ ہونے پائے اور مالک مکان دیکھنے نہ پائے۔ چنانچہ مالک مکان کو شہبہ ہوا کہ گھر میں چور آگئے ہیں اور چوری ہو رہی ہے تو اس نے چماق رگڑا کہ روشنی ہوتا دوسرے چور نے اس پر انگلی رکھ دی۔ جب وہ پھر کو رگڑ کروشنی کرنا چاہتا تھا چور اس پر انگلی رکھ دیتا تھا اور روشنی بجھ جاتی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ شیطان بھی اسی طرح بعض سالگین کے نور پر انگلیاں رکھ رہا ہے۔ جب سالک نے اللہ اللہ کیا، تلاوت کی شیطان نے فوراً اس کی آنکھوں سے کسی عورت کو دکھادیا، کسی لڑکے کے عشق میں مبتلا کر دیا، دل میں گندے خیالات میں مبتلا کر دیا۔ لہذا گناہوں کی وجہ سے او مستقل نافرمانی کے سبب عمر گز رگئی اور یہ شخص صاحبِ نسبت نہ ہو سکا۔ حالانکہ رات دن خانقاہوں میں ہے، اولیاء اللہ کے جھرمٹ میں رہتا ہے، ابدال اور اقاطیب کے ساتھ رہتا ہے، ذکر و تلاوت بھی کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا اس لیے اس کا نور تام نہیں ہوتا اور یہ محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا جو شخص چاہے کہ اس کا نور تام ہو جائے اور وہ اللہ والا ہو جائے وہ گناہ سے ایسے بچ جیسے کسی خوبصورت سانپ سے بچتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ سے اس لیے بھی بچوکہ گناہ ہم کو محبوب حقیقی تعالیٰ شانہ سے دور کرتا ہے۔ مولانا رومی نے کتنے درد سے یہ دعا مانگی ہے۔

یارِ شب را روزِ ہبھوری مدد

جن کو اے اللہ آپ نے راتوں میں اپنی یاد کی توفیق دی ان کو جدائی کا دن نہ دکھائیے یعنی رات میں جنہوں نے اللہ اللہ کیا تجد پڑھی آپ کو یاد کیا اے اللہ دن میں ان کو گناہ سے بچائیے۔ ایسا نہ ہو کہ دن میں ہم آپ کی عظمتوں کے خلاف اپنی بندگی کو استعمال کر لیں، اپنی نگاہوں سے آپ کی مرضی کے خلاف دیکھ لیں۔ کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں حق ادا کر لیجئے اور ولی اللہ بن جائیے۔ (انفال ربانی، صفحہ: ۲۲-۳۲)

حدیث نمبر ۱۰

﴿اللَّهُمَّ ارْضِنَا وَ ارْضِ عَنَّا﴾

(سنن الترمذی، کتاب الشیسیر عن رسول الله ﷺ، سورۃ المؤمنون، ج: ۲، ص: ۱۵۰)

ترجمہ: اے اللہ! آپ ہم کو خوش کر دیجئے اور ہم سے خوش ہو جائیے۔

حدیث اللہُمَّ ارْضِنَا.....الخ کی تشریع کی الہامی تمثیل

حدیث پاک کی دعا ہے اللہُمَّ ارْضِنَا وَ ارْضِ عَنَّا اللہ! آپ ہم کو خوش کر دیجئے اور ہم

سے خوش ہو جائیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا میں بندہ کی خوشی کو مقدم فرمایا اور اللہ کی خوشی کو موئخر فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ علومِ نبوت قرآن پاک سے ماخوذ اور مقتبس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا يُحِبُّ الَّذِينَ آتَاهُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

(سورة الفجر، آیہ: ۲۸)

اے اطمینان والی روح! تو اپنے رب کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ بندہ کی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مقدم فرمایا اور اپنی خوشی کو موئخر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں وہی ترتیب رکھی جو قرآن پاک میں نازل ہے الہذا یہ حدیث قرآن پاک کی اس آیت سے مقتبس ہے۔

علامہ آلوی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک سوال قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی تو اعلیٰ چیز ہے اور بندوں کی خوشی اس کے مقابلہ میں ادنیٰ چیز ہے تو پھر بندوں کی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مقدم کیا؟ اس کا جواب خود علامہ آلوی نے دیا کہ اس کا نام ہے **الترقیٰ من الادنىٰ إلی الاعلىٰ** کہ ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف دی جاتی ہے جیسے اسٹر کے طالب علم کو بی اے میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمائی کہ بھی ابا اپنے چھوٹے بچے کو لڑو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش ہو جا اور میں بھی تجھ سے خوش ہوں جب ہی تو یہ لڑو دیا ہے، اگر ناراض ہوتا تو کیوں دیتا۔ تو جس طرح ابا اپنی خوشی کو موئخر کرتا ہے اور بچہ کی رعایت سے اس کی خوشی کو مقدم کرتا ہے تو جب ابا کی شفقت کا یہ تقاضا ہے تو ہمارے ربانے بھی ہمارا دل خوش کرنے کے لیے ہماری خوشی کو پہلے بیان کر دیا۔ وہاں شفقت پدری ہے اور یہ شفقت ربوبیت ہے اور ماں باپ کہاں سے شفقت لائیں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت کا ظہور ہے۔ مولانا رومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں۔

مادران را مہر من آموختم

اے ماوں کی محبت پر نازکرنے والو! ماوں کو محبت کرنا تو میں نے ہی سکھایا ہے، اگر میں ان کے جگر میں محبت نہ ڈالتا تو یہ کہاں سے محبت لاتیں تو سوچو کہ پھر میری رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو ایک حصہ رحمت کا ظہور ہے جس سے سارے عالم میں مخلوق ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہے، ننانوے حصہ رحمت تو میرے پاس ہے جس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاج شناسِ الوہیت کون ہو سکتا ہے الہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی اتباع میں اسی ترتیب سے دعائیں کی کہ اے اللہ آپ ہمیں خوش کر دیجئے اور ہم سے خوش ہو جائیے۔ آہ! بچہ یہی کہتا ہے کہ ابا ہم کو خوش کر دیجئے اور آپ بھی خوش ہو جائیے۔

اور ایک دعا یہ بھی کرتا ہوں اور سکھاتا بھی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی خوشی مانگو تو یوں کہو کہ اے

اللَّهُمَّ تُوَآپَ كُوْخُوشِ نَبِيِّنَ كَرْسَكَ بِعِجَمِ اپْنِي نَالَتْقِيَ اور ضَعْفِ بَشَرِيَتِ کے لیکن آپ ہم کو خوش کر دیجئے کہ آپ ہماری طرف سے خوشیوں سے بے نیاز ہیں الہذا اگر آپ ہمیں خوش نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے خوشی پائیں گے کیونکہ آپ کے سوا ہمارا کوئی دوسرا مولیٰ بھی تو نہیں۔ آپ کے سوا ہمارا ہے ہی کون۔ (افضال ربانی، صفحہ: ۷۹۔ ۷۸)

حدیث نمبر ۱۱

﴿سَبَعَةُ يُظْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعْلَقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ الْخَ﴾

(صحیح البخاری، کتاب المحاربين، باب فضل من ترك الفواحش، ج: ۲، ص: ۱۰۰۵)

ترجمہ: سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن سوائے اس کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا، ان میں پہلا شخص ہے امام عادل۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں انکار ہے۔ اور وہ جوان جو اپنے عالم شباب کو اللہ پر فرا کر دے۔

امام عادل کی عجیب الہامی شرح

حدیث پاک میں ہے سَبَعَةُ يُظْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن سوائے اس کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں پہلا شخص ہے امام عادل۔ آپ کہیں گے کہ اس حصہ کو تو ہم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ امام عادل کے معنی ہیں سلطان، بادشاہ اور امیر المؤمنین۔ ہم لوگ کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں الہذا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بدرا الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شراح حدیث نے ایک ایسا نکتہ بتایا کہ ہم سب کے سب اس صفت میں شامل ہو سکتے ہیں اور گھر کا ہر بڑا شخص اپنے گھر کا امام ہے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً حَكِيمًا حَلِيمًا لِامْلَاتِ تَحَانُوِي رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں متقویوں کی امامت مقصود نہیں ہے بلکہ یہ کہنا ہے کہ اے اللہ ہم اپنے گھر کے امام تو ہیں ہی لیکن اگر میرے گھروالے نافرمان رہیں گے تو میں امام الفاسقین رہوں گا اور اگر آپ میرے گھروالوں کو نیک متقي اور نمازی بناویں تو میں امام المتقین ہوں گا۔ تو ہر بڑا پنے گھر میں عدل قائم کرے جو اپنے چھوٹوں پر، قبیعنی پر عدل قائم کرے گا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔

اس حدیث کی شرح میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون میرے قلب کو عطا فرمایا کہ ہر انسان کے پاس دو گز کی مملکت موجود ہے جس میں دارالسلطنت بھی ہے اور صوبے بھی ہیں۔ دل دارالسلطنت ہے، آنکھوں کا صوبہ ہے، کانوں کا صوبہ ہے، زبان کا صوبہ ہے الہذا جو سر سے پیر تک اپنی دو گز کی مملکت پر اللہ کی مرضی کے

مطابق عدل قائم کر دے یہ بھی امامِ عادل میں داخل ہو جائے گا۔ عدل کیا چیز ہے؟ عدل کو اس کے تضاد سے سمجھئے کیونکہ تُعرَفُ الْأَشْيَاءُ بِاَضْدَادِهَا ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کو پہچاننے کے لیے رات کی ضرورت ہے، ایمان کو پہچاننے کے لیے کفر ہے، گرمی کو پہچاننے کے لیے سردی کی ضرورت ہے، عدل کی پہچان ظلم سے ہوتی ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو ظلم ہے۔ جو اپنی نظر وں کو نافرمانی سے نہیں بچاتا یہ ظالم ہے عادل نہیں ہے، جو اپنے کانوں کو نافرمانی سے نہیں بچاتا یہ ظالم ہے، عادل نہیں ہے جو اپنی زبان سے نافرمانی کرتا ہے یہ ظالم ہے عادل نہیں ہے لہذا اگر چاہتے ہو کہ امامِ عادل کا مقام مل جائے یعنی عرش کا سایہ تو اپنے جسم کی مملکت پر عدل قائم کر دو۔ کانوں پر عدل قائم کرو یعنی کانوں پر ظلم نہ کرو، گانہ سنو، آنکھوں پر عدل قائم کرو یعنی نامحروموں کو، کسی کی بھوپلی اور اڑکوں کو نہ دیکھو، زبان پر عدل قائم کرو یعنی غبیت سے بچو، کسی کو ایسا نہ پہنچاؤ اسی طرح گالوں پر عدل قائم کرو یعنی ڈاڑھیوں کو نہ منڈاً او اسی طرح ٹخنوں پر عدل قائم کرو یعنی پاجامہ اور لنگی ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکاؤ۔ خواتین بھی عدل قائم کریں یعنی بغیر بر قع کے گھروں سے نہ نکلیں۔

لہذا ہر شخص امامِ عادل ہو سکتا ہے۔ دو گز کی جوز میں ہمیں ملی ہے، ہم اس کے امیر، امام اور بادشاہ ہیں۔ سوال ہو گا کہ آنکھوں کے صوبہ میں بغاوت کیوں ہوئی، کیوں بد نظری کرتے تھے، کانوں کے صوبہ میں بغاوت کیوں ہوئی، گالوں کے صوبہ میں ڈاڑھی منڈا کر کیوں تم نے بغاوت ہونے دی، تم نے اپنے قلب کے ہیڈ کو اڑا اور دارالسلطنت سے اپنی قوت ارادیہ کی فوج سے ان صوبوں پر کیوں کرنیوں ہیں لگایا لہذا جسم کی دو گز زمین کی مملکت پر جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، صوبوں کی بغاوت کو نظر وں نہیں کرتا وہ امامِ عادل نہیں امامِ ظالم ہے اور جو شخص اس مملکت کو تابع فرمان الٰہی کر دیتا ہے قیامت کے دن ان شاء اللہ اس کو امامِ عادل کا مقام حاصل ہو گا۔

امامِ عادل کی جو شرح اللہ نے میرے قلب کو عطا فرمائی، حدیثوں کی ساری شرحیں پڑھ لیجئے، محمد شین سے پوچھ لیجئے، پھر اختر کی بات کو غور سے سنئے تو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اختر کی زبان سے کیا کام لے رہا ہے وَلَا فَخْرٌ يَا رَبِّي اے اللہ کوئی فخر نہیں، آپ کی رحمت کی بھیک ہے۔ جب ہمارے طلباء یہ حدیث پڑھائیں گے اور اس تقریر کو پیش کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ علماء بھی وجد کریں گے کہ آج ہم پہلی دفعہ ایسی تقریریں رہے ہیں۔ (انفال ربانی، صفحہ: ۹۷-۸۱)

حدیثِ پاک کے دوسرے جز کی شرح

مکان کی محبت مکین سے اشد محبت کی دلیل ہے

قیامت کے دن جن لوگوں کو سایہ عرش عطا ہو گا ان میں سے ایک ہے رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعلَّقٌ

بِالْمَسَاجِدِ وَهَادِيٍ جِسْ كا دل مسجد میں اٹکا رہے۔ نماز پڑھ کر آگیا اور مارکیٹ میں دوکان کے اندر بیٹھا ہے اور دل لگا ہوا ہے کہ کب دوسرا اذان ہوا اللہ کے گھر چلوں۔ اس کی شرح اللہ والوں نے یہ کی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے یعنی جس کو اللہ کے گھر سے اتنا پیار ہے تو اس کو خود اللہ سے کتنا پیار ہو گا۔ ایک تاجر نے کہا یہ ممکن ہے کہ ہم دوکان میں ہوں اور دل مسجد میں ہو تو حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے اس وقت ہے کہ تم مسجد میں ہوتے ہو اور دل دوکان میں ہوتا ہے۔ ابھی دوکان اور تجارت کی محبت غالب ہے تو جسم مسجد میں ہوتا ہے اور دل دوکان میں اٹکا رہتا ہے جب اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی تو جسم دوکان میں ہو گا اور دل مسجد میں ہو گا جس کی محبت غالب ہوتی ہے پھر اسی کی یاد غالب ہو جاتی ہے۔ پھر دل میں بھی اللہ کا دھیان رہے گا اور زبان سے بھی بات بات میں اللہ کا نام لو گے۔ تاجر کو مال بھیجنے سے تو کہو گے کہ ان شاء اللہ کل بحق دوں گا، کوئی خوشی آئی تو کہو گے الحمد للہ، اے اللہ آپ کا احسان ہے، شکر ہے، بھی سبحان اللہ کبھی ماشاء اللہ بات بات میں ان کا نام لو گے کیونکہ

ان سے ملنے کو بہانہ چاہیے

اور نماز کے لیے پانچ وقت اللہ تعالیٰ کا مسجد میں بلانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کسی کی ماں کہے بیٹا مجھے دن میں پانچ بار اپنا چہرہ دکھا جایا کرو تو بیٹا کہتا ہے کہ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں ہے کہ پانچوں وقت ہمیں بلا تے ہیں اور جی علی الصلوٰۃ سے اعلان کرتے ہیں جس کا عاشقانہ ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اے میرے غلامو! جلدی جلدی وضو کر کے تیار ہو جاؤ مولائے کریم اپنے غلاموں کو یاد فرمار ہے ہیں۔ اور جو نظام اذان سن کر بھی مسجد کی طرف نہ جائے تو سمجھ لو کہ وہ کتنا محروم ہے کہ اتنا بڑا مالک بلا رہا ہے پھر بھی نہیں جاتا۔ یہ جس دنیا سے لپٹا ہوا ہے اور جس کی محبت میں یہ مسجد نہیں جا رہا ہے وہ دنیا ایک دن اس کو لات مار کر قبر میں دھکیل دے گی اس دن پتہ چلے گا کہ جس پر ہم مر رہے تھے وہ کام نہ آئی۔ اگر اللہ پر مرتے تو وہ اللہ زمین کے نیچے بھی ساتھ دیتا ہے قیامت کے دن بھی ساتھ دے گا۔ جنت میں بھی ساتھ دے گا۔ ایسے مالک کو خوش نہ کرنا اس سے بڑھ کر نادانی اور بے وقاری اور احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے۔ (انعاماتِ ربی، صفحہ: ۸۲-۸۷)

حدیثِ پاک کے تیسرے جز کی شرح

سامیہ عرش حاصل کرنے کا طریقہ

جو اپنی جوانی کی اٹھان کو اپنے رب کی عبادت میں استعمال کر لے اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ یہ بخاری شریف کا متن ہے مگر شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ چودہ جلدیوں کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ایک روایت اور آئی ہے:

﴿شَابٌ أَفْنِي نَشَاطَةً وَ شَبَابَهُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ﴾

جو جوان اپنی جوانی کو اپنے رب پر جلا کر خاک کر دے، اپنی خواہشات کا غلام نہ بنے اور بری بری خواہشوں سے یہ اعلان کر دے۔

جلاء کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں

اے نفس! مجال نہیں ہے کہ تو مجھ پر غالب آجائے، میں اپنے موٹی کونا راض نہیں کروں گا چاہے میری جوانی رہے یا نہ رہے، ایک جوانی کیا چیز ہے اگر ہم ایک کروڑ جوانی بھی اللہ پر فدا کر دیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ابن حجر عسقلانی یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دے اور جوانی کی حرام خوشیوں کو فنا کر دے تو اس کو بھی عرش کا ساید ملے گا اور علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری عمدۃ القاری میں لکھا ہے:

﴿شَابٌ جَمِيلٌ دَعَاهُ الْمَلِكُ لِيَنْزَرَ وَجْهَهُ بِهِ فَخَافَ أَنْ يَرْتَكِبَ بِهِ الْفَاحِشَةَ فَامْتَنَعَ﴾

ایک خوبصورت جوان کو بادشاہ نے بلا یاتا کہ اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے مگر وہ بادشاہ عادت کا اچھا نہ تھا، اس نوجوان کو ڈر لگا کہ یہ بیٹی تو دے گا مگر میرے حسن کو نظر استعمال کرے گا، میرے ساتھ بد فعلی کرے گا لہذا اس نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی عرش کا ساید دے گا کیونکہ اس نے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دیا۔

حسن کا شکر کیا ہے؟

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن کا شکر یہ کیا ہے؟ اگر خداۓ تعالیٰ کسی کو حسین پیدا کریں تو حسن کا شکر یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں:

﴿فَإِنَّ شُكْرَ الْحُسْنِ أَنْ لَا يُشَوَّهَ فِي مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى شَانَهُ﴾

جس کو اللہ حسین پیدا کرے اس کے حسن کا شکر یہ یہ ہے کہ اپنے حسن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، جس نے حسن دیا ہے اسی پر حسن کو فدا کرے، جس نے در دل دیا ہے اسی پر در دل کو فدا کرے۔ اب رہ گیا کہ جوانی اللہ پر کیسے فدا ہو تو اس کے لیے علم دین حاصل کرنے میں جان گھلانے، بہترین جید عالم دین بنے، حاشیہ دیکھے، شروع دیکھے، متن کو حل کرے یہاں تک کہ اعراب بھی دیکھے کہ کس باب سے ہے، جو اس غم میں گھل جائے وہ بہترین عالم دین ہو گا لیکن جوانی میں تین کام ایسے ہیں کہ جوان تین کاموں سے بچ جائے گا اس کی جوانی مرتبے دم تک جوان رہے گی، اس کے بال سفید ہو جائیں گے مگر اس پر عالم شباب کی کیفیت طاری رہے گی کیونکہ اس نے اپنے شباب کو اللہ پر فدا کیا ہے۔ (طریق الی اللہ، ص: ۱۱)

حدیث نمبر ۱۲

﴿فَلَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ﴾

(سنن ابی داؤد، کتابُ الادب، باب ما یقول اذا اصبح، ج: ۲، ص: ۳۳۶)

ترجمہ: اے اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں اور آپ کا شکر ہے۔

ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بہت لوگ میرے مرید ہو رہے ہیں کہیں میرے دل میں بڑائی نہ آجائے۔ میں نے کہا جب بہت زیادہ مرید ہوں یا لوگ آپ کی تعریف کریں تو فوراً کہو اللہُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ کہ اے اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ شکر ہے آپ کا۔ ہم تو مٹی ہیں بس آپ کے کرم کے سورج کی شعاعیں پڑ گئیں جو یہ مٹی چمک رہی ہے۔ یہ تو آپ کا کمال ہے، ہمارا کیا ہے۔ اگر مٹی چمکتی ہے سورج کی شعاعوں سے تو یہ مٹی کا کمال نہیں ہے، یہ سورج کی شعاعوں کا کمال ہے۔ اگر مٹی کو ناز ہو جائے اور سورج اپنا رُخ پھیر لے تب پتہ چلے گا کہ مٹی میں کیا چمک ہے۔ لہذا تکبر کا بہترین علاج یہی ہے کہ جب کبھی کوئی تعریف کرے تو فوراً پڑھو اللہُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ سے قرب ہوتا ہے اور تکبر سے دوری ہوتی ہے یعنی شکر سببِ قرب ہے اور کبر سببِ بعد ہے اور سببِ قرب اور سببِ بعد کا جمع ہونا محال ہے لہذا اللہ کا شکر کرتے ہی تکبر بھاگ جائے گا جیسا کہ ایک مجھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ جب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے میں خون چوستا ہوں تو ہوا مجھے اڑا کر لے جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ عدالت میں مدعی اور مدععاً علیہ دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے لہذا تم مدعی ہو میں ابھی مدععاً علیہ کو بلا تا ہوں اور ہوا کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب ہوا آئی تو یہ بھاگ گیا اور کہا کہ میں بھاگانہیں ہوں بھاگایا گیا ہوں کیونکہ ہوا کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے فرمایا کہ تو چلی جا۔ جب مجھر آیا تو آپ نے ڈانت کر فرمایا کہ جب مدععاً علیہ آیا تو تم کیوں بھاگ گئے۔ اس نے کہا یہی تو رونا ہے کہ جب ہوا آتی ہے تو میرا وجہ نہیں رہتا اور میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں خون چونے میں لگا ہوتا ہوں کہ ہوا آتی ہے اور مجھے بھگا دیتی ہے۔ مولانا رومی نے اس واقعہ کو بیان کر کے فرمایا کہ جب اللہ اپنی تجلیات خاصہ سے تمہارے دل میں مجھی ہو گا تو تمہارے اندر ہیرے خود ہی نہیں رہیں گے۔

می گریزد ضدہا از ضدہا

شب گریزد چوں بر افروزد ضیا

جب آفتاً بِنَكْتَهُ هُنَّ تُورَاتُ خُودُ بِحَاجَتِي هُنَّ أَسَے بِجَهَنَّمَ نَهِيْسُ پُرْتَاهُ لِهُنَّ ذَلَّلَاتُ كُو بِجَهَنَّمَ نَهِيْنَ كَيْ فَكَرَنَهُ كَرُوآ فَتَاب

سے دوستی کرلو، اندھیرے خود بخوبی جائیں گے۔ لہذا جب مخلوق تعریف کرے تو کہیے اللہُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ اللَّهُ تَعَالَى کے شکر سے اپنے اوپر سے نظر ہٹ جائے گی اور اللہ کی عطا پر ہو جائے گی جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور قرب اور بعد کا جمع ہونا محال ہے لہذا جب شکر پیدا ہو گیا تو تکبر خود بھاگ جائے گا۔ (انفال ربانی، ص: ۲۸)

حدیث نمبر ۱۳

﴿إِتِّقِ الْمُحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب من اتقى المحارم فهو اعبد الناس، ج: ۲، ص: ۵۶)

ترجمہ: حرام سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔

چوبیس گھنٹے کا عبادت گزار

ذکر کا سب سے اوپر مقام یہ ہے کہ اپنے مالک کو ایک سانس اور ایک لمحہ کو ناراض نہ کرو۔ کوئی شخص چوبیس گھنٹے کمًا و کیفًا، زمانًا و مکانا کیسے ذکر کر سکتا ہے لیکن جو شخص تقویٰ سے رہتا ہے، گناہ سے بچتا ہے وہ چوبیس گھنٹے ذا کر ہے، اس سے بڑا اللہ کو یاد کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے **إِتِّقِ الْمُحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ** حرام سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی دس پارہ تلاوت کرتا ہے، میں رکعتات نفل پڑھتا ہے، ہر ماہ عمرہ کرتا ہے لیکن تقویٰ والے کو سب سے بڑا عبادت گزار کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ عابد زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنٹے عبادت کر لے گا، دس گھنٹے عبادت کر لے گا اس کے بعد دماغ ماؤف ہو جائے گا اور عبادت پر قادر نہ ہو سکے گا۔ عابد کو بھی عبادت زمانیہ حاصل ہوتی ہے، کبھی عبادت مکانیہ حاصل ہوتی ہے کسی زمانے میں عبادت کرے گا اور کسی زمانے میں نہیں کر پائے گا، کسی مکان میں عبادت کرے گا اور کسی میں نہیں کر پائے گا لہذا اس کا کوئی زمانہ عبادت سے معمور ہوگا، کوئی زمانہ خالی ہوگا، کوئی مکان عبادت والا ہوگا اور کوئی عبادت سے خالی ہوگا لیکن متقیٰ یعنی گناہ نہ کرنے والا زماناً و مکاناً کمًا و کیفًا چوبیس گھنٹے عبادت میں ہے، چوبیس گھنٹے ذا کر ہے کیونکہ اللہ کو ناراض نہیں کر رہا ہے اس لیے **أَعْبَدَ النَّاسِ** ہے اگرچہ کچھ نہیں کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے خاموش بیٹھا ہے لیکن عبادت میں ہے کیونکہ کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے۔ سورہ ہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، بیوی بچوں سے بات کر رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے کیونکہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہے اس لیے اس کا ہر زمان اور ہر مکان نور تقویٰ سے مشرف ہے، لہذا متقیٰ کو ذکرِ دوام اور عبادتِ دائمہ حاصل ہے۔ بتائیے اللہ کو ناراض نہ کرنا کیا عبادت نہیں ہے؟ یہی وہ عبادت ہے کہ بہ نص قطعی جس سے اللہ کی

ولایت اور دوستی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾

(سورة الانفال، آیہ: ۳۲)

صرف متقد بندے اللہ کے اولیاء ہیں۔ تقویٰ غلامی کے سرپر ولایت کا تاج رکھتا ہے۔ لیکن متقد کے معنی نہیں ہیں کہ کبھی اس سے خطا ہی نہ ہوگی احیاناً کبھی صدور خطا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ خطاب قائم نہیں رہ سکتا اور گریہ و زاری، اشکباری اور آہ زاری سے پھر اللہ کی یاری حاصل کر لیتا ہے۔ یہ صاحب خطابہ برکت استغفار و توبہ فرماتے ہیں کہ متقد رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضور ہنا۔ وضوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے آدمی باوضو ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کبھی تقویٰ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ واستغفار کر لو آپ متقد کے متقد ہیں۔ خطاب پر ندامت و آہ، آپ کو دائرۃ تقویٰ سے خارج نہیں ہونے دے گی۔ (انعامات رباني، صفحہ: ۳۲-۳۳)

عبدین کی عبادت وقتیہ محدود یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی عبادت میں ایک محدود وقت تک ہی رہ سکتے ہیں مثلاً نوافل، ذکر و تلاوت ایک محدود وقت تک ہی کر سکتے ہیں لیکن جو شخص تقویٰ سے رہتا ہے، گناہ سے پچتا ہے وہ ہر وقت عبادت میں ہے۔ اس کا ہر منٹ ہر سینڈ، ہر سانس اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے کی عبادت میں مشغول ہے۔ اس لیے متقد چوبیں گھنٹہ کا عبادت گذار ہے کیونکہ چوبیں گھنٹے وہ اللہ کو ناراض نہ کرنے کی عبادت میں ہے۔ قبلًاً و قالبًاً وعدیناً، ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا اسی لیے اس حدیث پاک میں متقد کو سب سے بڑا عبادت گذار فرمایا گیا۔ اور اگر کبھی خطاب ہو جائے تو جب تک توبہ واستغفار سے، اشکبار آنکھوں سے اللہ کو راضی نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقد رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضور ہنا کہ وضواگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرو۔ اسی طرح تقویٰ اگر کبھی ٹوٹ جائے تو توبہ کر کے دوبارہ متقد ہو جاؤ۔ بس شرط یہی ہے کہ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، پکا ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر وسوسہ آئے کہ تو پھر یہ گناہ کرے گا تو وسوسہ کا اعتبار نہیں۔ وسوسہ شکست توبہ، عزم شکست توبہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بالفرض اگر آئندہ کبھی نفس سے مغلوب ہو کر توبہ ٹوٹ گئی تو اس سے پہلی توبہ باطل نہیں ہوئی وہ ان شاء اللہ قبول ہے۔ پھر دوبارہ توبہ کر لو اور پھر عزم کرو کہ آئندہ کبھی توبہ نہ توڑوں گا، کبھی یہ گناہ نہ کروں گا۔

تو میں نے گزارش کی کہ قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دریائے لازوال وغیر محدود حاصل کرنے کا یعنی مدتھائے اولیاء صدیقین تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ حواسِ نسمہ کے راستوں سے حرام لذت کا ایک ذرہ

داخل نہ ہونے دو اور رادہ کرلو کہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ کر مریں گے اور دعا بھی کرو کہ اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے، ہم کو بھی، ہمارے بال بچوں کو بھی، ہمارے احباب حاضرین اور غائben کو بھی۔

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اولیاء صدیقین کون ہیں؟ تو علامہ آل وسی نے صدیق کی تین تعریف کی ہے:

(۱) **الَّذِي لَا يُخَالِفُ قَالَهُ حَالَهُ** جس کا قول اور حال ایک ہو یعنی دل و زبان ایک ہو، جس کا دل اس کی زبان کے ساتھ ہو یعنی زبان اس کے دل کی ترجمان ہو۔ اس کے قول و حال اور دل اور زبان میں فاصلے نہ ہوں۔ اور صدیق کی دوسری تعریف ہے:

(۲) **الَّذِي لَا يَتَعَيَّرُ بَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ** جس کا باطن ظاہری حالات سے متاثر نہ ہو۔ اور صدیق کی تیسرا تعریف ہے:

(۳) **الَّذِي يَبْدُلُ الْكَوْنَيْنِ فِي رِضَا مَحْبُوبِهِ** (تفسیر روح المعانی، ج: ۱۱) صدیق وہ ہے جو دونوں جہان اللہ پر فدا کر دے۔ دنیا فدا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آخرت کیسے فدا کریں؟ یعنی جنت کے لائق میں نیک عمل مت کر واللہ کی خوشی کے لیے کرو اور جنت کو ثانوی درجہ میں رکھو۔ دلیل اس کی ہے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَالنَّارِ﴾

(تفسیر الملاباب لابن عادل)

سر ویرالمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت کو مخواز کرنا دلیل ہے کہ اے اللہ کے عاشقو! پہلے اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ نماز کرو، جنت کو ثانوی درجہ میں رکھو اور گناہ جب چھوڑ تو پہلے اللہ کی نار اضکی کے خوف سے چھوڑو اور اس کی دلیل ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَالنَّارِ اے خدا پہلے میں تیری ناخوشی سے پناہ چاہتا ہوں پھر دوزخ سے۔ اور جہنم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ثانوی درجہ میں کر دیا کیونکہ اے اللہ تیرا نار ارض ہونا جہنم سے کم نہیں۔ اس دعا میں امت کو آپ نے تعلیم دے دی کہ اے اللہ آپ کو ناخوش کرنا، گناہ کر کے حرام خوشی لانا اور حسینوں کے نمک حرام کو چکھنا یہ آپ کی نار اضکی کا سبب ہے اس لیے ہم آپ کی ناخوشی سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اپنی خوشیوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔

(۴) صدیق کی تین تعریفیں تو آپ نے سن لیں اور چوتھی تعریف اللہ تعالیٰ نے اختر کو اپنے مبداء فیض سے براہ راست عطا فرمائی بے دعاۓ بزرگاں بظیل اہل اللہ۔ جس مبداء فیاض سے علامہ آل وسی کو عطا ہوا اس مبداء فیاض سے اگر اختر کو بھی عطا ہو جائے تو کیا تجویز ہے۔ وہ چوتھی تعریف یہ ہے کہ جو بنہ اپنی ہر

سائبان کو اللہ پر فدا کرے اور ایک سائبان بھی اللہ کو ناخوش کر کے حرام خوشیاں اپنے اندر نہ لائے یہ بھی صدقیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ مقام ہم سب کو عطا فرمائے اور ولایتِ صدقیت کی انتہا تک محض اپنے کرم سے ہم سب کو پہنچا دے اگرچہ ہمارے سینے اس کے اہل نہیں لیکن اے اللہ آپ تو اہل ہیں ہم نا اہلوں کو اہل بنانے پر بھی قادر ہیں لہذا ہم نالائقوں پر اپنے کرم کی موسلا دھار بارش بر ساد بیجئے، آمین یا رب العالمین۔
(دری مشوی مولانا روم، صفحہ: ۱۷۹-۱۸۰)

حدیثِ پاک **إِنَّ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ** کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ! تم اگر گناہ سے بچو، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو تو تم سب سے بڑے عبادت گذار ہو جاؤ گے، متقیٰ کو سب سے بڑا عبادت گذار اس لیے فرمایا چونکہ تقویٰ چوبیں گھنٹہ کی عبادت ہے۔ نوافل و ذکر و تلاوت کوئی چوبیں گھنٹہ نہیں کر سکتا لیکن گناہ نہ کرنے کی عبادت چوبیں گھنٹے جاری رہتی ہے۔

حق ربویت اور تقاضائے بندگی

خداۓ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا حق تعالیٰ کی پرورش اور احسان کا بھی تقاضا ہے اور شرافت بندگی کا بھی تقاضا ہے کہ اپنے پالنے والے کو ناراض کر کے ہم لذتوں کو اپنے قلب میں نہ لائیں اور یہ حقیقت وہ ہے کہ لاائق بچے بھی جس پر عمل پیرا ہیں کہ محلہ کا کوئی لڑکا اگر کہتا ہے کہ چلو آج سینما دیکھیں تو شریف بچہ کہتا ہے کہ نہیں ابا ناراض ہو جائیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آج ابا کی فکر چھوڑو، ابا کو ناراض ہونے دو تو جو لاائق بیٹا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ابا نہیں پالا ہے ہم تمہارے مشورہ پر عمل کر کے اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رب العلمین ہیں سارے عالم کو پال رہے ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہ کریں۔ وہ سارے عالم کے پروردگار ہیں، سارے عالم کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے اور ہم سب اجزاء عالم ہیں، تو جو سارے عالم کو پال سکتا ہے وہ جزو عالم کو نہیں پال سکتا؟ لہذا شیطان کی دھمکی سے مت متأثر ہو کر تم کہاں سے کھاؤ گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی چال میں آ کر رزق کے معاملہ میں تم حرام و حلال کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رزق نہیں رکھا ہے، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے بس تھوڑا سا سبب تو اختیار کرنا پڑے گامثلاً دو کان کھلونی پڑے گی لیکن گاہک اللہ تعالیٰ بھیجے گا اس لیے ان کو ناراض کر کے نہ رزق کماونے کوئی ایسا کام کرو جو ان کی ناراضگی کا سبب ہو۔

چھوٹے بچوں سے وفاداری کا سبق

لہذا جب دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اختر اپل کرتا ہے اور گوجھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت عرب میں مقرر ہوں ورنہ اگر مالک آپ لوگوں کے دلوں میں محبت نہ ڈالتا تو میری بات آپ کیوں سنتے۔ اس لیے در دل سے کہتا ہوں کہ جب دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو فوراً ایک چھوٹے بچے سے سبق لے لو۔ بعض بچے ایسے مہذب اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو ٹانی پیش کرتا ہے کہ لو یہ ٹانی تو وہ بچہ اپنے ابا کو دیکھتا ہے کہ ابا کا کیا اشارہ ہے۔ جب ابا آنکھ سے اشارہ کر دیتا ہے کہ لے لو تو وہ بچہ لے لیتا ہے ورنہ نہیں لیتا۔ اسی طرح جب آپ کے دل میں بھی کوئی خواہش پیدا ہو اور شیطان حسین شکلوں کی ٹانی پیش کرے تو آسمان کی طرف دیکھو کہ ربا کیا چاہتا ہے، وہ اس بات سے خوش ہے یا نہیں۔ کیا ابا سے حق ربا کا زیادہ نہیں ہے؟ بابا نے یہ آنکھیں نہیں بنائی بِ جَمِيعِ اَعْصَائِنَا وَ بِ جَمِيعِ اَجْزَائِنَا وَ بِ جَمِيعِ كَمِيَاتِنَا وَ بِ جَمِيعِ كَيْفِيَاتِنَا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ ہمارا کوئی عضو اور کوئی جز، ہماری کوئی کیفیت اور کوئی خواہش ان کی غلامی سے آزاد نہیں ہے لہذا جب دل میں کوئی خواہش پیدا ہو خواہ نظر کی ہو یا زبان کی ہو، ہاتھ کی ہو یا پیر کی ہو تو ایک چھوٹے بچے سے سبق لے لو کہ وہ ابا کے اشارہ کے بغیر ایک ٹانی تک نہیں لیتا۔ آہ! ہم ایک چھوٹے بچے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ربا کا اشارہ نہیں دیکھتے اور اپنی خواہش پر عمل کر لیتے ہیں لہذا شرافت بندگی کا تقاضا ہے کہ جب دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو ربا کا اشارہ دیکھو کہ وہ خوش ہے یا نہیں اور اپنے دل سے فتویٰ لے لو۔ اگر آپ کا دل فیصلہ کر دے کہ اے دل! تجھ کو تو مزہ آئے گا مگر اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے تو بس پھر اپنی خوشیوں کا خون کرنا سیکھ لو۔ اسی خون آرزو سے وہ ملتے ہیں۔

عالمِ شباب کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے کا انعام

اپنی مٹی کو ان مٹی کے کھلونوں پر مٹی مت کرو۔ جس اللہ تعالیٰ نے عالمِ شباب عطا فرمایا ہے اپنے شباب کو اسی پر فدا کرو کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس جوان نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ پر فدا کی اور نافرمانی سے جوانی کا عیش نہیں لیا اس کو قیامت کے دن سا یہ عرشِ الہی کا وعدہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے شَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ جس جوان کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں پرداں چڑھی اور دوسری روایت ہے شَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ اور تیسرا روایت فتح الباری شرح بخاری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے جس کو اختر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ شَابُ أَفْنَى شَبَابَهُ وَ

نَشَاطَهُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ جِسْ جِوَانْ نَے اپنی جوانی کی نشاط اور خوشیاں سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں فنا کر دیں اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔

اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو اپنی خواہشات کو جلا کر خاک کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور خون آرزو کرتا ہے، شکستِ تمنا کرتا ہے اس کا جلا بھتنا دل اور ایمان اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ شامی کتاب اس کے مقابلہ میں کیا چیز ہے۔ جدھر سے یہ گذر جائے گا کافر بھی کہہ اٹھے گا کہ بھی یہ کوئی اللہ والا جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں، وہ کسی بندے کی محنت اور مجاہدہ شکستِ آرزو اور خونِ تمنا کو رائیگاں نہیں کرتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اسی روئے زمین پر کتنے بندے ہیں جو وہی سی آر، سیمنا، ڈش انٹینا اور بد نظری کی لعنت میں بیٹلا ہیں لیکن انہیں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میری لعنت سے بچنے کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا دل ہزاروں زخم حسرت کھاتا رہتا ہے مگر یہ وہ بندے ہیں جو مجھ کو ناراض کر کے حرام لذت کو استیغ اونہیں کرتے، درآمد نہیں کرتے۔

زحل، مشتری اور مریخ کے متعلق سائنس دانوں کی تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زحل اور مشتری کو چار چاند، مریخ کو چھ چاند اور دنیا کو ایک چاند دیا ہے اور عطارد کو ایک چاند بھی نہیں دیا کیونکہ سورج کے بالکل قریب ہے اس لیے سورج کی روشنی سے ہر وقت چمکتا رہتا ہے۔ اسی پر میں کہتا ہوں کہ آفتاب ایک مخلوق ہے اس کے قریب رہنے والے سیارہ کو اللہ نے چاندوں سے مستغنى کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو اپنے قلب میں خالق آفتاب اور خالق نہش و قمر کی تجلیات خاصہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نور کی بجائی ان کو زمین کے چاندوں سے مستغنى نہ کر دے گی؟ یہی وجہ ہے کہ وہ مٹی کے رنگ و روغن سے، مٹی کے ڈسٹپروں سے، مٹی کے کھلونوں سے نہیں بلکہ۔ یہی دلیل ہے کہ ان کا قلب غیر اللہ سے مستغنى ہے، یہی علامت ہے کہ یہ شخص صاحب نسبت ہے۔ یہی علامت ہے کہ یہ صاحب ولایت ہے، یہی علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست ہے۔ جب تک قلب غیر اللہ سے مستغنى نہ ہو اور دنیا کے چاندوں پر مر رہا ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ سے ابھی محروم ہے۔ (فیضان حرم، صفحہ: ۲۰)

حدیث نمبر ۱۳

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَ التَّوَابَ﴾

(مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب، ج: ۱، ص: ۸۰)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اس بندہ کو جو مون ہے لیکن بار بار خطایں میں بیٹلا ہو جاتا ہے مگر بکثرت تو بھی

کرتا ہے۔

خوفِ شکستِ توبہ اور عزمِ شکستِ توبہ کا فرق

جب انسان توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ! اب میں اس غلطی کو دوبارہ نہیں کروں گا تو اس کا دل بھی اس کو ملامت کرتا ہے اور شیطان بھی اس کے کان میں کہتا ہے کہ تمہاری توبہ بارہا دیکھ چکا ہوں، بارہا تم نے ارادہ کیا کہ کسی کی بہو بیٹی کو نہیں دیکھوں گا، بدنظری نہیں کروں گا لیکن تم نے ہر بار توبہ توڑی ہے، تمہاری توبہ زبانی ہے اور قبول نہیں۔ کیونکہ قبولیتِ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آن یعْزَمَ عَزْمًا جَازِمًا آن لَا يَعُودُ الْيَهَا أَبَدًا ارادہ پکا ہو کہ دوبارہ ہم اس خطا کو نہیں کریں گے اور بار بار توبہ کا ٹوٹنا تو پکے ارادے کے خلاف ہے لہذا تم کیا توبہ کرتے ہو، بارہا میں تمہارا تماشہ دیکھ چکا ہوں۔

یہ بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

اس طرح شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ ہمارا عزمِ توبہ شاید قبول نہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ گناہ نہ کرنے کا یہ پکا ارادہ بھی قبول ہے بشرطیکہ اس ارادہ کے وقت شکستِ ارادہ کا ارادہ نہ ہو یعنی توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ جس آدمی کی توبہ بار بار ٹوٹی رہتی ہے وہ جب اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ اب بھی یہ گناہ نہ کروں گا تو اس کو اپنی توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے تو یہ خوفِ شکستِ توبہ ہے عزمِ شکستِ توبہ نہیں ہے۔ یعنی یہ توبہ ٹوٹنے کا خوف ہے توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ توبہ ٹوٹنے کا خوف اور چیز ہے اور توبہ توڑنے کا ارادہ اور چیز ہے توبہ کے ٹوٹنے کا خوف عزمِ توبہ کے خلاف نہیں ہے اور قبولیتِ توبہ میں حائل نہیں ہے، مانع نہیں ہے۔ بس توبہ کرتے وقت دل میں پکا ارادہ ہو کہ اب بھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور توبہ کو نہیں توڑوں گا تو اس کی توبہ قبول ہے لیکن پھر بھی دل میں توبہ ٹوٹنے کا خوف آئے تو یہ خوف کچھ مضر نہیں بلکہ عین عبدیت، عین بندگی، عین اعترافِ قصور اور اپنی کمزوری کا اقرار ہے۔ اللہ بھی اس بندہ سے خوش ہو گا کہ میرا بندہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن اپنے ضعفِ بشریت کی وجہ سے شکستِ توبہ سے ڈر بھی رہا ہے۔

اور اس خوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توبہ توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ اس کے دل میں پکا ارادہ بھی ہے کہ میں آئندہ ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے ارادہ کے مقابلہ میں جب پکا ارادہ توبہ توڑنے کا ہو گا تب توبہ ٹوٹے گی۔ اگر وہ سو سے آگیا تو بھی تو بہ نہیں ٹوٹی کیونکہ یقین کو یقین زائل کر سکتا ہے۔ وہ سو اور وہم و مگان یقین کو نہیں زائل کر سکتا جیسے اگر کسی کوشش ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تو جب تک یقین نہ ہو وہ ضرور نہیں ٹوٹتا۔ اتنا یقین ہو کہ وہ فتنم کھالے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تب بے وضو ہوتا ہے۔ اسی طرح خوف و

وسوسرہ شکستِ توبہ، عزم شکستِ توبہ نہیں ہے۔

لہذا خوفِ شکستِ توبہ کا ہونا محدود اور عین بندگی ہے کیونکہ اس خوف میں اظہارِ عاجزی، اظہارِ کمزوری اور اظہارِ قصورِ بندگی ہے بلکہ جس کو یہ خوف نہ ہو وہ خطرہ میں ہے۔ یہ خوف نہ ہونا دلیل ہے کہ اس کو اپنے دست و بازو پر بھروسہ ہے وہ اللہ سے مدد کیا طالب ہو گا اور جس کو توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہے وہ اللہ سے استمداد کرے گا۔ یا مُقْلِبُ الْقُلُوبِ ثَبِّ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ پڑھے گا اور اللہ سے کہہ گا کہ اے اللہ اپنے نفس سے مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ کہیں میرا نفس پھر تو بہ نہ توڑ دے لہذا اس توبہ پر قائم رہنے کی آپ سے امداد مانگتا ہوں۔ اگر ہم اپنی استقامت میں اللہ تعالیٰ کی اعانت کے مقام نہ ہوتے تو ایا ک نعبد کے بعد و ایا ک نستعین نازل نہ ہوتا۔ و ایا ک نستعین نازل فرمادیا کہ تم اپنی اداۓ بندگی میں میری عطاۓ خواجگی کے محتاج ہو، میری مدد اور اعانت کے محتاج ہو لہذا ایا ک نعبد تو کہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن فوراً و ایا ک نستعین سے میری اعانت مانگو کیونکہ بغیر میری مدد کے تم میری بندگی نہیں کر سکتے پس جو شخص خوفِ شکستِ توبہ رکھتا ہے یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے دست و بازو پر بھروسہ نہیں رکھتا بلکہ اپنی استقامت کو اللہ کی اعانت کا محتاج سمجھتا ہے لہذا اس کو دو قرب حاصل ہے، خوفِ شکستِ توبہ کا قرب الگ اور عزم علی التقوی کا قرب الگ۔

کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعترافِ قصور ہے

ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَ التَّوَّابَ﴾

(مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب، ج: ۱، ص: ۸۰)

اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اس بندہ کو جو مومن ہے لیکن بار بار خطایں مبتلا ہو جاتا ہے مگر توبہ بھی ہے، کیشِ التوبہ ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، توبہ میں انتہائی مبالغہ کرتا ہے، ندامت سے قلب و جگہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے ترکر دیتا ہے یہ بھی اللہ کا محبوب ہے، بندہ مومن مبتلا نے فتنہ، کثرتِ توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے دائرہ محبوبیت سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے ایک کروڑ زنا ہو گیا، ایک کروڑ وی سی آر اور نگنی فلمیں دیکھ لیں، بے شمار بد نظری کر لی وہ بھی مایوس نہ ہو۔ ایک دفعہ دور کعات توبہ پڑھ کر اشکبار آنکھوں سے، تڑپتے ہوئے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ اسی وقت تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر بھی سوچو بھی مت کہ گناہوں کی تعداد کیا ہے۔ سمندر کا ایک قطرہ جو نسبت سمندر سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیر محدود شانِ غفاریت کے سامنے ہمارے گناہوں کی اتنی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ

کی ہر شان غیر محدود اور بے شمار ہے اور ہمارے گناہوں کے شمارے محدود ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ دُنُوبِيِّ﴾

(المستدرک للحاکم، کتاب المناسک، ج: ۱، ص: ۵۲۳)

اے اللہ! آپ کی مغفرت و رحمت میرے گناہوں سے سچت تر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، بلس پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا تو وہ توبہ قبول ہے چاہے لاکھ خوف ہو کہ آئندہ کہیں میری توبہ ٹوٹ جائے چاہے وسوسہ بھی آئے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی تو یہ خوف اور وسوسہ قبولیت توبہ کے لیے کچھ مضر نہیں۔ ہرگز ما یوں نہ ہوں۔ اور اگر بالفرض ضعف بشریت سے آئندہ توبہ ٹوٹ بھی گئی تو پھر توبہ کر لے اور توبہ ٹوٹنے سے پہلی توبہ غیر مقبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کریم ہیں جب ایک بار قبول فرمایتے ہیں پھر اس کو غیر مقبول نہیں فرماتے پس وہ توبہ قبول ہے۔ لہذا لاکھ بار خطا ہوا لکھ بار معافی مانگو، رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منا لواہ کریم مالک اپنے بندوں کی آہ وزاری کو رد نہیں فرماتا۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔

جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی
بہر حال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے
یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے
جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ٹی بی کے زخم کی شفا کے لیے یہاں مری کی پہاڑیوں پر بھیجتے ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کے ماحول میں ٹی بی کا زخم اچھا ہو جاتا ہے۔ بار بار توبہ ٹوٹنے کا جوزخم ہے اگر اہل اللہ کی صحبت میں کچھ عرصہ رہ لو تو اللہ کا یقین، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں آئے گا اور یہ زخم اچھا ہو جائے گا۔ جڑی بوٹیوں میں تو یہ اثر ہو کہ زخم اچھا ہو جائے اور اللہ والوں کی صحبت میں یہ اثر نہ ہو کہ غفلت کا، بار بار شکست توبہ کا زخم اچھانہ ہو۔ (انعامات رباني، صفحہ: ۶۰-۶۲)

توبہ کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے

بعض گنگہ کاروں کو شیطان بہ کاتا ہے، مایوس کرتا ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرے گا کہ تم نے تو دھنہ بنا رکھا ہے گناہ کا اور دھنہ بھی کیسا جو بھی مندا نہیں ہوتا، تو کیسا بندہ ہے تو؟ اس کا جواب سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا کہ انَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَ التَّوَّابَ اللَّهُ تَعَالَى مُحْبَّ رکھتا

ہے اور آئندہ بھی محبوب رکھے گا اس بندہ کو جو مومن ہے، کیسا مومن ہے الْمُفْتَن جس سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے، فتنہ گناہ میں بار بار مبتلا ہوتا ہے مگر ایک خوبی اس میں ایسی ہے جو سب ہے اس کی محبوبیت کا اور وہ اس کی فائل رپورٹ ہے وہ کیا ہے؟ التَّوَاب وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے رورو کرم عافی مانگتا ہے، گناہ کر کے خوش نہیں ہوتا، پچھتا تا ہے کہ آہ! میں نے کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اس لیے نام ہو کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کی چار شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے:

توبہ سے محبوبیت کی ایک عجیب تمثیل

گناہ سے فوراً بھاگ جاتا ہے، گناہ سے علیحدہ ہو کر فوراً توبہ کرتا ہے اگرچہ بار بار فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے لیکن توبہ صادقہ کی برکت سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ یہ تباہ اگر ماں کے سینہ پر چھوٹا بچہ پاخانہ کر دے تو کیا اماں اسے چاقو سے ذبح کر دیتی ہے یا نہلا دھلا کر پھر پیار کرتی ہے، نیا کپڑا پہنانی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو تقویٰ کا نیانا بیاس پہنانے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بیاس کی کمی نہیں ہے، ماں تو تھک سکتی ہے کہ اب میرے پاس چڈی نہیں ہے، پمپر (Pamper) بھی نہیں ہے، اب تجھے کیا پہناؤں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے، تقویٰ کے بے شمار بیاس ان کے پاس ہیں۔ جب بندہ نے توبہ کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے اس حرام مزہ سے میں سخت نام و شرمندہ ہو کر معافی چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرمادیتے ہیں۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے:

۱۔ گناہ سے الگ ہو گیا۔

۲۔ شرمندہ ہو گیا۔ دل کو دکھنی پڑی گیا کہ آہ میں نے کیوں گناہ کیا، قلب میں ندامت پیدا ہو گئی۔

۳۔ آئندہ کے لیے پکارا دہ کرتا ہے کہ اے اللہ! اب آپ کو آئندہ بھی ناراض نہیں کروں گا اگرچہ دل کہتا ہے کہ تو پھر کرے گا لیکن دل کی بات نہ مانے کا عزم رکھتا ہے، اگرچہ شیطان و سوسد ڈالتا ہے کہ تو پھر مبتلا ہو گا۔ شیطان یہ وسوسہ ڈالے تو کہہ دو کہ اگر دوبارہ گناہ کر بیٹھوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا۔ ان کے در کے علاوہ اور کوئی در بھی تو نہیں ہے۔ کیا ماں نہیں جانتی کہ میرا بچہ دوبارہ پاخانہ کرے گا۔ ماں کو یقین ہے کہ اب بھی ایک سال کا بچہ ہے یہ تو دوبارہ پاخانہ کرے گا لیکن وہ اپنے بچے کی صفائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی توفیق توبہ دے کر اپنے گنہ کار بندوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ جانتا ہے کہ یہ ظالم پھر گناہ کرے گا۔ اس حدیث پاک کی شرح کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان بندوں کو جو بار بار گناہ کے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر توبہ بھی زبردست کرتے ہیں۔

نِدَامَتْ كَ آنْسُوْلْ كِيْ كَرَامَتْ

تَوَّابْ هِيْ كَشِيرَ التَّوَّبَهْ هِيْ لِيْئِنِيْ بِهَتْ زِيَادَهْ رُوتَهْ تِيْ هِيْ، بِهَتْ زِيَادَهْ اللَّهْ سِيْ مَعَانِي مَانَگَتَهْ هِيْ۔ ان کے یہ آنسو اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسا بندہ کبھی رایگاں نہیں ہوگا ان شاء اللہ، چاہے شیطان نفس اس کو گناہوں کے جنگل میں اللہ سے کتنے ہی دور لے جائیں لیکن وہ جو پہلے اللہ تعالیٰ سے رویا تھا کہ اے اللہ! میری حفاظت کرنا، گناہوں سے مجھے ضائع نہ ہونے دینا اس کے وہ سابقہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں محفوظ تھے اللہ تعالیٰ نِدَامَتْ کے ان آنسوؤں کو رایگاں نہیں کرتا۔ پھر ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندہ کو تلاش کرتی ہے کہ اے فرشتو! میرا بندہ مجھ سے بہت دور ہو گیا تم جا کے پھر اس کے دل میں توفیق ڈالو کہ تو بہ کر کے پھر میرے پاس آجائے لہذا جو لوگ روتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمیں ضائع نہ ہونے دینا، خاتمه ہمارا ایمان پر کرنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے ایسے رونے والے بندے ضائع نہیں ہوتے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا خاتمه خراب نہیں ہوگا۔ جس کا خاتمه خراب ہوتا ہے اس کو رونے کی توفیق نہیں ملتی۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ ابلیس کو بھی اپنے گناہ پر نِدَامَتْ نہیں ہوئے اس طالم نے ہمیشہ آنُظُرُنُی کہا کہ مجھے مهلت دیجئے میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ یہ طالم اگر آنُظُرُ إِلَيْ کہہ دیتا کہ مجھ پر ایک نظر ڈال دیجئے تو معاف ہو جاتا آنُظُرُ إِلَيْ نہیں کہا آنُظُرُنُی کہتا رہا کہ مهلت دیجئے تاکہ میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں، اس کو آنُظُرُ إِلَيْ کی توفیق نہیں ہوئی کیونکہ یہ مردود تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نِمِر عنایت مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ جس کو مقبول رکھتا ہے اس کو نِمِر عنایت مانگنے کی توفیق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی، نالائق ہوں آپ کا ہوں، آپ ہی ہمارے واحد خدا ہیں، آپ کا دروازہ چھوڑ کر کہاں جاؤں کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اگر گنہگاروں کا الگ خدا ہوتا، نیک بندوں کا الگ خدا ہوتا تو وہاں چلا جاتا لیکن آپ ہی ایک خدا ہیں، نیکوں کے بھی آپ خدا ہیں اور گنہگاروں کے بھی آپ ہی خدا ہیں آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کسی کو بار بار دست آرہے ہیں تو ہر دفعہ استخراجی کرتا ہے اور کپڑے بھی بدلتا ہے۔ لہذا اگر بار بار گناہ ہوتے ہیں تو بار بار تو بہ کرتے رہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ آپ کو تو بہ کی توفیق دے دے گا کہ میرا بندہ ہمیشہ رورو کے مجھ سے معاف مانگتا ہے تو ان کو بھی رحم آجائے گا کہ لا واب اس ظالم کو گناہ کرنے ہی نہ دو۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہمت اور ایسی توفیق دے گا کہ ان شاء اللہ پھر مرتے دم تک ایک گناہ بھی نہیں کرو گے لیکن ہمارا کام رونا ہے روتے رہو، روتے رہو، روتے رہو، یہاں تک کہ ان کو رحم آجائے۔ خوب سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اس میں نا امیدی نہیں، یہاں امیدوں کے ہزاروں آفتاب روشن ہیں۔

(امید مغفرت و رحمت، صفحہ: ۲۱-۱۸)

حدیث نمبر ۱۵

﴿إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرٍ كُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبُكُمْ نَفَحَةٌ مِنْهَا﴾

﴿فَلَا تَشْقُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا﴾

(الجامع الصغير لسيوطی، ج: ۱، ص: ۹۵)

ترجمہ: بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے ہی کے دنوں میں نفحات آتے ہیں، ان کو تم تلاش کرو، اگر تم ان کو پا گئے تو اس کے بعد تم کبھی شقی نہیں ہو گے۔

تجلیاتِ جذب کے زمان و مکان

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرٍ كُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبُكُمْ نَفَحَةٌ مِنْهَا فَلَا تَشْقُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا! لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے ہی کے دنوں میں نفحات آتے ہیں، ان کو تم تلاش کرو، اگر تم ان کو پا گئے تو اس کے بعد تم کبھی بد نصیب نہیں ہو گے۔ تمہاری شقاوت اذلی سعادتِ ابدی سے تبدیل ہو جائے گی یعنی دائی خوش نصیبی نصیب ہو جائے گی۔

نفحات کے کیا معنی ہیں؟ دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک کی رحمت کی ہواں کے جھونکے۔ اور شہری زبان میں اللہ تعالیٰ کی نسمیم کرم اور بربان محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکلوۃ میں نفحات کے معنی ہیں جذبات یعنی اللہ کی جذب کرنے کی تجلیات:

﴿اللَّهُ يَجْتَنِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾

(سورة الشوریٰ، آیہ: ۱۳)

یہاں جذبات مراد ہیں۔ یہ حدیث اس آیت کی شرح ہے۔ أَلَا جَنَّتَاءُ مِنَ الْجَنِّيِّ وَالْجَنِّيُّ هُوَ الْجَذْبُ۔ جنی کے معنی جذب کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ مقناطیس کا خالق ہے۔ جو اتنا زبردست مقناطیس پیدا کر سکتا ہے کہ زمین کا چوبیں ہزار میل کا گولہ جس کے نیچے کوئی کالم نہیں فضاؤں میں معلق ہے۔

اسی طرح بے شمار عالم سیارات و نجوم اور ہزاروں نشش و قمر سب بلا ستون فضاؤں میں معلق ہیں اور اپنے راستوں میں تیر رہے ہیں تو اتنا زبردست مقناطیس پیدا کرنے والا جس کو کھینچ گا وہ کیسے بغیر کھینچ رہ سکتا ہے، بندے کو جذب کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو نفحات کے معنی ہیں جذبات یعنی کھینچنے کی مقناطیسی لہریں۔

اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات کا ترجمہ کیا ہے **الْتَّجَلِيَاتُ الْمُقْرِبَاتُ اللَّدُکَ وَهُنَّ تَجَلِيَاتُ جُوبَنْدُوں کو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، وہ تجلیات جو بندہ پر پڑ جائیں تو وہ اللہ کا پیارا اور مقرب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان تجلیات کا زمانہ تو معلوم ہو گیا لیکن مکان بھی تو معلوم ہو کہ ان تجلیات کو کہاں ڈھونڈیں، کہ ہر جائیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ ان کا مکان بخاری شریف کی حدیث میں ہے:**

﴿هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر الله عزوجل، ج: ۲، ص: ۹۲۸)

ہمارے پیارے اور خاص بندوں کی یعنی ہمارے اولیاء کی شان یہ ہے کہ جوان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، جوان کا جلیس وہم نہیں ہوتا ہے کبھی شقی اور بد نصیب نہیں رہ سکتا، اپنے پیاروں کے صدقہ میں ہم اس کی شقاوتوں کو سعادت سے بدل دیتے ہیں، شقی کو سعید کر دیتے ہیں معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی صحبت اور مجلس ان تجلیات کا مکان ہیں۔ شقاوتوں کو دور کرنے کے لیے اور سعادتِ دائمی حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں یہ ہوا میں ملتی ہیں جہاں یہ تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ (انعاماتِ رباني، صفحہ: ۶۵-۶۷)

شرح حدیث بالاعنوان دگر

تجلیاتِ جذب کے زمان و مکان

جذب کے راستے کیا ہیں؟ یہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ کوئی اگر چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جذب عطا فرمادے تو سو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ایک مکان اور ایک زمان دو چیزیں بتائی ہیں۔ زمان کیا ہے:

﴿إِنَّ لَرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرٍ كُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبُكُمْ نَفْحَةٌ مِنْهَا

﴿فَلَا تَشْقُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا﴾

(الجامع الصغیر لسیوطی، ج: ۱، ص: ۹۵)

اے لوگو! اے میری امت والو! تمہارے اس زمانے کے دن ورات میں اللہ تعالیٰ کے جذب کی تجلیات اور ان کے قرب کی ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ فَتَعَرَّضُوا لَهَا اپس ان کو تلاش کرو، غافل نہ رہو وہ تجلی اگر تم کو مل گئی فلا تشقونَ بَعْدَهَا أَبَدًا تو تم کبھی بد بخت و بد نصیب نہیں ہو گے، ہمیشہ کے لیے ولی اللہ بن جاؤ گے۔ نفس و شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دن ورات میں یہ تجلیات کب آتی ہیں؟ اگر کوئی بتا دے کہ جمعہ کے دن ایک عظیم نعمت آنے والی ہے تو آدمی پوچھے گا کہ کہاں؟ کراچی کہ

حیدر آباد کہ لا ہو؟ للہ تعالیٰ کا شکر ادا سمجھے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اس کا مکان بھی بتا دیا کہ وہ تجھی کہاں نازل ہوتی ہے؟ فی ایام دھر کُم تو اس حدیث میں وارد ہے کہ تمہارے زمانہ کے دنوں میں اللہ کی رحمت کی وہ ہوا گئی آتی ہیں۔ نفحات کا ترجمہ عام علماء نے کیا ہے کہ نسیم کرم کے جھونکے، اللہ کی نسیم کرم کے جھونکے جو دنیا میں آسمان سے آتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے ترجمہ کیا جذبات یعنی جذب کرنے والی تجلیات۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفحات کا ترجمہ جذبات ہے یعنی اللہ جذب کرنے والی تجھی دنیا میں بھیجا ہے جس کو لوگ جاتی ہے وہ جذب ہو جاتا ہے۔ پس ایک طبقہ نے ترجمہ کیا نسیم کرم، ملا علی قاری نے کیا جذبات یعنی کھینچنے والی تجلیات۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التشرف فی احادیث التصوف میں نفحات کا ترجمہ کیا تجلیات المفترbat اللہ کے وہ جلوے و تجلیات جس سے بندہ کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا اور مقرب کر لیتے ہیں لیکن ایام دھر کُم سے آپ کو زمانہ معلوم ہوا لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تجلیات کہاں ملتی ہیں۔ مکان بھی تو معلوم ہوا لیکن یہ بھی پتہ چلے وہ کس شہر میں ہیں، کس ملک میں ہیں۔ بولیے بھی ولی اللہ رہتے ہیں تو زمانہ تو معلوم ہوا لیکن یہ بھی پتہ چلے آج کوئی شخص ان تجلیات کا مکان تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت پر احسان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مقبول بندے جہاں رہتے ہوں تم ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو:

﴿هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَسْقُى جَلِيْسُهُمْ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ عزوجل، ج: ۲، ص: ۹۲۸)

ان کی صحبت کی برکت سے تمہاری شقاوت تمہاری بد بختنی و بد نصیبی خوش نصیبی سے بدل جائے گی۔ یہی ہے لا تشقونَ بعْدَ هَا أَبَدًا اس حدیث میں تجلیات جذب کا زمانہ بتایا گیا کہ اس دنیا کے شب و روز میں جس کو وہ تجھی مل گئی وہ شفیق نہیں رہ سکتا اور بخاری کی اس حدیث پاک لا یَسْقُى جَلِيْسُهُمْ میں ان تجلیات کا مکان بتایا گیا کہ وہ اللہ والوں کی جگہ ہے جہاں وہ تجلیات جذب کی آتی ہیں، جہاں اللہ والے رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہر وقت جذب کی تجلیات نازل کرتا ہے۔

مولانا قاسم صاحب نا نو توی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص پنکھا جھل رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت! اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی رحمت دوسروں کو کیسے ملے گی کیونکہ عمل تو ان کا اچھا ہے، ان پر فضل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دوسرا تو نالائق بیٹھنے ہیں ان کو رحمت کیسے ملے گی؟ فرمایا کہ تو مجھے پنکھا جھل رہا ہے یا ان سب کو؟ کہا میں تو آپ ہی کو جھل رہا ہوں، فرمایا کہ یہ جتنے میرے پاس بیٹھے ہیں ان کو ہوا لگ رہی ہے یا

نہیں۔ جب اللہ کی رحمت کسی پر برستی ہے اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی وہ رحمت ملتی ہے۔ لہذا تجلیاتِ مقربات، تجلیاتِ جذب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو برداشت بخاری شریف اللہ کے خاص بندوں کے پاس بیٹھیے، ان کی صحبت اختیار کیجئے۔

خاص بندوں کی پہچان

آپ کو کیسے معلوم ہو کہ یہ خاص بندے ہیں۔ جوامت کے خاص بندے ہیں وہ ان کو خاص سمجھتے ہوں اور کسی بزرگ کی اس نے صحبتِ اٹھائی ہو۔ شریعت اور سنت پر چل رہا ہو۔ علمائے دین بھی اس کی تصدیق کر رہے ہوں۔ خالی عوام کا جمیع نہ ہو۔

تو آخر میں میں نے بتادیا کہ جذب کیسے ملے گا۔ زمانہ بھی بتادیا اور مکان بھی بتادیا۔ ایک حدیثِ پاک میں زمانہ بتایا گیا کہ پورے زمانے میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تجلیات برستی رہیں گی ان لِرَبِّکُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرٍ كُمْ نَفَحَاتٍ تمہارے رب کیہ مرف سے تمہارے زمانہ کے دن رات میں یہ تجلیات جن سے اللہ اپنے بندوں کو جذب کرتا ہے نازل ہوتی رہیں گی۔ ان کو تلاش کرتے رہو، اگر کوئی جلی حاصل ہو گئی تو پھر کبھی شقی نہیں ہو سکتے۔ مگر ان کا مکان کہاں ہے، یہ کہاں ملیں گی تو دوسرا حدیثِ پاک لا یَشْقَى جَلِیٌسُهُمْ میں بتادیا گیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں ملیں گی جہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور ان کا جلیس وہ نہیں کبھی بدجنت و شقی نہیں رہ سکتا۔ معلوم ہوا کہ شقاوات سے محفوظ رکھنے والی تجلیاتِ جذب کا مکان اہل اللہ کی مجالس ہیں۔ (تجلیاتِ جذب، حصہ چہارم، صفحہ: ۳۲-۳۳)

مزید شرح حدیثِ بالا

تجلیاتِ جذب کے زمان و مکان

ارشاد فرمایا کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ مجھ سے برادنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ستاری کا پردا نہ ہوتا تو میں کسی کو منہ نہیں دکھان سکتا تھا مگر اللہ کی ذات میں تمام شانیں اور خوبیاں موجود ہیں جس سے بندوں کی ہر خرابی دور ہو جائے اور ان کی بگڑی بن جائے۔ ما یوں ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معنہتائے تحریک کو اپنے ارادہ تعمیر کے نقطے آغاز سے درست کر سکتے ہیں اس لیے کتنی ہی خراب حالت ہو اللہ سے نا امید نہ ہو، دعا کرتا رہے اور اللہ والوں کی صحبت میں رہے کیونکہ یہ صحبتیں قسمت ساز ہوتی ہیں، قسمتیں ان اللہ والوں کے صدقہ میں بنتی ہیں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی نسیم کرم کے جھونکے لگ جاتے ہیں۔ جامع صغیر کی روایت ہے ان لِرَبِّکُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرٍ كُمْ نَفَحَاتٍ

اے لوگو! تمہارے اسی زمانے میں تمہارے رب کی طرف سے نسیمِ کرم کے جھونکے آتے ہیں، اگر تم ان کو پا گئے تو فَلَا تَشْقُونَ بَعْدَهَا أَبَدًا تم کبھی بدجنت نہیں ہو گے، مگر یہ جھونکے ملتے کہاں ہیں؟ زمانہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ جھونکے اسی دنیا میں آتے ہیں لیکن ان کا مکان کہاں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث سے ان کا مکان معلوم ہوا کہ یہ اللہ والوں کے پاس ملتے ہیں:

﴿هُمُ الْجُلَسُءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيلُهُمْ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب: فضل ذکر اللہ عزوجل)

یہ ایسے مبارک بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا نامراد اور بد قسمت نہیں رہتا۔ ایک حدیث سے تجلیاتِ جذب کا زمانہ معلوم ہوا اور وسری حدیث سے ان تجلیات کا مکان معلوم ہو گیا مگر نظر اللہ پر رہے، شیخ دروازہ ہے، صرف دروازہ ہے، دینے والا کوئی اور ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے گر دروازہ سے ہی دیتے ہیں عادۃ اللہ یہی ہے کہ اللہ والوں کے دروازہ ہی سے نسبت مع اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، دروازہ کو چھوڑ کر کوئی جائے تو نہیں دیتے مگر نظر دینے والے پر رکھو اور دروازہ کا ادب کرو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میں دروازہ پر پہنچ گیا مگر دینے والے آپ ہیں، آپ ہی میری اصلاح فرمادیجیے۔ (پردیس میں تذکرہ وطن، ص: ۱۵)

حدیث نمبر ۱۶

﴿أَنَا حَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي﴾

(المعجم الكبير لطبراني)

ترجمہ: میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

صحبت یافتہ اور فیض یافتہ

جس بادشاہ کو اپنی بادشاہت کا علم نہ ہو وہ بادشاہ نہیں ہے۔ جس ڈپٹی کمشنر کو معلوم نہ ہو کہ میں اس حلقہ کا ڈپٹی کمشنر ہوں وہ ڈپٹی کمشنر بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی جس پیغمبر کو اپنی نبوت کا علم نہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے نبی کو اپنی نبوت پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گذر جس نے کہا ہو کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نبی ہوں یا نہیں بلکہ ہر نبی نے اپنی نبوت کا بناگ دہل اعلان فرمایا جس طرح خاتم النبین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں فرمایا کہ آنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ آنَا بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اور قیامت تک کے لیے اعلان فرمادیا آنَا حَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي کہ میں خاتم النبین ہوں اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا ب قیامت تک جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذب اور دجال ہے۔ انبیاء کو تو وہی سے اپنی نبوت کا لقینی علم ہو جاتا ہے لیکن اولیاء اللہ کو بھی حالات

وقرآن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے قلب میں وہ مولیٰ اپنی بخی خاصہ سے متعلق ہو گیا، ولایت خاصہ عطا ہو گئی جس کو اپنے قلب میں اس مولیٰ کا قریب خاص محسوس نہ ہو وہ ولی نہیں، اس کا دل خالی ہے۔ ناممکن ہے کہ دریا میں پانی ہوا اور اس کو محسوس نہ ہو کہ میرے اندر پانی ہے۔ اگر دریا خاک اڑا رہا ہے یہ دلیل ہے کہ اس دریا میں پانی نہیں ہے چاہے وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ میں بالباب بھرا ہوا ہوں اور سینہ تان کر بہہ رہا ہوں لیکن اس کا خاک آمیز ماحول بتائے گا کہ یہ پانی سے محروم ہے، یہ ڈینگ ہانک رہا ہے اور لاف زنی کر رہا ہے جب دریا بالباب بہتا ہے تو بہت دور تک اس کی ٹھنڈک فضاوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ کئی میل دور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس طرف دریا ہے کیونکہ ادھر سے جو ہوا آتی ہے وہ پانی سے لگ کر آتی ہے۔ پانی کی صحبت یافتہ ہوا اور ٹھنڈی ہوا، جو ہوا ٹھنڈی نہ ہو تو دلیل ہے کہ یہ پانی کی صحبت یافتہ نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں صحبت یافتہ ہوتی اور پانی کی ٹھنڈک کو صحیح معنوں میں جذب کیا ہوتا تو ضرور ٹھنڈی ہوتی۔ صحبت یافتہ کے معنی خالی صحبت یافتہ نہیں بلکہ فیض یافتہ صحبت ہے۔ اس لیے خالی یہ نہ دیکھئے کہ یہ شخص شیخ کے ساتھ رہتا ہے بلکہ یہ دیکھئے کہ اس کے اندر شیخ کا فیض کتنا آیا ورنہ وہ صحبت یافتہ تو ہے فیض یافتہ نہیں کیونکہ اہدِنا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ کا بدل الکل من الکل صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے یعنی انعام والے بندوں کا راستہ پکڑ و تب صِرَاطُ مُتَقِيمٍ پاؤ گے اور انعام والے بندے کوں ہیں؟ ان کو دوسری آیت میں بیان فرمایا:

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّلِيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِيْحِينَ وَ حَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

(سورة النساء، آیۃ: ۲۹)

پس اگر انعام والے بندوں کے ساتھ رہنے کے باوجود کوئی ان کی صفات کا حامل نہیں تو کہا جائے گا کہ یہ فیض یافتہ صحبتِ منعم علیہم نہیں ہے، اس کے حسن رفاقت میں کوئی کمی ہے وَ حَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقَاتٍ معلوم ہوا کہ صرف رفاقت کافی نہیں حسن رفاقت مطلوب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے حسن رفاقت میں کوئی کمی ہے اور وہ کمی کیا ہے؟ مثلاً شیخ کے ارشادات پر عمل نہ کرنا۔ بے برکتی کا سبب بے عملی اور بے فکری ہے۔ شیخ نے مشورہ دیا کہ غصہ نہ کرنا، مخلوقِ خدا پر رحمت و شفقت کرنا تو شیخ کی بات کو مان لوازمندگی بھر غصہ کو قریب نہ آنے دو۔ اگر شیخ کے مشوروں پر عمل کی توفیق نہیں تو وہ فیض یافتہ صحبت نہیں ہے خواہ وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ مجھے فیضِ صحبت حاصل ہے لیکن اگر تمہارے قلب میں نسبتِ مع اللہ کا دریا بہہ رہا ہے تو مغلوبیت نفس کی خاک کیوں اڑ رہی ہے؟ یہ غصہ سے تمہارا مغلوب ہو جانا دلیل ہے کہ دل اللہ کے تعلقِ خاص سے محروم ہے کیونکہ اللہ کی محبت کی لازمی علامت تواضع، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اَذْلَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کیا لوگ مؤمنین کے لیے بچھے جاتے ہیں، تواضع سے پیش آتے ہیں۔ جس شاخ میں پھل آ جاتا ہے وہ جھک جاتی

ہے اور یہ تمہارا اکثر کے چلنا اور ہر کسی سے لڑنا اور ہر وقت طبیعت سے شکست کھا کر گر پڑنا دلیل ہے کہ تمہارے اندر اللہ کی محبت کی کمی ہے اور شیخ کا فیض صحبت تمہیں نہیں ملا اور ملا تو بہت ہی کم ملا۔

شیخ کے فیض کے جذب کی صلاحیت دو چیزوں سے ملتی ہے، نمبرا۔ ذکر اللہ پر مداومت، نمبر ۲۔ تقویٰ پر استقامت۔ ذکر اللہ سے حیاتِ ایمانی ملتی ہے اور فیض زندوں کو پہنچتا ہے مردہ آدمی کو فیض کیا پہنچے گا۔ حدیثِ پاک میں ہے کہ ذا کرمشل زندہ کے ہے اور غیر ذا کرکی مثال مردہ کی سی ہے۔ ملاعی قاری فرماتے ہیں فَإِنَّ مُدَاوَةَ ذِكْرِ الْحَيَّ لَا يَمُوتُ تُورُثُ الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّتِي لَا فَنَاءَ لَهَا ذُكْرُ پر مداومت مورث ہے حیاتِ حقیقی کی جس کو بھی فنا نہیں۔ جو ذکر نہیں کرتا وہ مثل مردہ کے ہے اور جذب فیض شیخ سے محروم رہتا ہے۔ صحبت یافتہ ہونے کے باوجود جن کو فیض نہیں ملا اس کے دو سبب ہیں نمبر (۱) اللہ کو یاد نہ کرنا، (۲) تقویٰ سے نہ رہنا یعنی گناہ سے نہ بچنا۔ ہر شخص کو صحبت کا فیض بقدرِ مجاہدہ کے ہوتا ہے۔ اگر قتل کو گلب کے پھولوں میں بسایا ہوا ہے مگر وہ قتل مجاہدہ سے نہیں گزرا، رگڑ رگڑ کے اس کی موٹی کھال یعنی بھوسی نہیں چھڑائی گئی تو ایسا تل پھولوں کا صحبت یافتہ ہوگا فیض یافتہ نہیں ہوگا۔ اس کی موٹی موٹی کھال کے پر دوں کی وجہ سے پھول کی خوشبواس میں نفوذ نہیں کرے گی اور اسی تل کو اگر رگڑ رگڑ کر اس کی بھوسی چھڑا دی جائے بیہاں تک کہ ہلکا سا ایک غلاف رہ جائے جس میں سے تیل نظر آتا ہے کہ اگر سوئی چھبودو تو تیل باہر آ جائے اتنا مجاہدہ کر کے اب گلب کے پھولوں میں اگر اس تل کو بسادو گے تو اب گلب کا فیض پہنچے گا اور گلب کی خوشبوتوں کے تیل میں نفوذ کر جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اگر صحبت یافتہ ہے لیکن مجاہدہ کر کے دل سے غفلت کے پردوں کو نہیں ہٹاتا، گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا تو شیخ کا فیض اس کے دل میں نفوذ نہیں کرے گا۔ صحبت یافتہ ہونا اور ہے، فیض یافتہ ہونا اور ہے۔

لہذا ذکر پر مداومت اور تقویٰ پر استقامت یعنی نظر کی حفاظت اور اللہ کے راستہ کا غم اٹھانے سے، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے سے جذب فیضِ مرشد کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ورنہ قیامت تک شیخ کے ساتھ رہو گے تو زماناً صحبت یافتہ ہونے کے باوجود فیض یافتہ نہ ہو گے۔ صحبت کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہوگا لیکن نامکمل فائدہ ہوگا۔ اگر کامل فائدہ اور شیخ کا فیض کامل چاہتے ہو تو دل کے پردوں کو مٹاؤ، اللہ کے راستہ کا غم اٹھاؤ اور شیخ کا بتایا ہوا ذکر کرتے رہو، ان شاء اللہ جذب فیض شیخ کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور شیخ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے۔ (انعاماتِ رباني، صفحہ: ۸۳-۹۰)

کیفیتِ احسانی اور صحبتِ اہل اللہ

لہذا صحبت شیخ کو نعمتِ عظیمی سمجھو اور اپنی تمام نفلی عبادات واذکار سے زیادہ شیخ کی صحبت کے ایک

لمحہ کو غیمت سمجھو۔ اگر صحبت ضروری نہ ہوتی اور علم کافی ہوتا تو قرآن پاک پڑھ کر ہم سب صحابی ہو جاتے۔ تلاوتِ قرآن پاک سے صحابی نہیں ہوتا، نگاہِ نبوت سے صحابی ہوتا ہے۔ نگاہِ نبوت سے صحابہ کو وہ کیفیت احسانی حاصل ہوئی تھی کہ ان کا ایک مدد جو صدقہ کرنا، ہمارے أحد پیہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ یہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حامل کیفیت احسانیہ قیامت تک کوئی نہیں آئے گا لہذا اب کوئی شخص صحابی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارا أحد کے برابر سونا خرچ کرنا اس کیفیت احسانیہ کے ساتھ نہیں ہو گا جس کیفیت احسانی سے میرا صحابی ایک مدد جو اللہ کے راستہ میں دے گا۔

اور کیفیت احسانی کیا ہے؟ آنَ تَعْبُدُ اللَّهَ كَانَكَ تَرَاهُ قلب کو ہر وقت یہ کیفیت راسخ حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جس کو یہ کیفیت راسخ حاصل ہو گئی اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے، اس کا اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے۔ احسان بابِ افعال سے ہے اور بابِ افعال بھی معنی میں اسمِ فاعل کے ہوتا ہے۔ احسان معنی میں محسن کے ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ احسان ایمان کو بھی حسین کر دیتا ہے، اسلام کو بھی حسین کر دیتا ہے، اس کی بندگی ہر وقت حسین رہتی ہے۔ جس کو ہر وقت یہ استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اس کا ایمان حسین نہیں ہو گا؟ اس کو تو ہر وقت حضوری حاصل ہو گی، ایمان بالغیب نام کا ایمان بالغیب رہ جائے گا اور اس کا اسلام بھی حسین ہو جائے گا یعنی اس کی نماز، اس کی تلاوت اس کا سجدہ سب حسین ہو جائے گا۔

لہذا شیخ کے پاس اضافہ علم کی نیت سے نہ جاؤ، اس نیت سے جاؤ کہ اس کے قلب کی کیفیت احسانی، اللہ تعالیٰ کا تعلق، قرب و حضوری، بہت تقویٰ و ایمان و یقین کا اعلیٰ مقام ہمارے قلب میں منتقل ہو جائے۔ نفع لازم کی فکر کرو، نفع متعدد کی نیت بھی نہ کرو کہ یہ بھی غیر اللہ ہے اور نفع لازم کو نفع متعدد لازم ہے جیسے کہیں کوئی کتاب تلا جا رہا ہے۔ تلنے سے کتاب خود لذیذ ہو رہا ہے۔ نفع لازم حاصل کر رہا ہے لیکن اس کی خوشبو جب دور دور پہنچ گی تو لوگ اس کی خوشبو سے مست ہو کر خود دوڑیں گے کہ آہا کہیں کتاب تلا جا رہا ہے، چلو اس کو حاصل کریں۔ اسی طرح جو عالم کسی اللہ والے کے زیر تربیت مجاہدات کی آگ میں تلا جاتا ہے وہ لاکھا پنے آپ کو چھپائے اس کی خوشبو دور جاتی ہے۔ ایک عالم اس سے مستفید ہوتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی تربیت میں وہ مجاہدہ کرے۔ وہ اللہ والا جانتا ہے کہ اس کو تمنی دیریتک تلنا ہے، کتنی آنچ دینی ہے۔ بغیر صحبت اہل اللہ کے مجاہدہ بھی کافی نہیں۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ تلی کتنا ہی مجاہدہ کر لے اور کہے کہ مجھے میرے مجاہدات کافی ہیں، مجھے پھولوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت نہیں تو

ایسی تلی کو لاکھ رگڑ اور کولہو میں اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے لیکن رہے گا تلی ہی کا تیل، رونگن گل نہیں ہو سکتا کیونکہ پھولوں کی خوشبو میں نہیں بسا۔ اسی طرح جو شخص مشانخ سے مستغتی ہو کر مجاہدات کرتا ہے اس کا قلب نسبت مع اللہ کی خوشبو سے محروم رہتا ہے اور جو کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر مجاہدہ کرے تو اس مجاہدہ کی برکت سے اس میں جلب نور کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور شیخ کی نسبت مع اللہ اور کیفیت احسانی کی خوشبواس کے قلب کے ذرہ ذرہ میں نفوذ کر جاتی ہے اور وہ صاحب نسبت اور حامل کیفیت احسانی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے صحبت کی اہمیت۔

لہذا اہل علم اپنے علم پر نازنہ کریں، علم کا پندار توڑ کر کسی اللہ والے کے قدموں میں اپنے کو مٹا دیں پھر اے علماء! آپ کے کمیات علمیہ شرعیہ حامل کیفیات احسانیہ ہوں گے۔ اور آپ کے علم میں وہ انوار پیدا ہوں گے کہ سارا عالم جیران ہوگا اور ایک عالم آپ سے سیراب ہوگا۔ (افتخار بانی، صفحہ: ۱۲-۱۵)

دنیا میں حق تعالیٰ کی معیت خاصہ، مشاہدہ حق اور توجہ الٰہی اللہ کو حمد۔ حدیث احسان میں سرویر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللَّهُ تَعَالَى کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو پس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پس جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو گویا تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث کی شرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ فرمائی ہے ان يَعْلِمَ عَلَيْهِ مُشَاهَدَةُ الْحَقِّ بِقُلُبِهِ حَتَّىٰ كَانَهُ يَرَاهُ بِعِينِهِ اللَّهُ تَعَالَى کی حضوری قلب پر ایسی غالب ہو جائے کہ گویا بنہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی توجہ الٰہی اللہ ہے کہ حضور قلب اور توجہ کاملہ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو۔ (دری مشنوی مولانا روم، صفحہ: ۱۳-۱۵)

حدیث نمبر ۷۱

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ﴾

(صحیح البخاری، کتاب القدر، باب من تعوذ بالله، ج: ۲، ص: ۹۷-۹۸)

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سخت ابتلاء سے اور بدجنتی کے پکڑ لینے سے اور سوئے قضاء سے اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے۔

حدیث پاک کی یہ دعا اللہُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ روزانہ مانگنے کا معمول بنا لیں۔ اس کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ سخت مصیبت سے، شقاوت و بدجنتی سے، سوء قضاء سے اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے حفاظت رہے گی۔

جَهَدِ الْبَلَاءِ کے جنم پر خستہ دونوں پڑھنا جائز ہے لیکن فتح کو ترجیح ہے کیونکہ فتح اخف

الحرکات ہے۔ یہ منجح بھی بیان ہو گیا۔

جَهْدُ الْبَلَاءِ کی محدثین نے دو شرح کی ہے۔ ایک معنی ہیں ایسی سخت بلاء اور مصیبت جس سے آدمی موت کی تمنا کرنے لگے۔ ایک مریض کا واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہے کہ دمہ کی وجہ سے اس کی سانس اندر نہیں جا رہی اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے موت کا انجکشن لگا دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بیماری اور مصیبت سے محفوظ فرمائے، آمین۔

اور دوسری شرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ **قِلَّةُ الْمَالِ وَ كَثْرَةُ الْعِيَالِ** یعنی مال کم ہوا اور اولاد زیادہ ہو۔ مال کی کمی کی وجہ سے ان کی پروش اور کھانے پینے میں سخت پریشانی ہوتی ہے یہ بھی **جَهْدُ الْبَلَاءِ** ہے جس سے پناہ مانگی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اموال کو اولاد پر مقدم فرمایا:

﴿إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ۵۰ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۵۱ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ۵۲ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۵۳﴾

(سورة نوح، ۱۰-۱۱-۱۲)

اپنے رب سے معافی چاہو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ آسمان سے تم پر پانی برسائے گا اور استغفار کی برکت سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو بڑھادے گا۔ اموال کو مقدم فرمایا تاکہ بندے گھبرا نہ جائیں کہ اولاد زیادہ ہوئی تو کہاں سے کھلاؤں گا۔

وَدَرْكِ الشَّقَاءِ شین پر زبر ہے جس کے معنی بد بختی اور بد نصیبی کے ہیں۔ اس وقت تو ہم چین و آرام سے ہیں لیکن پناہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی بد بختی ہم کو کپڑے لے لے لیں۔ اللہ ہمارے مستقبل کوشقاوت و بد نصیبی سے تحفظ عطا فرم۔ اور گناہوں کو شقاوت و بد نصیبی میں بڑا دخل ہے گناہوں سے شقاوت پیدا ہوتی ہے، اس کی دلیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے:

﴿اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي وَ لَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ﴾

اے اللہ! مجھ پر وہ رحمت نازل فرم کہ جس سے میں گناہوں کو چھوڑ دوں اور مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے بد بخت نہ ہونے دیجئے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں میں شقاوت اور بد بختی کی خاصیت ہے۔ اس لیے گناہوں کو جلد چھوڑ دینا چاہیے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی خلوست سے شقاوت مقدر ہو جائے۔ اس دعا میں درکِ الشَّقَاءِ سے پناہ مانگی گئی تاکہ ہمارا مستقبل شقاوت سے محفوظ ہو جائے۔

وَسُوءُ الْقَضَاءِ میں ماضی کی بد نصیبی سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اگر ماضی میں آپ نے میری تقدیر میں کوئی شقاوت اور سوء قضا لکھ دی ہو تو اس کو حسن قضا سے تبدیل فرمادیجیے۔ جو فیصلے میرے حق میں

برے ہیں ان کو اپنے فیصلوں سے تبدیل فرمادیجئے۔ یہاں سوء کی نسبت قاضی کی طرف نہیں مقتضی کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ سوء ہو ہی نہیں سکتا لیکن جس کے خلاف وہ فیصلہ ہے اس کے حق میں بُرا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

کفر ہم نسبت بہ خالق حکمت است

اگر قضا اور فیصلہ کی تبدیلی اللہ کو منظور نہ ہوتی اور سوء قضا کا حسن قضا سے مبدل ہونا محال ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائے سکھاتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قضاۓ الہی کو تبدیل کرنا محال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے لیے محال ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ حاکم مطلق ہیں جب چاہیں اپنے فیصلہ کو تبدیل فرماسکتے ہیں۔ اسی کو مولانا رومی عاشقانہ انداز میں مانتے ہیں کہ اے اللہ! اگر میری قسمت میں کوئی سوء قضا آپ نے لکھ دی ہو تو اس سوء قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرمادیجئے کیونکہ قضا آپ کی مخلوم ہے، آپ پر حاکم نہیں ہو سکتی۔ آپ کا فیصلہ آپ پر حکومت نہیں کر سکتا، آپ کے فیصلوں کو آپ پر بالادستی حاصل نہیں بلکہ آپ کو اپنے فیصلوں پر بالادستی حاصل ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ملکِ یوْم الدِّین فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ قیامت کے دن میری حیثیت قاضی اور رجح کی نہیں ہوگی، قاضی اور رجح تو قانون مملکت کا پابند ہوتا ہے۔ قانون کے خلاف وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کہہ دیتا ہے کہ صاحب کیا کریں قانونی مجبوری ہے لیکن مجھے کوئی قانونی مجبوری نہیں ہو سکتی کیونکہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، قاضی اور رجح کی طرح قانون کا پابند نہ ہوں گا۔ جس کو چاہوں گا اپنے شاہی رحم سے بخش دوں گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عرشِ اعظم کے سامنے یہ عبارت لکھوائی ہوئی ہے کہ سَبَقَتْ رَحْمَتُ عَلَى غَصَبِيْ میری رحمت اور غصب کی دوڑ میں میری رحمت میرے غصب پر سبقت لے گئی۔ موضع القرآن کے مصف حضرت شاہ عبدالقدار محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عبارت از قبل مراثم خسروانہ ہے یعنی بطور شاہی رحم کے ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے جب کوئی مجرم ہار جاتا ہے تو اخباروں میں آ جاتا ہے کہ مجرم نے شاہ سے رحم کی اپیل کر دی الہذا جو گنہگار جہنم کا مستحق ہو گا اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اپنے شاہی رحم سے، اپنے مراثم خسروانہ سے بخش دیں گے۔ یہ بات تفسیر موضع القرآن میں ہے اور یہ تفسیر چودہ سال میں لکھی گئی اور جس پتھر پر شاہ صاحب کہنی سے ٹیک لگا کر لکھا کرتے تھے اس پتھر پر نشان پڑ گیا تھا۔ یہ بات میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتائی الہذا ہم اسی دنیا میں یہ دعا مانگ لیں کیونکہ آخرت دارلحزاہ ہے وہاں کوئی نہیں مانگ سکتا، وہاں کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے الہذا ہم یہاں پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کر دیں کہ اے اللہ! میں قیامت کے دن اپنے مراثم خسروانہ سے

بخش دیجیٹے۔

وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَرُدُّ شَمَنُوْكَی طَعْنَهُ زَنِی سے پناہ مانگنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں مثلاً جو شخص امر بالمعروف اور نہیں عن الممنوع کرتا ہوا اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو دشمن طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھئے ہمیں کہا کرتے تھے اب خود کسی مصیبت میں گرفتا ہیں الہذا وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ سے پناہ مانگو کہ اے اللہ دشمنوں کو ہم پر طعنہ زنی کا موقع نہ دے۔ اور دوسرا دعا ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوُلِ عَافِيَّتِكَ وَفُجَاءَةِ نِعْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخْطِكَ ﴿٢﴾

(صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعا، باب اکثر اهل الجنة الفقراء، ج: ۲، ص: ۳۵۲)

اس کا ترجمہ دلایل التزامی سے یہ ہے کہ اے اللہ! ہمیں ہر گناہ سے بچا جو سبب ہے آپ کی ناراضگی کا۔
(انعامات رباني، صفحہ: ۹۶-۱۰۰)

حدیث بالا کی شرح دوسرے عنوان سے

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے فیصلے بدلوالو، تقدیر یں بدلوالو۔ تقدیر مخلوق نہیں بدلتی مگر خالق اپنے فیصلے کو بدلتا ہے بس اللہ ہی سے فریا کرو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ اس حدیث پاک میں سوء قضاۓ سے پناہ مانگی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اگر میری تقدیر میں کوئی شقاوت، بدختی اور سوء قضاۓ یعنی وہ فیصلے جو میرے حق میں بُرے ہیں لکھ دیئے گئے ہیں تو آپ ان کو اچھے فیصلوں سے تبدل فرمادیجیت، شقاوت کو سعادت سے اور سوء قضاۓ کو حسن قضاۓ سے تبدل فرمادیجیت۔ یہاں سوء کی نسبت قاضی کی طرف نہیں مقھی کی طرف ہے یعنی برائی کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بُرا نہیں ہو سکتا لیکن جس کے خلاف وہ فیصلہ ہے اس کے حق میں بُرا ہے جیسے نج کسی مجرم کو پھانسی کی سزا دیتا ہے تو نج کا فیصلہ بُرانہیں، یہاں برائی کی نسبت نج کی طرف نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے تو انصاف کیا ہے لیکن جس مجرم کے خلاف یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے حق میں بُرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، وہ خالق خیر و شر ہے جس طرح تخلیق خیر حکمت سے خالی نہیں اسی طرح تخلیق شر بھی حکمت سے خالی نہیں مثلاً ظلمت سے نور کی، کفر سے ایمان کی معرفت ہوتی ہے وغیرہ الہذا اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کی طرف سوء کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ کفر کو پیدا کرنا اللہ پاک کی عین حکمت ہے لیکن جب کفر کی نسبت بندہ کی طرف ہوتی ہے اور بندہ اس کو اختیار کرتا ہے تو کفر اس کے لیے آفت و بد نصیبی و شقاوت ہے۔

معلوم ہوا کہ جزا و سزا کسب پر ہے۔ جو ایمان کو کسب کرتا ہے اچھی جزا پاتا ہے اور جو کفر کا مرکب

ہوتا ہے سزا پاتا ہے۔ اس کی مثال میرے شیخ شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے مجیب دی کہ جیسے حکومت نے بجلی بنائی اور بتا دیا کہ فلاں سوچ کو دبانا لیکن فلاں سوچ کونہ دبانا۔ پھر اگر کوئی منوعہ سوچ کو دباتا ہے تو پکڑا جاتا ہے کہ تم نے وہ سوچ دبایا کیوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق خیر و شر ہیں اور حکم دے دیا کہ خیر کو اختیار کرو اور شر سے بچو پھر اگر کوئی شر اختیار کرتا ہے تو اسی پر مواخذہ اور پکڑا ہے کہ جب ہم نے منع کر دیا تھا تو تم نے اسے کیوں اختیار کیا۔ اسی کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوء کی نسبت قاضی کی طرف نہیں مقصی کی طرف ہے۔

اور حدیث پاک میں سوء قضاۓ سے پناہ کی درخواست سے معلوم ہوا کہ اگر سوء قضاۓ کا حسن قضاۓ تبدیل ہونا محال ہوتا یا منشاء الہی کے خلاف ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو یہ دعا نہ سکھاتے۔ آپ کا سوء قضاۓ سے پناہ مانگنا تبدیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سوء قضاۓ کو حسن قضاۓ مبدل فرمادیتے ہیں اور یہ درخواست عین منشاء الہی کے مطابق ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق نہیں بدل سکتی، اللہ اپنے فیصلہ کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو اللہ پر بالادستی حاصل نہیں، اللہ کو اپنے فیصلوں پر بالادستی حاصل ہے اسی کو مولانا روی نے فرمایا کہ اے اللہ قضاۓ آپ کی محکوم ہے آپ پر حاکم نہیں بلکہ اللہ اس سے قضاۓ کو حسن قضاۓ سے تبدیل فرمادیجئے۔

اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ملکِ یوم الدین فرمایا کہ قیامت کے دن میری تہییت قاضی اور حج کی نہیں ہوگی کہ وہ تو قانونِ مملکت کے پابند ہوتے ہیں، قانون کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی مجرم کو قانون کے خلاف رہا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مالک ہوں قیامت کے دن کا، میں قاضی اور حج کی طرح پابند قانون نہ ہوں گا۔ جو گنہگار قانون کی رو سے جہنم کا مستحق ہوگا تو میں قانون سے مجبور نہ ہوں گا کہ اسے جہنم ہی میں ڈال دوں جس کو چاہوں گا اپنے مراثم خردوانہ سے، اپنی رحمت شاہانہ سے بخش دوں گا۔ (محبت و معرفت، صفحہ: ۳۶۰-۳۶۳)

شرح حدیث بعنوانِ دگر

معلوم ہوا کہ اگر سوء قضاۓ کا حسن قضاۓ سے تبدیل ہونا محال ہوتا تو حدیث پاک میں امرت کو یہ دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم نہ فرماتے اور یہ جو مشہور ہے کہ تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مخلوق نہیں بدل سکتی اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل سکتے ہیں جیسا کہ مولانا روی نے مثنوی میں فرمایا کہ اے اللہ آپ کو اپنے فیصلوں پر بالادستی حاصل ہے، قضاۓ آپ کی محکوم ہے آپ پر حاکم نہیں، آپ کے فیصلوں کو آپ پر بالادستی حاصل نہیں بلکہ اللہ اسے حق میں برے ہیں ان کو اچھے فیصلوں سے تبدیل فرمادیجئے۔

کیونکہ آپ کا کوئی فیصلہ بُرَانہیں کہ وہ تو عین عدل و انصاف اور عین حکمت ہے لیکن میری شامتِ عمل سے کیونکہ وہ میرے حق میں برآ ہے اس لیے اس کو بدل دیجئے تاکہ میں تباہی و ہلاکت سے نج جاؤں جیسے عادل نجگسی مجرم کو پھانسی کا حکم سناتا ہے تو فی نفسہ یہ فیصلہ بُرَانہیں کیونکہ عدل و انصاف پر بنی ہے لیکن جس کے خلاف یہ فیصلہ اس کے جرائم کی وجہ سے ہوا ہے اس مجرم کے لیے برآ ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ یہاں سوء کی نسبت قاضی کی طرف نہیں مقصی کی طرف ہے یعنی برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے بلکہ جس کے خلاف جس کے طرف ہے اس کی طرف ہے، فیصلہ بُرَانہیں لیکن جس کے خلاف ہے اس کے لیے برآ ہے اور جس طرح جب مجرم عدیہ سے مالیوں ہو جاتا ہے تو بادشاہ وقت یا صدرِ مملکت سے رحم کی اپیل کرتا ہے لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُمت کو یہ دعا تعلیم فرمادی کہ سوء قضا سے حفاظت مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیر یہ بدلوا لو کہ عدل کے اعتبار سے تو ہم مُستحق سزا ہیں لیکن آپ سے آپ کے فضل اور آپ کے مراعِم خسر و انہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری بری تقدیر کو محض اپنے رحم شاہی کے صدقہ میں اچھی تقدیر سے بدل دیجئے۔

اہل اللہ کی رفاقت اور ان سے محبت للہی سوء قضا سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ وَأَمْتَأْذُوا الْيُومَ ایُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا خطاب انہیں کو سننا پڑے گا جو قبلًا و قالباً و اعتقاداً عباد صالحین سے نہ ہوں گے، وہی مجرمین ہوں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام الْحَقْنِي بِالصَّلِحِينَ کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں تو پھر غیر نبی کا کیا منہ ہے جو الحاق بالصالحین کی اہمیت کا منکر ہو۔

اہل اللہ کی رفاقت سوء قضا سے حفاظت کا ذریعہ ہے اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمین باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے کسی بندہ سے محبت کرے اس کو حلاوتِ ایمانی عطا ہو جائے گی اور حضرت ملا علی قاری مرقاۃ میں نقل کرتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت جس قلب میں داخل ہوتی ہے پھر بھی نہیں نکلتی اور اس میں حسن خاتمه کی بشارت ہے کیونکہ جب ایمان قلب سے نکلے گا ہی نہیں تو خاتمه ایمان ہی پر ہو گا۔ لہذا اہل اللہ سے محبت قلب میں حلاوتِ ایمانی پانے کا ذریعہ ہے اور حلاوتِ ایمانی کا قلب میں داخل ہونا سوء خاتمه سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اللہُمَّ ارْزُقْنَا مِنْهُ۔ (فَانِ روی صحیح: ۵۱-۵۲)

حدیث نمبر ۱۸

﴿سُئِلَ أَبْنُ عُمَرَ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَضْحَكُونَ؟ قَالَ نَعَمْ وَالْإِيمَانُ فِي

قُلُّهُمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ ﴿٤٠﴾

مشکوٰۃ المصایح، کتاب الاداب، باب الصحک، ص: ۳۰۲

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے تو فرمایا کہ ہاں مگر ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔

حدیث پاک میں کثرتِ حکم سے دل مردہ ہونے کی جو عید واری دھوئی ہے اس سے مراد وہ ہنسی ہے جو غفلت کے ساتھ ہو۔ یہ بات ملاعلیٰ قاری نے مرقاۃ میں حدیث ان کثرة الصِّحْکِ تُمِيُّث القلب کی شرح میں لکھی ہے۔ جو لوگ شرح نہیں دیکھتے وہ مطلق ہنسی کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر حدیث پاک کے معنی ہوتے جو یہ متفضف لوگ سمجھتے ہیں تو ہنسنا ثابت ہی نہ ہوتا حالانکہ بہت سی احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا نہیں حتیٰ بذٹ نواجذہ کر آپ کی ڈاڑھیں کھل گئیں اور صحابہ کرام بھی ہنسا کرتے تھے کافُوا يَضْحَكُونَ وَ الْإِيمَانُ فِي قُلُّهُمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ صحابہ کرام خوب ہنتے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ تھا۔

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان نے بتایا کہ ایک بار خواجہ صاحب نے ہم لوگوں کو خوب ہنسایا پھر ہم لوگوں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس وقت ہنسی کی حالت میں کس کا دل اللہ سے غافل تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ خاموش رہے تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمد للہ میرا دل اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھا پھر یہ شعر پڑھا۔

ہنسی بھی ہے گولبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری ترنیں ہے

مگر جو دل رو رہا ہے پیہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے

اور ایک مثال اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی کہ کسی باپ کے بہت سے بچے ہوں جو باپ کے نہایت فرمائی بردار ہوں اور باپ ان سے خوش ہو وہ جب آپس میں ہنستے ہیں تو باپ خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے کیسے ہنس رہے ہیں اور نافرمان بچے جن سے باپ ناخوش ہے وہ جب ہنستے ہیں تو باپ کو غصہ آتا ہے کہ مجھے ناخوش کیا ہوا ہے اور نالائق ہنس بھی رہے ہیں۔ جن بندوں نے اللہ کو ارضی کیا ہوا ہے اور جو اللہ کو ناخوش نہیں کرتے، اپنی آرزوؤں کو توڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے ان کے ہنستے سے زمین و آسمان کا فرق ہے، غافل کی ہنسی اور ہے ذاکر کی ہنسی اور ہے۔ اس پر میرا شعر ہے۔

دل ہے خندان، جگر میں ترا درد و غم

تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم

حضرت حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں اکثر تسلک بر ہوتے ہیں اور فرمایا کہ ہنستا بولتا آدمی اچھا ہوتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ میں بھی بچپن سے خاموش طبع، فکر مند جو ہر وقت کچھ سوچتا رہتا ہوا یہ لوگوں سے دور بھاگتا تھا۔ مجھے بھی خوش طبع اور ہنسنے بولنے والے لوگوں سے مناسبت ہوتی ہے۔ زیادہ خاموش اور سنجیدہ قسم کے لوگوں سے وحشت ہوتی ہے۔ ایک شخص خوب ہنستا بولتا رہتا ہے لیکن جب کوئی حسین شکل سامنے آتی ہے ناپینا بن جاتا ہے، آنکھ بند کر لیتا ہے، نظر اٹھا کرنہیں دیکھتا۔

جب آ گئے وہ سامنے ناپینا بن گئے

جب ہٹ گئے وہ سامنے سے پینا بن گئے

ایک گناہ نہیں کرتا بتائیے یہ شخص اچھا ہے یا وہ جو بالکل خاموش آنکھیں بند کیے باخدا بنا ہوا ہے لیکن جیسے ہی کوئی کشتمی نظر آئی ناخدا بن گیا اور سوار ہو گیا یعنی بد نگاہی کرنے لگا۔ اکثر وہ لوگ جو سنجیدہ اور مقدس بنتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے تجربہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اکبرالہ آبادی نے کہا تھا۔

خلافِ شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں

اندھیرے اجائے مگر چوتا بھی نہیں

میں کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں اپنے اللہ والے دوستوں میں رہو، ان سے خوب ہنسو بولو بس نافرمانی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب کوئی حسین شکل سامنے آئے اب ہمت سے کامِ نفس کے گھوڑے کی لگام کس دوکہ نالائق تھے ہرگز نہیں دیکھنے دوں گا۔ اللہ والے دوستوں میں دن خوب عیش سے گذر جائیں گے اور نافرمانی سے نجگاہ گے ورنہ اگر لوگوں سے بھاگ کر خلوت اختیار کی تو یہ وہ زمانہ ہے کہ شیطان پہنچ جائے گا۔ اگر کچھ نہ کر سکا تو تنہائی میں پرانے گناہوں کی ریل چلا کر دل کو بتاہ کر دے گا۔ پرانے گناہوں کو یاد دلائے گا یا نئے گناہوں کی اسکیم بنائے گا۔ لہذا اس زمانہ میں زیادہ تنہائی میں رہنا سخت خطرناک ہے، اللہ والے دوستوں میں رہنے میں ہی فائدہ ہے کیونکہ خلوة مع الرحمن مفید ہے خلوة مع الشیطان نہیں۔ (اعمال بانی، صفحہ: ۱۰۲)

حدیث نمبر ۱۹

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَغْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ﴾

(عمل الیوم واللیلة لابن السنی، باب الشرک، ص: ۱۲۲)

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ شرک کروں اور اس کو میں جانتا ہوں اور تجھ

سے معافی چاہتا ہوں اس کی کہ میں نہ جانتا ہوں۔

حدیثِ پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو بلا یا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کس لیے شہید ہوا؟ کہے گا کہ اے اللہ آپ کے لیے میں نے جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو اس لیے شہید ہوتا کہ کہا جائے کہ تو بڑا بہادر ہے۔ حکم ہو گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح ایک قاری کو بلا یا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم قاری کس لیے بنے؟ کہے گا کہ اے اللہ آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو نے قراءت اس لیے کی تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا قاری ہے۔ اس کو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو گا۔ پھر ایک شخص کو بلا یا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ مال کس لیے خرچ کیا؟ کہے گا کہ اے اللہ آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا سختی ہے۔ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ دیکھاوا اتنا خطرناک مرض ہے کہ ایک شہید کی شہادت قبول نہیں ہوئی، ایک قاری کی قراءت قبول نہیں ہوئی اور ایک شخص کی سخاوت قبول نہیں ہوئی۔ جان بھی گیا، قراءت سکھنے کی محنت بھی گئی اور جنت بھی نہ ملی۔ لہذا دل کو ٹوٹانا چاہے کہ تم کس لیے عمل کر رہے ہیں ادا مرض کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔

ریا سے حفاظت کا اور اخلاص کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے اپنے شیخ و مرشد حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس شعر کے متعلق پوچھا کہ حضرت شاعر نے جو یہ کہا ہے کہ ایک منٹ کی صحبتِ اہل اللہ سوسال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے تو کیا یہ مبالغہ نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ شاعر نے کم بیان کیا ہے کہ۔

یک زمانے صحبتِ با اولیاء

بہتر از لکھ سالہ طاعتِ بے ریا

شاعر کو یوں کہنا چاہیے تھا۔

یک زمانے صحبتِ با اولیاء

بہتر از لکھ سالہ طاعتِ بے ریا

اللہ والوں کی صحبت ایک لاکھ سال کی اخلاص والی عبادت سے افضل ہے اور اس کی وجہ حضرت نے ملفوظات حسن العزیز میں بیان فرمائی کہ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی لیکن مردود ہونے سے نفع سکا لیکن اللہ والوں کا صحبت یافتہ مردود نہیں ہوتا، گناہ کا اس سے صدور تو ہو سکتا ہے لیکن دائرة اسلام سے خروج نہیں

ہو سکتا۔ ایمان ان شاء اللہ اس کا سلامت رہے گا۔ حسن خاتمہ نصیب ہو گا اور اللہ والوں کا صحبت یافتہ گناہوں پر قائم بھی نہیں رہ سکتا، توفیق توبہ ان کی برکت سے نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ صحبت اہل اللہ میں جب یہ اثر ہے کہ وہ دائرۃ الاسلام سے خروج سے حفاظت کی ضامن ہے تو پھر وہ اس عبادت سے کیوں افضل نہ ہوگی جس میں یہ اثر نہ ہو۔

حضرت حکیم الامت نے اس کی کوئی دلیل نقل نہیں فرمائی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث مجھے یاد دلائی جو حضرت حکیم الامت کے ارشاد کی دلیل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے:

﴿مَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب من کرہ ان یعود فی الکفر، ج: ۱، ص: ۸)

جو شخص کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو گی اور اللہ والوں سے اللہ ہی کے لیے محبت ہوتی ہے کیونکہ اپنا خاندان نہیں ہوتا ہے، بعض وقت اپنی زبان بھی نہیں ہوتی اور بعض وقت کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا، نہ کسی تجارت اور بزنس کا تعلق ہوتا ہے صرف اللہ ہی درمیان میں ہوتا ہے لہذا اللہ والوں سے محبت لئی بدرجہ کمال ہوتی ہے اس لیے اہل اللہ کی محبت پر بھی حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے جس پر حسن خاتمہ موعود ہے۔ (فیض ربیعی صفحہ ۲۲-۲۳)

مَالِعَلِيٍّ قَارِي فَرِمَاتَهُ ۚ هِيَ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَّةَ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا
وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى بَشَارَةِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ لِيُعَنِّ حلاوت ایمانی جس قلب کو عطا ہوتی ہے پھر بھی اس دل سن نہیں نکلتی اور جب ایمان بھی دل سے نکلا گا ہی نہیں تو اس میں حسن خاتمہ کی بشارت موجود ہے۔ اور دوسرا دلیل بھی بخاری شریف کی ہے:

﴿هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ عز وجل، ج: ۲، ص: ۹۲۸)

یہ اللہ والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی اور بد بخت نہیں رہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک دعا تعلیم فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو تو تم دکھاوے کے مرض سے نجات پاجاؤ گے مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ چاہے تھوڑی ریا ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا دکھاوا یا بڑا دکھاوا ہو ہر قسم کے دکھاوے اور ریا سے نجات پاجاؤ گے وہ دعا یہ ہے:

﴿أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ﴾

اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں کہ آئندہ تیرے ساتھ دکھاوا اور شرک کروں اور مجھے اس کی خرب بھی ہو لیکن ماضی میں جو کچھ ہو چکا اے اللہ اس سے بھی میں معافی چاہتا ہوں کہ دکھاوا ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ لہذا اعوذ

بک سے پا کی مل گئی اور آستغفرُک سے معافی مل گئی تو پا کی بھی ملی اور معافی بھی ملی اور کیا چاہیے یعنی بندہ ریا سے پاک کر دیا گیا اور جو کچھ دکھا و اماضی میں ہو چکا اس کی معافی مل گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ دعا سکھائی اس میں ریا، دکھا و اور شرک خفی سے پا کی بھی ہے اور معافی بھی ہے۔

لیکن اگر کوئی دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے اولاد دے دے اور شادی نہ کرے تو کیا اس کو اولاد ملے گی؟ ایسے ہی ریاء سے بچنے کی یہ دعا جب قبول ہوگی جب اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا سو برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر ہنس کر فرمایا کہ مگر ایک منٹ کی اخلاص کی عبادت نصیب نہیں ہوگی جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جاؤ گے۔ اخلاص ملتا ہی ہے اللہ والوں کی صحبت ہے۔

اب اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو صرف دعا سکھائی، صحبتِ اہل اللہ کی قید تو نہیں لگائی تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کو یہ دعا سکھائی جا رہی تھی وہ بھی تو صحبت یافتہ تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ جن کو صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاصل تھی ان کو یہ دعا بتائی گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت بھی حاصل رہے اور یہ دعا بھی رہے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کام بن جائے گا۔ (انعامات ربانی، صفحہ: ۱۱۲۔ ۱۱۳)

حدیث نمبر ۲۰

﴿الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلَيُنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاءَ فی اخذِ المال بحقه، ج: ۲، ص: ۲۳)

ترجمہ: آدمی اپنے گھرے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پس چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک غور کر لے اس شخص کے متعلق کہ جس کو دوست بنائے۔

پیر کی کتنی محبت ہونی چاہیے اس مضمون کے متعلق ایک بہت بڑا راز اللہ تعالیٰ نے میرے قلب پر مشوف فرمایا اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلَيُنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ انسان اپنے خلیل اور گھرے دوست کے دین پر خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو اگر شیخ سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ ہمارے قلب میں خلیل ہو جائے تو اس کی تمام ادائیں ہمارے اندر خود بخود آجائیں گی اور جب تک یہ ادائیں اس کے اندر نہیں آ رہی ہیں تو صحبت شیخ اس کے لیے نفع کامل کا ذریعہ نہیں بن رہی ہے بوجہ اس کی نالائقی اور عدم اتباع کے۔ شیخ کامل کی صحبت سے نفع کامل حاصل کرنے کے لیے تفسیر روح المعانی کا ایک جملہ ہے کہ حَالِطُوْهُمْ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ اتنا ساتھ رہو کہ تم بھی اپنے شیخ کی

طرح ہو جاؤ، وہی در دول، وہی آہ و فغاں، وہی غض بصر، وہی تقویٰ تمہارے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ اس حدیث کی رو سے کہ الْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ أَكْرَشَ تَمَہاراً خَلِيلً ہوتا اور علیٰ سبیل خلت تم کوشخ کی محبت نصیب ہوتی تو شیخ کی راہ میں اور تمہاری راہ میں فرق نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ تمہاری رفاقت میں حسن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَسْنُ أُولَئِكَ رَفِيقًا يَخْالِيْ جَمْلَهُ بُخْرَیْ نَهْيَنَ ہے اس میں جملہ انشائیہ پوشیدہ ہے۔ یہ بہت اچھے رفیق ہیں اس خبر میں یہ انشاء موجود ہے کہ ان کے ساتھ حسین رفاقت اختیار کرو۔ جب تک شیخ کے راستے میں اور مرید کے راستے میں فرق ہے تو اللہ تعالیٰ سے شیخ کی محبت علیٰ سبیل خلت مانگو کہ اے اللہ! شیخ کو میرے قلب میں اتنا محبوب کر دے کہ وہ میرا خلیل ہو جائے اور میں علیٰ دین خلیل ہو جاؤں پس جب شیخ کی محبت خلت کے درجہ میں پہنچ جائے گی تو اس کے مشورہ پر اتباع کامل کی توفیق ہوگی اور پھر خود بخود شیخ کے تمام اخلاق آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ یہ شرح اللہ تعالیٰ نے ابھی میرے دل کو عطا فرمائی۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ اس حدیث میں شیخ کی محبت کی تعلیم ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے مَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُعْجِبُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اس میں بھی شیخ کی محبت کی تعلیم ہے کیونکہ شیخ سے محبت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، وطنی، علاقائی، زبانی و تجارتی تعلق بھی نہیں ہے۔ اپنے شیخ کی محبت کا ایک انعام یہ بھی ہے جو بخاری کی اس حدیث میں مذکور ہے کہ اس کو ایمان کی مٹھاں ملے گی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کو اللہ کی محبت بھی ملے گی اور اعمال صالح کی محبت بھی ملے گی۔ اس لیے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ کی محبت مانگی تو اس کے ساتھ اللہ کے عاشقوں کی محبت بھی مانگی اور اعمال کی محبت بھی مانگی:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ الْعَمَلَ الَّذِي يُبَلَّغُنِي حُبَكَ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی عقد السیح باللہ، ج: ۲، ص: ۱۸۷)

اللہ کی محبت اور اعمال کی محبت کے نیچے میں اللہ کے عاشقوں کی محبت مانگ کر سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس کوشخ کی محبت مل جاتی ہے اس کو اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے اور اعمال کی توفیق بھی ہو جاتی ہے اور حدیث الْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ سے معلوم ہوا کہ ہر آدمی اپنے خلیل (گھرے دوست) کے دین پر خود بخود ہو جاتا ہے لہذا جس کو اپنے شیخ کی محبت کم ہوگی علیٰ سبیل خلت نہیں ہوگی اس کے اندر شیخ کا دین، شیخ کا اخلاق، شیخ کا تعلق مع اللہ پورا منتقل نہیں ہوگا۔ خلیل کے معنی ہیں گھرہ دوست۔ دوستی اتنی گھری ہو کہ دل کے اندر را غل ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمائی۔

مہر پاکاں درمیان جاں نشاں

دل مدد الا بکمہر دل خوشاب

شیخ کی محبت کو، اللہ والوں کی محبت کو اپنی جان کے اندر کھلو، عقل میں نہیں، عقلی محبت کافی نہیں ہے، دماغ میں بھی نہیں، قلب میں بھی نہیں صرف دل کی محبت بھی کافی نہیں ہے اور آگے بڑھو، دل کے درمیان کی محبت سے بھی آگے بڑھو درمیان جان لے آؤ، روح کے اندر لے آؤ، جان کے اوپر اوپر والی محبت بھی کافی نہیں۔ یہ مولا ناروی کی بлагاعت ہے، فرماتے ہیں کہ شیخ کی محبت کو جان کے اوپر ہی نہ رکھو جان کے درمیان میں لے آؤ اور اور دل کسی کو مت دیں جن کے دل اچھے ہو گئے ہیں ان کو دل دو اور دل کب اچھا ہوتا ہے؟ دل تو ایک ظرف ہے، برتن ہے، برتن کب اچھا ہو گا؟ جب اس میں اچھی چیز رکھو گے۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کون سی چیز اچھی ہو سکتی ہے۔ بس جن کے دل اللہ کی محبت سے اچھے ہو گئے ان کو اپنادل دے دو۔

تو اللہ والا بنے کے لیے اپنے شیخ کی محبت کو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمارا شیخ ہمارا خلیل ہو جائے۔ سرو ر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الْمُرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ أَكْسِيَ اللَّهُ وَالْتَّهَمَارَ خَلِيلٌ ہو جائے گا اور تم اس کے خلیل ہو جاؤ گے تو سارا دین آسان ہو جائے گا، یہاں تک کہ شیخ کے علوم، شیخ کے ارشادات، شیخ کا درِ دل، شیخ کی طرزِ نقشو، شیخ کا طرزِ رفتار یعنی شیخ کے جیسے کے سارے قرینے مرید میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر کسی شیخ کے ہزاروں مرید ہیں تو جس مرید میں شیخ کی محبت غالب ہوگی اُسے شیخ کا سارا علم مل جائے گا، شیخ کا سارا درِ دل مل جائے۔ اور اس کے پاس بیٹھنا شیخ کے پاس بیٹھنا ہو جائے گا۔ سرو ر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا لیکن صدیق کا ہم سے بدلہ ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ ہی اس کا بدلہ ان کو دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ پر اس طرح فدا ہونا چاہیے کہ اس کے دل پر تمہاری محبت و وفاداری کا نقش بیٹھ جائے۔ (اعمامات ربیانی، صفحہ: ۱۱۸-۱۲۱)

حدیث نمبر ۲۱

﴿لَا يُنِيبُ الْمُذَنبِينَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ﴾

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسیع المثانی، سورۃ القدر، ج: ۳۰، ص: ۱۹۶)

ترجمہ: گنہگار بندوں کا رونا مجھے زیادہ محبوب ہے تسبیح پڑھنے والوں کی سمجھان اللہ سے۔

اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل

ندامت کے ان آنسوؤں کی قدر جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی اللہ کے علاوہ کون ایسی قدر کر سکتا ہے کہ ان کو یہ قیمت عطا فرمائی کہ جہاں جہاں یہ آنسو لوگ جائیں گے جہنم کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی اور

اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے۔

کہ برابر می کند شاہ مجید

اشک را در وزن با خون شہید

اللہ تعالیٰ مولانا نارومی کی قبر کو نور سے بھردے فرماتے ہیں کہ ندامت کے آنسو شہید کے خون کے برابر کیوں ہیں؟ کیونکہ ندامت کے یہ آنسو پانی نہیں ہیں یہ جگر کا خون ہے جو اللہ کے خوف سے پانی ہو گیا ہے اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَا نِعْمَلُ الْمُمْدُنِينَ أَحَبُّ إِلَيْيَ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ اللہ کے نادم، اشکبار، گنہگار بندے جب آنسو بھاتے ہیں اور گڑگڑا کر معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے سجان اللہ سجان اللہ کہنے والے، ملائکہ کے سجان اللہ سے اور اولیاء اللہ اور ابدال اور اقطاب اور غوث کے سجان اللہ سے مجھے اپنے گنہگار بندوں کے یہ آنسو، ان کا یرونا اور گڑگڑانا اور آہ و نالہ کرنا زیادہ محبوب ہے۔ یہی دلیل ہے کہ اللہ اللہ ہے جو مخلوق کی تعریف و حمد و شناسے بے نیاز ہے۔ اگر دنیا کے کسی بادشاہ کو استقبالیہ دیا جا رہا ہو اور اس کی تعریفیں بیان ہو رہی ہوں تو اس وقت وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی غریب مصیبت زدہ وہاں رونا شروع کر دے۔ کہہ گا کہ اس کو یہاں سے نکالو، یہ دنے کا موقع نہیں ہے، اس وقت میری عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، اس سے کہہ دو کہ اس وقت میرے رنگ میں بھنگ نہ ڈالے لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اگر سارا عالم ولی اللہ ہو جائے، ایک کافر بھی نہ رہے اور ساری دنیا کے کافر بادشاہ ایمان لا کر ولی اللہ ہو جائیں اور راتوں کو ہمیشہ سجدہ میں گر کر سجان ربی الاعلیٰ کہتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اضافہ ہونے سے لازم آتا کہ قبل تعریف مخلوق نعوذ بالله عظمت میں اتنی کمی تھی جو مخلوق کی حمد و شناسے پوری ہوئی پس اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرہ کی ہونا محال ہے لہذا اللہ کی ذات مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہے اور اگر سارا عالم کافر ہو جائے ایک بھی مسلمان نہ رہے اور سارے کافر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے خلاف بکواس کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ادنیٰ مخلوق سورج ہے جو زمین سے ساڑھے نو کروڑ میل پر ہے۔ کوئی اس سورج کی طرف منہ کر کے تھوک کر دیکھے اگر تھوکنے والے کے منہ پر تھوک نہ پڑے تو کہنا۔ ایک ادنیٰ سی مخلوق کا یہ حال ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت شان تو غیر محدود ہے، احاطہ سے باہر ہے اس کو بھلا کون ایک ذرہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔

استغفار و توبہ، آہ و وزاری اور اشکباری اتنی بڑی نعمت ہے کہ زمین و آسمان نے کسی ایسے بندے کو

نہیں دیکھا جس نے اشکبار آنکھوں سے معافی مانگی ہوا اور خدا نے اُس کو معاف نہ کیا ہو۔ وہ خود ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں اس لیے حکم دے رہے ہیں **إِسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ** اپنے رب سے معافی مانگو اُنہے کان غفارًا وہ بہت بکشے والا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو دوسروں کو معاف کرنے میں دریکرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی خطاؤں سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ کسی نے ہماری گھٹری توڑ دی، گلاس توڑ دیا، مال چرا لیا، تو ہمارا نقصان ہوا لیکن ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس لیے وہ ہمیں جلد معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے راز بندوں کو جلد معاف کر دینے کا۔ گناہوں سے ہمیں کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے ہی اخلاق خراب ہوتے ہیں، ہمارا ہی دل بے چین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچتا اسی لیے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی:

﴿يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا تُقْصُدُهُ الْمَغْفِرَةُ فَاغْفِرْ لِي مَالَا يَضُرُّكَ وَهَبْ لِي مَا يَنْقُصُكَ﴾

(شعبُ الایمان لیلیہقی)

اے وہ ذات! جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور معاف کر دینے سے جس کے خزانہ مغفرت میں کوئی کمی نہیں آتی پس میرے ان گناہوں کو معاف فرمادیجئے جو آپ کے لیے کچھ مضر نہیں اور مجھے وہ مغفرت عطا فرمادیجئے جس کی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ (انعاماتِ رباني، صفحہ: ۱۳۲-۱۳۰)

حدیث نمبر ۲۲

﴿كَانَ يُحَدِّثُنَا وَكُنَّا نُحَدِّثُهُ وَإِذَا سُمِعَ الْأَذَانُ كَانَهُ لَمْ يَعْرِ فُنَا وَلَمْ نَعْرِفُهُ﴾

ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کرتے تھے اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے اور جس وقت اذان کی آواز سنائی دی تو گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے نہیں اور ہم آپ کو پہچانتے۔

کانَ يُحَدِّثُنَا وَكُنَّا نُحَدِّثُهُ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کرتے تھے اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے إِذَا سُمِعَ الْأَذَانُ كَانَهُ لَمْ يَعْرِ فُنَا وَلَمْ نَعْرِفُهُ جہاں اذان کی آواز آئی تو جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ یہ ہے حلال نعمت کی سنت کہ حلال نعمت سے بھی اتنا دل نہ لگاؤ کہ نعمت دینے والے کی عبادات میں خلل پیدا ہو جائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرت صدیقرضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ایسا قوی ایمان عطا ہوا کہ فرماتی ہیں وَلَمْ نَعْرِفُهُ ہمیں بھی ایسا لگتا تھا کہ اللہ کی عظمت کے سامنے گویا ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔

تجھد کی نماز میں ایک ایک رکعت میں پانچ پانچ پارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سونج جاتے تھے اس کے بعد فخر کی اذان سے کچھ پہلے آپ حضرت عائشہ صدیقة

سے گفتگو فرماتے تھے کلمیں یا حمیرا اے عائشہ! مجھ سے کچھ باتیں کرو۔ یہ گفتگو کس لیتھی؟ آہ! اللہ والوں نے اس راز کو سمجھا۔ قطب العالم حضرت مولانا شیداحمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو عام گفتگو نہیں تھی جو عام میاں بیوی کرتے ہیں بلکہ تہجد کی نماز میں ایک ایک رکعت میں کئی کئی پارے تلاوت کرنے کی وجہ سے آپ کی روح مبارک عرشِ اعظم کا طواف کرتی تھی لہذا فخر کی نماز کی امامت کے لیے روح مبارک کو عرشِ اعظم سے مدینہ شریف کی زمین پرلانے کے لیے آپ گفتگو فرماتے تھے تاکہ آپ کی روح مبارک آہستہ آہستہ مسجد بنوی میں امامت کے قابل ہو جائے۔ یہاں گفتگو کاراز۔

سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخصوص اوقاتِ قرب

لہذا ایک مرتبہ تہجد میں کئی کئی پارے تلاوت کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک حق تعالیٰ کے قربِ عظیم سے مشرف تھی اس حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ پہنچ گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ فرمایا مَنْ أَنْتِ؟ تم کون ہو؟ عرض کیا آنا عائشہؓ میں عائشہ ہوں فرمایا مَنْ عَائِشَةً عَائِشَةً کون؟ عرض کیا بُنْتُ أَبِي بَكْرٍ ابُو بَكْر کی بیٹی فرمایا مَنْ أَبُو بَكْر؟ عرض کیا ابْنُ أَبِي قَحَافَةَ میرے دادا ابو قحافہ کے بیٹے فرمایا مَنْ أَبُو قَحَافَةَ ابو قحافہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ خوفزدہ ہو کر واپس ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقامِ عروج سے جب آپ کی روح مبارک کو امامت کی خدمت کے لیے نزول بخشنا تاکہ زمین والوں کو پیغامِ نبوت پہنچایا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سب واقعہ سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ لی مَعَ اللَّهِ وَقْتٌ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جہاں کوئی فرشتہ بھی پہنچیں مار سکتا۔ میں اس وقت اللہ کے قرب کے اس مقام پر تھا جہاں جریئل علیہ السلام بھی نہیں جاسکتے۔ اس مقامِ قرب کو اللہ کے ایک ولی نے اس طرح تعبیر کیا ہے۔

نُمُودِ جلوة بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہیں

کہ پہنچانی ہوئی صورت بھی پہنچانی نہیں جاتی

یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ محدث عظیم ملا علی قاری نے مرقاۃ شرح مذکوہ میں اس کی توثیق کی ہے۔ (احقر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت مرشدی عارف باللہ مولانا شاہ محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فداہ ابی و امی نے اس واقعہ کو معارفِ مثنوی کے آخر میں اپنی فارسی مثنوی میں نظم فرمایا ہے جس کا ایک ایک شعر الہامی ہے قارئین کی نشاط طبع کے لیے ان میں سے صرف چار شعر مع ترجمہ پیش کرتا ہوں۔

مصطفیٰ فرمود بشنو عائشہ

روح ما ز فلاک باشد فائقہ

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ سنو! اس وقت میری روح ہفت افلاک سے آگے غایت قرب خداوندی سے مشرف تھی۔

آں تجلی آں زمان حق می نمود

اندریں تن شمشہ ہوشے نبود

اس وقت میری روح ایسی قوی تجلی کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ میرے عناصر بدن ہوش و حواس کو قابو میں نہ رکھ سکے۔

دید جانم آں تجلی آں زمان

جبریلے را تخل نیست زماں

میری روح وہ تجلیاتِ خداوندی دیکھ رہی تھی کہ جس کا تخل جبریل علیہ السلام بھی نہیں کر سکتے۔

جان ما چو لذت حق را چشید

عقل ما در عائشہ شد نارسید

میری روح اس وقت تجلیاتِ قرب کی ایسی لذت چکر رہی تھی کہ میرے عقل و ہوش عائشہ کو پہچاننے سے قادر ہو گئے۔)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاماتِ قرب کا کیا کہنا ہے کہ آپ تو سید الانبیاء ہیں اس امت کے غلاموں میں یہ شان ہے کہ میرے مرشد شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی کھنٹے عبادت کرتے تھے۔ ایک بار میرے پیر بھائی ماسٹر عین الحق صاحب حضرت حضرت والا کی خدمت میں ایک ضروری کاغذ پر دستخط کرانے کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت اس کا غذ پر دستخط کر دیجئے۔ حضرت رات کے تین بجے کے اٹھے ہوئے، تہجد کی بارہ رکعات اور سجدہ میں دیر تک رونا پھر بارہ تسبیحات پھر فجر کی نماز کے بعد تلاوت، مناجاتِ مقبول، قصیدہ بردہ شریف اور اللہ کے نام میں مست۔ میرے شیخ کی عبادت عاشقانہ عبادات تھی، زاہدانہ عبادات نہیں تھی۔ آہ و فغاں کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کئی وقت کا بھوکا کباب بریانی کھا رہا ہے۔ اور ہر دس بیس آیت کے بعد اللہ کا نعرہ اس زور سے مارتے تھے کہ مسجد ہل جاتی تھی۔ حضرت نے آنکھ بند کر کے بہت سوچا کہ میرا کیا نام ہے۔ جب یاد نہیں آیا تو انہی سے پوچھا کہ میرا کیا نام ہے؟ پوربی زبان کا یہ شعر حضرت کی اس حالت کا ترجمان تھا۔

یس من مور لبد گئے تول ہیں

سمرن نام بسر گئے موس ہیں

اے خدا! میر ادل آپ سے ایسا چپک گیا کہ اے میرے محبوب مجھے اپنا نام بھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ اپنا ہی نام پوچھنے پر ماسٹر عین الحق صاحب کو نہیں آگئی۔ حضرت نے ڈانٹ کر فرمایا کہ بتاتے کیوں نہیں ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا نام عبد الغنی ہے حضرت نے دستخط کیے اور یہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔

اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اختر کو سترہ سال تک ایسے شیخ کی صحبت و خدمت عطا فرمائی جس کو بارہ مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور ایک مرتبہ ایسی زیارت نصیب ہوئی کہ مجھ سے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی خواب میں دیکھے اور خواب ہی میں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا عبد الغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا۔ ارشاد ہوا کہ ہاں عبد الغنی تم نے اپنے اللہ کے رسول کو آج خوب دیکھ لیا۔ حضرت کو دیکھنے ہی سے لگتا تھا کہ یہ شخص اپنے وقت کا شمس الدین تبریزی ہے۔

یاد ایامے کہ در مے خانہ منزل داشتم
جام مے در دست و جانان در مقابل داشتم

وہ دن یاد آتے ہیں کہ شیخ کے اس مے خانہ محبت میں اختر بھی مقیم تھا۔ اللہ کی شرابِ محبت کا پیالہ ہاتھ میں اور میرا شیخ میرے سامنے ہوتا تھا۔ (اعمامات رباني، صفحہ: ۱۳۶-۱۳۷)

حدیث نمبر ۲۲

﴿كُلُّ أَبْنَى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ﴾

(سنن الترمذی، کتاب صفة القيمة والرفاق، ج: ۲، ص: ۲۶)

ترجمہ: تمام ابْنَ آدم خطاء کار ہیں اور بہترین خطاء کاروہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔

خطاء کے معنی ہیں کثیر الخطاء۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کثیر الخطاء ہے اور بہترین خطاء کاروہ ہیں جو کثیر التوبہ ہیں۔ کثیر الخطاء کو کثیر التوبہ ہونا بھی چاہیے۔ جیسا مرض ویسی دوا اور توبہ بھی تینوں شرائط کے ساتھ ہو۔

(۱) **الرُّجُوعُ مِنَ الْمُعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ** یعنی عوام کی توبہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے لگیں۔ نافرمانی سے فرمان برداری کی طرف رجوع یہ عوام کی توبہ ہے اور خواص اولیاء کی توبہ کیا ہے۔

(۲) **الرُّجُوعُ مِنَ الْغُفْلَةِ إِلَى الدِّكْرِ** اللہ تعالیٰ سے دل ذرا غافل ہو گیا، گناہ نہیں کیا، ذرا سی غفلت پیدا ہو گئی تھی تو دل کو پھر اللہ کی یاد میں لگا دیا۔

مذ کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ
اک قلب ناتوان کو توانائی دے گیا

یخواص کی توبہ ہے۔ اور اخْصَ الخَوَاصَ کی توبہ ہے:

(۳) الْرُّجُوعُ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْحُضُورِ دل کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر رکھے اور اگر کبھی غیبت ہو جائے کہ دل ذرا سا ان کے محاذات سے ہٹ جائے تو فوراً دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دے، وہ ہم وقت با خدار ہتھے ہیں۔ یہ لوگ خَيْرُ الْخَطَائِينَ ہیں۔ اب ایک علمی اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ سے جب بندہ خیر ہو گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا تو خَيْرُ الْخَطَائِينَ کیوں فرمایا صرف خیر فرمادیا ہوتا ہے خَطَائِینَ کی نسبت ہی باقی نہ ہوتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر توبہ کی کرامت اور خاصیت ظاہرنہ ہوتی کہ توبہ ایسا کیمیکل ہے جو شر کو خیر بنادیتا ہے اور خَطَائِینَ کی نسبت باقی رہنے سے بندوں کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ ترکیب اضافی میں مضاف ہی مقصود ہوتا ہے جیسے جاءَ غُلَامُ زَيْدٌ یہاں زید نہیں غلام مقصود ہے بلکہ خَيْرُ الْخَطَائِينَ میں خیر ہی مقصود ہے نہ کہ خَطَائِینَ۔ (عنایاتِ رباني، صفحہ: ۲۳۔ ۲۴)

قبولِ توبہ کی چار شرائط

اس لیے دوستو! یہ کہتا ہوں کہ توبہ قبول ہونے کی چار شرطیں ہیں جس کو شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے۔ (جلد ۲، باب الاستغفار، صفحہ ۳۲۶ مطبوعہ ایم سعید ایڈ کپنی کراچی)

شرط اول: گناہ سے الگ ہو جائے۔ اس گناہ سے ہٹ جائے یہ نہیں کہ عورتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، کیا زمانہ آگیا ہے، کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، بڑے بازیز یہ بسطامی معلوم ہوتے ہیں، بابا فرید الدین عطار سے کم نہیں معلوم ہوتے ایسی توبہ قبول نہیں ہے گناہ سے فوراً الگ ہو جاؤ، پہلے نظر ہٹاؤ۔ توبہ کی پہلی شرط ہے اُن يَقْلَعَ عَنِ الْمُعْصِيَةِ پہلے گناہ سے الگ ہو جائے تب توبہ قبول ہو گی۔

شرط دوم: گناہ پر نادم ہو جائے۔ اُن يَنْدَمَ عَلَيْهَا، ندم یہ ندم سمع سے آتا ہے کہ اپنی نالائقی پر ندامت طاری ہو جائے کہ آہ مجھ سے کیوں خطا ہو گئی، رونے لگے، دل میں ڈکھ آجائے کہ میں نے بڑی غلطی کی، اپنے مالک کو ناراض کر دیا۔

شرط سوم: عزم کرے کہ اب کبھی یہ گناہ نہ کروں گا۔ اُن يَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا اُنْ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا ابَدًا پکارا دہ کر لے کہ اب اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہے دل سے آواز آتی ہو کہ پھر تم یہی کام کرو گے لیکن آپ دل کا ساتھ چھوڑ دیئے زبان سے کہہ دیجئے۔ توبہ کرنے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہے

چاہے بعد میں ٹوٹ جائے پھر تو بے کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے لیکن اس وقت ارادہ نہ ہو کہ گناہ کریں گے۔ تو بے توڑنے کا ارادہ نہ ہو، بس۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میر ارادہ تو بے توڑنے کا نہیں ہے مگر تو بے پر قائم رہنا اور رکھنا اس کی مدد آپ ہی سے مانگتے ہیں۔

شرط چہارم: اہل حقوق کو مال واپس کرے۔ اور اگر کسی کامال لے لیا ہے تو اس کی توبہ کے لیے کیا شرط ہے، وضو خانہ سے کسی کی دو ہزار پونڈ کی گھٹری اٹھائی، پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دو مگر یہ گھٹری واپس نہیں کروں گا، تو یہ توبہ قبول ہو گی بھی؟ مال کی توبہ یہی ہے کہ جس کامال ہواں کو واپس کرو۔

(نور بہایت اور اس کی علامات حصہ دوم، صفحہ: ۳۱-۳۰)

حدیث نمبر ۲۳

﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

ترجمہ: نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی حفاظت سے اور نہیں ہے قوت اللہ کی طاعت کی مگر اللہ کی مدد سے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کثرت سے پڑھا کرو یہ جنت کے خزانے سے ہے، اور حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابی ہیں، سوڈاں کے رہنے والے تھے اور شام میں مفتی تھے، موقوفاً روایت کرتے ہیں کہ جس نے پڑھا لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ستر تکلیفوں کو دور کر دیں گے، جن میں سب سے ادنیٰ فقر ہے۔ لَا مَنْجَا اَيْ لَا مَهْرَبٌ وَ لَا مَخْلَصٌ یعنی کوئی جائے فرار اور جائے پناہ نہیں ہے من اللہ اللہ کے غضب و عذاب سے إِلَّا إِلَيْهِ اَيْ بِالرُّجُوعِ إِلَى رَضَاءٍ وَ رَحْمَتِهِ سوائے اس کی رضا رحمت کی طرف رجوع کرنے کے۔ (مرقاۃ، جلد: ۵، ص: ۱۲۱)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ، جلد: ۵، ص: ۱۲۱ پر لکھا ہے کہ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے ساتھ لا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ بھی ثابت ہے، نسائی کی حدیث مرفوع سے۔

لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے چار فوائد

ف نمبر ۱: یہ لکھ لے لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، اور جنت کی چھت عرشِ الہی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کے اختیار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے۔ اس معنی میں یہ جنت کا خزانہ ہے۔

ف نمبر ۲: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نَانُوے (دنیوی و اُخروی) بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سب سے ادنیٰ بیماری غم ہے (چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا)۔
 (مرقاۃ، جلد: ۵، ص: ۱۲۱)

ف نمبر ۳: جب بندہ اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرمان بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی۔ (مغلوڑی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے۔ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ہے جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں) أَسْلَمَ عَبْدِيَ أَىْ إِنْقَادَ وَ تَرَكَ الْعِنَادَ یعنی میرا بندہ فرمان بردار ہو گیا اور سرکشی کو چھوڑ دیا۔ وَ اسْتَسْلَمَ أَىْ فَوَّضَ عَبْدِيَ أُمُورُ الْكَائِنَاتِ إِلَى اللَّهِ بِاسْرِهِ یعنی میرے بندے نے دنلوں جہان کے تمام غمتوں کو میرے سپرد کر دیا۔ (کذا فی المرقاۃ، ج: ۵، ص: ۱۲۱، ۱۲۲) یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے اور حق تعالیٰ شانہ عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔

ف نمبر ۴: پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام بنام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر الانام۔ یہ کلمہ لاَ حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور وصیت ہے جو آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شبِ معراج میں ارشاد فرمایا تھا۔

ترجمہ حدیث: شبِ معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گذر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا، آپ نے فرمایا مے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حکم فرمادیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھائیں لاَ حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سے۔ (مرقاۃ، جلد: ۵، ص: ۱۱۱)

اس کے پڑھنے سے وصیتِ ابراہیمی پر عمل کی سعادت بھی نصیب ہو گی اور اس کی برکت سے جنت کے باغوں میں اضافہ ہو گا۔

لاَ حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا مفہوم

الفاظِ نبوت کی شرح الفاظِ نبوت سے:

ترجمہ حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے لاَ حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جانتے ہوا اس کی کیا تفسیر ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعُصْمَةِ اللَّهِ وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعُوْنَ اللَّهِ﴾

(المرقاۃ المفاتیح، کتاب الدعوات، باب ثواب التسبيح والتحمید، ج: ۵، ص: ۱۳۲)

ترجمہ: نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی لیکن اللہ کی حفاظت سے اور نہیں ہے قوت اللہ کی طاعت کی مگر اللہ کی مدد سے۔

اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ الفاظِ نبوت کی شرح الفاظِ نبوت سے ہوئی لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے الفاظ بھی سرکاری اور اس کی شرح بھی سرکاری کہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی اور ما تفسیرہ سے معلوم ہوا کہ حدیث کی شرح کو تفسیر سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ احرق محمد اختر عرض کرتا ہے لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا مفہوم اور حاصل اس آیت سے ربط اور تعلق رکھتا ہے بلکہ اس آیت سے مقتبس معلوم ہوتا ہے:

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيُّ﴾

(سورة یوسف، آیہ: ۵۳)

حضرت آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ ماضر فیہ، زمانیہ، مصدر یہ ہے اور اس کی تفسیر اس طرح فرمائی نفس کثیر الامر بالسوء ہے إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيُّ اُمُّ فِي وَقْتِ رَحْمَةِ رَبِّيُّ وَ عَصْمَتِهِ یعنی نفس برائی سے اس وقت تک محفوظ رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ سایہِ رحمتِ حق اور سایہِ حفاظتِ حق میں رہے گا۔
(قرآن و حدیث کے انمول خزانے، صفحہ: ۸-۱۱)

شرح حدیث بعنوان دگر

﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

دووٹیفے بتاتا ہوں جس کا خیال ابھی نماز ہی میں آیا اور سوچ رہا تھا کہ کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا۔ نیک بننے کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد گناہ چھوٹ جائیں گے کیونکہ اس کلمہ کے معنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے ہیں کہ:

﴿لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعُصْمَةِ اللَّهِ وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعُوْنَ اللَّهِ﴾

(المرقاۃ المفاتیح، کتاب الدعوات، باب ثواب التسبيح والتحمید، ج: ۵، ص: ۱۳۲)

ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے مگر اللہ کی حفاظت سے اور کسی عبادت کی ہم میں طاقت نہیں ہے لیکن جب

اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح مبارک میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب بندہ لا حُوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَسْلَمَ عَبْدِيْ وَ اسْتَسْلَمَ اَعْبَدِيْ اِنْقَادَ وَ تَرَكَ الْعِنَادَ یعنی میرا بندہ مطیع و فرماس بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی وَ اسْتَسْلَمَ کے معنی ہیں ای فَوَّضَ عَبْدِيْ اُمُورَ الْكَائِنَاتِ بِاَسْرِهَا إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی عَزَّ وَ جَلَّ اور میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے لہذا جب اللہ تعالیٰ روزانہ فرشتوں کو بشارت دیں گے کہ میرا بندہ فرماس بردار ہو گیا تو کیا ان کو لاج نہ آئے گی؟ ورنہ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ آپ تو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرماس بردار ہو گیا لیکن یہ تو ابھی نالائقیاں کر رہا ہے لہذا اللہ تعالیٰ اپنی بشارت کی لاج رکھتے ہوئے بندہ کو سفارانے کا فیصلہ فرماتے ہیں اسی لیے پہلے زمانے کے مشائخ اپنے مریدوں کو صرف لا حُوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ہی کا ذکر بتایا کرتے تھے اور اسی سے وہ صاحب نسبت ہو جاتے تھے۔

(۲) اور دوسری اس دعا کو روزانہ مانگا کیجئے معمول بنا لیجئے اللہُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي وَ لَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ اے اللہ مجھ پر حرم فرمائیے ترکِ معصیت کی توفیق عطا فرم اکارا اور مجھے بدجنت نہ کیجئے اپنی معصیت و نافرمانی سے۔ حدیث پاک کے الفاظ بتارہ ہے ہیں کہ ہر گناہ آدمی کو بدجنتی کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ کا ترک خوش قسمتی کی طرف لے جاتا ہے۔ معصیت سب سب شقاوت ہے اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، گناہ سے بہت بچنا چاہیے اور ترکِ معصیت علمتِ رحمتِ حق اور علمتِ سعادت ہے۔ (علیاتِ ربنا، صفحہ ۱۱۲)

حدیث نمبر ۲۵

﴿الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا﴾

(مشکوٰۃ المصابیح، کتابُ الاداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، ص: ۱۵)

غیبتِ زنا سے اشد کیوں ہے؟

غیبتِ زنا سے زیادہ اشد ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیبتِ زنا سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی زنا کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے جس سے زنا کیا ہے اس سے جا کر معافی مانگنا ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں کیونکہ اگر جا کر اس سے کہے کہ ذرا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں تو اس کو اور ندامت ہو گی اور اس کی رسوائی اور بد نامی کا اندیشہ ہے۔ زنا حق العباد نہیں ہے آہ! اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بندوں پر کہ ہماری آبرو کی کیا حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی عزت رکھ لی کہ اس کو حق العباد نہیں رکھا بلکہ اس گناہ کو اپنے حق میں شامل فرمایا کہ بس کہہ دو کہ یا اللہ جو مجھ سے یہ گناہ بکیرہ ہو گیا یا آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو

دیکھا ان سب گناہوں سے معاف چاہتا ہوں تو معاف ہو جائے گا۔ بندوں یا بندیوں سے جا کر اس معاملہ میں یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ مجھے معاف کر دو۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ایسی چیز ہے کہ جس کی غیبت کی گئی اس سے جا کر معافی مانگنی پڑے گی بشرطیکہ اس کو خبر لگ جائے مثلاً کوئی گھرات میں ہے یا ڈاہیل میں ہے اس کی یہاں کسی نے غیبت کی تو اگر اسے خبر نہیں ہے تو اس سے جا کر معافی مانگنا لازم نہیں ہے۔ یہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت ہے کہ جس کی آپ نے غیبت اور برائی کی ہے اس کو اگر خبر نہیں ہے تو اس سے جا کر معافی مانگنا لازم نہیں۔ تو پھر کیا کرے؟ اس کے لیے بیہیں سے مغفرت مانگو، کچھ پڑھ کر بخش دو، مشکلوہ شریف میں کفارہ غیبت میں یہ روایت ہے کہ یوں کہے یَغْفِرَ اللَّهُ لِمَنْ وَلَهُ كَاللَّهِ تَعَالَى مَجْحُوكَبھی معاف کرے اور اس کو بھی معاف کر دے یعنی اس کی مغفرت کی بھی دعا کرے کہ جس کی ہم نے برائی کی ہے یا سنی ہے اے اللہ معاف کر دیجئے۔ برائی کرنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی کی برائی سنی اور کچھ نہیں بولا گونگے کی طرح بیٹھار ہا اذْرَكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُ تَعَالَى اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب دے گا۔ جب کسی کی غیبت ہو رہی ہو اس وقت خاموشی حرام ہے۔ اس سے کہو کہ آپ غیبت نہ کیجئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے گناہ میں مبتلانہ کیجئے۔ اس کا دفاع کرو یا اس کی تعریف کرو کہ وہ ابھے آدمی ہیں۔ اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کیا اور اس کی غیبت کو روک دیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے اور جس نے غیبت کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں ہاں مجھ کو بھی یہی ڈاؤٹ (شک) ہے، ٹھیک کہتے ہو یا ریتو میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، ہاں میں ہاں ملائی اور اس کا دفاع نہیں کیا تو اذْرَكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُ تَعَالَى اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب دے گا اور اگر دفاع کی قدرت یا ہمت نہیں تو اس مجلس سے اٹھ جائے جہاں غیبت ہو رہی ہے لہذا روزانہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ یا اللہ مخلوق کا کوئی حق ہم نے مارا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، یا غیبت سنی ہو یا ان کو برا بھلا کہا ہو تو یہ جو میں صحیح و شام تینوں قل پڑھتا ہوں اس کا ثواب ساری امت کو دے دیجئے یعنی جن کے حق ہمارے اوپر ہیں ان کو اس کا ثواب دے دیجئے تاکہ قیامت کے دن آپ ان کو ہم سے راضی کر دیں تو ان شاء اللہ یہ تینوں قل والا وظیفہ آپ کو مخلوق کے شر سے بھی بچائے گا اور ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے گا۔ مثلاً یہ ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی تو جس مجلس میں غیبت کی ہے ان لوگوں کے سامنے اپنی نالائقی کا اعتراف کرے کہ ہم سے بڑی نالائقی ہوئی اگر ان میں ایک عیوب ہے تو سینکڑوں خوبیاں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کو ایصالِ ثواب کریں اور جواہل حقوق ہیں ان سے جا کر معافی مانگ لو بشرطیکہ اس کو آپ کی غیبت کی اطلاع ہو گئی ہے اور اگر اطلاع نہیں ہے تو

خواہ خواہ جا کر اس کا دل خراب مت کرو۔ اس بے چارہ کو خبر بھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے میں نے کل آپ کی غیبت کی تھی۔ اس سے اس بے چارے کو اذیت ہوگی۔

روزانہ صبح و شام تینوں قل پڑھ کر بیوں دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ اس کا ثواب ان لوگوں کو عنایت فرمائے جس کا میں نے کوئی حق مارا ہو، برا بھلا کہا ہو، غیبت کی ہو کسی قسم کا بھی حق ہوتا کہ قیامت کے دن یا اللہ ہم پر کوئی مقدمہ نہ دائر کر دے اور ثواب ان کو دے کر ان کو ہم سے راضی کر دیجئے اس طرح ان شاء اللہ آپ جنت کے راستے پر آ جائیں گے کیونکہ جنت اس وقت ملے گی جب اللہ کے حقوق میں بھی معافی ہو جائے اور بندوں کے حقوق میں بھی معافی ہو جائے۔ (عنایاتِ رباني، صفحہ: ۲۶-۳۰)

شرح حدیث بعنوانِ دگر

غیبت کے زنا سے اشد ہونے کی وجہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ زنا سے اشد ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ زنا سے کیوں اشد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کارا پنے زنا سے اگر معافی مانگ لے تو معافی ہو جائے گی، جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے۔ زنا کو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، یہ حق العباد نہیں ہے لیکن غیبت حق العباد ہے، جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا یہ گناہ معاف نہیں ہو گا بشرطیکہ جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع ہو جائے۔ جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی اس وقت تک اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں بلکہ صبح و شام کے جو معمولات میں نے بتائے ہیں وہ پڑھ کر روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ میں نے زندگی میں جس کی غیبت کی ہو، ستایا ہو یا مارا ہو ان سب کا ثواب اے اللہ! ان کو دے اور ان کا یہ ثواب دکھا کر قیامت کے دن راضی نامہ کر دینا۔ ماں باپ کو بھی اس میں شامل کرلو۔ بزرگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ ثواب تقسیم ہو کر ملے گا یا ہر ایک کو پورا ملے گا مثلاً تین دفعہ قل ہواللہ کا ثواب اگر سو آدمیوں کو بخشتا تو کیا سو حصہ لگے گا یا بائٹا جائے گا، تقسیم ہو گا؟ مگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے جس کو حکیم الامت نے نقل کیا ہے کہ ثواب تقسیم نہیں ہو گا سب کو برابر ملے گا۔ سورۃ بیت المقدس شریف پڑھ کے بخششو تو دس قرآن پاک کا ثواب اور تین قل ہواللہ شریف پڑھ کر بخششو تو ایک قرآن پاک کا ثواب ہر ایک کو پورا پورا ملے گا چاہے بے شمار آدمیوں کو بخشش او ر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے یہ قریب ہے۔

کفارہ غیبت کی دلیل منصوص

تو غیبت کے متعلق بہت بڑے علماء بھی اس مسئلہ سے واقف نہیں ہیں۔ وہ یہی کہیں گے

معافی مانگنا پڑے گی کہ یہ حق العباد ہے، بندوں کا حق ہے لیکن حکیم الامت کا یہ مضمون الطرائف والمراءف میں، میں نے خود پڑھا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس کو اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں بلکہ بعض وجہ سے جائز بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے اُس کا دل برا ہو گا کہ یار تم اچھے خاصے دوست بن کر میری غیبت کر رہے تھے تو یہ اذیت پہنچانا ہو گا کیونکہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری غیبت کی گئی ہے لہذا جب تک اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں بلکہ مندرجہ بالاطر یقہ سے اس کی تلافی کرنا کافی ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

﴿إِنَّ مِنْ كَفَارَةَ الْغِيَّةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ﴾

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الأدب باب حفظ اللسان والغيبة والشتم)

غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے۔ محمد شین نے لکھا ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے جب اس کو اطلاع نہ ہوئی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو، ہاں اگر اطلاع ہوئی تو اب اس سے معافی مانگنا واجب ہے، جب تک معافی نہیں مانگو گے یہ گناہ معاف نہیں ہو گا۔ اس کو میں جب بیان کرتا ہوں تو بڑے بڑے علماء میرا شکر یہ ادا کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۲۶

﴿الْكِبْرِ يَا إِنْ رَدَائِي﴾

(سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب ما جاء فی الكبر، ج: ۲، ص: ۲۱۰)

ترجمہ: بڑائی میری چادر ہے۔

حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے جو اس میں گھسے گا میں اس کی گردان توڑ دوں گا۔

عجب و تکبر بیوقوفیں کو بہت ہوتا ہے ورنہ ذرا بھی عقل سے کام لیا جاوے تو سمجھ میں آجائے گا کہ انسان کو تکبر کبھی زیبا نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے جو اس میں گھسے گا میں اس کی گردان توڑ دوں گا۔

عجب اور تکبر کا فرق اور ان کی تعریف

عجب کی حقیقت:

انسان کا اپنی کسی صفت پر اس طرح نگاہ کرنا کہ بجائے عطاً حق سمجھنے کے اس کو اپنادیتی کمال سمجھے جس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ منہ سے بجائے شکر نکلنے کے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں نکلتا ہے کیونکہ عطاً حق

کا اسے استخصار نہیں رہتا۔ اور دل ہی دل میں اپنے کو اچھا سمجھتا ہے۔

تکبر کی حقیقت:

تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھے۔ پس تکبر میں دوسرا کی تحقیر بھی لازم آتی ہے اور عجب میں دوسروں کی تحقیر لازم نہیں آتی۔

معجب اور متکبر ان دونوں کلیوں کے درمیان نسبت اعم۔ اخص مطلق کی ہے، متکبر عام ہے اور عجب اخص ہے۔ اس لیے کہ ہر متکبر میں عجب کا تحقیق ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب اپنی کسی صفت پر نظر کر کے اپنی اچھائی اور بڑائی کا تصور ہو گا تب ہی تو دوسرے کو حقیر سمجھے گا اور ہر عجب کے لیے تکبر لازم نہیں کیونکہ کبھی انسان اپنی صفت پر نظر کر کے صرف اپنے ہی کو اچھا سمجھتا ہے اور اس وقت کسی کی تحقیر سے خالی الذہن ہوتا ہے۔ یہ علمی تحقیق حق تعالیٰ نے اس ناکارہ عبد کو عطا فرمائی ہے **الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى ذَلِكَ وَلَا فَخْرٌ يَأْرِبُ**۔ قلب و روح کے امراض میں سالکین کے لیے عجب اور تکبر دونوں ہی مہلک یا باریاں ہیں ان کی اصلاح میں تغافل نہ ہونا چاہیے۔

ایک مثال سے اس کا ضرر سمجھ میں آجائے گا۔ وہ یہ ہے کہ کوئی عاشق اپنے محبوب کا مشتاق ہے لیکن بوقتِ ملاقات یہ بے وقوف بجائے محبوب کو دیکھنے کے اپنی حیب سے آئنہ نکال کر اپنی ہی صورت اور اپنے ہی نقش و نگار دیکھ رہا ہے تو یہ شخص اس محبوب کی نظر میں کس قدر منافق فی المحبت اور محروم سمجھا جاوے گا اسی طرح سالکین اور طالبین حق کو سوچنا چاہیے کہ مولاً یعنی حقیقی ہر وقت اپنے بندوں پر ہزار ہا الاطاف و کرم سے متوجہ ہیں اور بندہ اگر بیوقوفی سے بجائے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرف متوجہ ہونے کے اپنی ہی مستعار صفات میں مشغول ہے تو یہ لمحات اس کے لیے نفاق فی المحبت اور فراق و محرومی کے ہوں گے یا نہیں؟ خود ہی فیصلہ کرلو۔ اور اس بیماری کی اہمیت اور اس کے ضرر کا اندازہ لگا لو! الحمد للہ کہ اس مثال سے عجب اور کبر کی مضرت بہت ہی واضح طور پر سمجھ میں آجائی ہے اور عاشقوں کے لیے یہ مثال تازیانہ عبرت ہے۔

اے اللہ! ہم سب کو عجب و کبر اور جملہ مہلکات طریق سے محفوظ فرمائیں۔ حق تعالیٰ کا احسان ہے کہ حضرت شیخ کی جو تیوں کے صدقے میں یہ مثالیں اور علوم عطا ہو رہے ہیں۔ **الْحَمْدُ لَكَ وَ الشُّكْرُ لَكَ يَا رَبَّنَا**۔

يَا عِيَاثُ الْمُسْتَعْجِيُّينَ اهْدِنَا

لَا افْتَخَارَ بِالْعُلُومِ وَالْغِنَى

حدیث نمبر ۲۷

﴿وَاللَّهُ أَنِي لَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا أَخْشَكُمْ لَهُ﴾
(مسند احمد)

ترجمہ: خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانے والا ہوں اور اور میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔

آنے آعلمکُمْ بِاللَّهِ وَأَنَا أَخْشَكُمْ اے لوگو! میں تم سب سے زیادہ علم دیا گیا ہوں اور اسی سب سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے۔

رضائے الہی کی طلب اور نارانگی سے پناہ میں دل کو گھلانا اصل علم ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے آعلمکُمْ بِاللَّهِ وَأَنَا أَخْشَكُمْ اے لوگو! میں تم سب سے زیادہ علم دیا گیا ہوں اور اسی سب سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُتَوَاصِلًا لِلْأَحْزَانِ دَائِمًا لِلْفُكْرَةِ﴾

(الشَّمَائِلُ الْمُحَمَّدِيَّةُ لِلتَّمَذِي، بَابُ كَيْفَ كَانَ كَلَامُ رَسُولِ ﷺ)

ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل غمگین اور فکرمندر ہتھ تھے۔ آخرت کا خوف اور امت کا غم آپ کو اس حال میں رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں لا تُخْزِنُنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ اے ہمارے رب! میدانِ محشر میں ہمیں رُسوانہ کیجئے گا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت عزرا یل علیہ السلام غالبہ خوف خداوندی سے سکڑ کر گوریا کے برابر ہو جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوف سے فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش کہ میری ماں نے مجھے جناہی نہ ہوتا۔ مقبولان بارگاہ کا یہی حال ہوتا ہے عظمتِ الہیہ کا جس قدر انکشاف ہوتا جاتا ہے پیہت حق کا غلبہ ہو جاتا ہے اور جن کی آنکھیں انہیں ہیں اپنے علوم سے صرف حلوا مانڈا اور معاش کی ضروریات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بزرگانِ دین کی صحبت نہ ملنے سے یہی حشر و انعام ہوتا ہے۔ بقول حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ نورِ نبوت کے بغیر علومِ نبوت پڑھ لینے سے عملی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرانگی درسیات اور علومِ ظاہری کے بعد اہل اللہ کی صحبت میں حاضری ضروری ہے جس کی مدت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھ ماہ تجویز فرمائی ہے۔ (معارفِ مشوی، حصہ دوم، صفحہ: ۳۹۷)

اللہ تعالیٰ کے عاشق بندے محبوب حقیقی کے عشق میں اپنی جان سے بھی بے پرواہیں اور ذکرِ محبوب

کی لذت نے ان کو دنیا کے تمام مشاغل سے مستغفی کر دیا ہے، یادِ حق میں خلق سے کنارہ کش ہیں تاکہ تعلقاتِ غیر ضروری سے ذکرِ حق میں خلل واقع نہ ہو اور حق تعالیٰ کی یاد سے ایسے مست اور بے خود ہیں کہ غیرِ حق سے بالکل التفات باقی نہ رہا اگرچہ وہ مباحِ الاصل ہی کیوں نہ ہوں یا کسی درجہ مرجوحہ میں مستحسن ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان امور کی طرف ان عاشقین کو بالکل التفات نہیں رہا کیونکہ دستِ بوئی شاہ کے میسر ہوتے ہوئے پابوئی شاہ کی طرف التفات قربِ اعلیٰ سے قربِ ادنیٰ کی طرف نزول کے مترادف ہے۔ (معارفِ مشنوی، صفحہ: ۵۰۳)

حدیث نمبر ۲۸

﴿اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَيْنِ هَطَالَتِينَ تَشْفِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرْوفِ الدُّمُوعِ مِنْ خَشِيشَكَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدُّمُوعُ دَمًا وَ الْأَضْرَاسُ جَمْرًا﴾

(الجامع الصغير للسيوطی، ج: ۱، ص: ۵۹)

(وفي رواية تسقيان القلب بذروف الدموع كما في المناجمات المقبول)

ترجمہ: اے اللہ! مجھے بہت زیادہ موسلا دھار بر سے والی آنکھیں عطا فرمائے جو دل کو آپ کے خوف سے، اپنے آنسوؤں سے سیراب کر دیں قبل اس کے کہ یہ آنسو خون ہوں جائیں اور ڈاڑھیں انگارے بن جائیں۔

۱) اللہ والی آنکھوں کی پہلی صفت:

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہم آپ سے ایسی آنکھیں مانگتے ہیں جو هطالہ ہوں۔ هطالہ کے معنی موسلا دھار بر سے والی غیم ہاطل لفت جو هطل میں موجود ہے یعنی موسلا دھار بارش جیسے، گریہ پر قناعت نہیں فرمائی بلکہ اسی مصدر سے مبالغہ کا وزن استعمال فرمایا یعنی هطالہ فرمایا فعال مذکر کے لیے اور فعلہ مونث کے لیے مبالغہ کا وزن ہے اور عینیں عربی میں مونث ہونے کے سبب ان کی صفت کے لیے مونث کا وزن یعنی هطالہ استعمال فرمایا، اب ترجمہ یہ ہو گا کہ اے اللہ! ایسی آنکھیں عطا فرمائیے جو موسلا دھار بر سے والے ابر سے بھی زیادہ رو نے والی ہوں۔

۲) اللہ والی آنکھوں کی دوسری صفت:

هطالہ تین، عینین کی صفت اولیٰ ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوسری صفت بھی مانگی تَشْفِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرْوفِ الدُّمُوعِ وَ آنکھیں ایسی موسلا دھار رونے والی ہوں جو قلب کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کر دیں۔ اس قید سے معلوم ہوا کہ ہر رونے والی آنکھیں دل کو سیراب نہیں کرتی ہیں پس جو آنسو اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے گرتے ہیں وہ آنسو دل کو سیراب کرتے ہیں۔ ولنعم ما قال الشاعر

سَهْرُ الْعَيْنَ لِغَيْرِ وَجْهِكَ ضَائِعٌ
وَ بُكَاءُ هُنَّ بِغَيْرِ فَقَدِكَ بَاطِلٌ

اے اللہ! آنکھوں کی وہ بیداری جو آپ کے دیدار کے علاوہ ہو یا آپ کے لیے نہ ہو وہ بیداری ضائع اور بے کار ہے اور آنکھوں کا وہ رونا جو آپ کی جدائی کے غم سے نہ ہو باطل ہے۔

تو معلوم ہوا کہ تَسْقِيَانُ الْقُلْبَ بِذُرْوُفِ الدَّمْعِ، عینین کے لیے صفتِ ثانیہ ہے یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاص کے آنسو طلب فرمائے کہ وہی دل کو بھی سیراب کرتے ہیں۔

۳) اللہ والی آنکھوں کی تیسرا صفت:

نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدُّمُوعُ دَمًا وَ الْأَصْرَاسُ جَمْرًا اے اللہ! یہ رونے کی توفیق اسی حیاتِ دنیا میں عطا فرمائیے قبل اس کے کہ یہ آنسو خون ہوں اور ڈاڑھیں انگارے ہو جائیں یعنی دوزخ میں تو دوزخی بھی روئے گا لیکن اس کے آنسو خون کے ہوں گے اور اس کی ڈاڑھیں انگارے ہوں گی تو یہ آنسو کس کام کے یہ تو سزا والے آنسو ہیں، رحمت کے آنسو تو وہ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے تکیں۔

قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدُّمُوعُ دَمًا اللَّهُ يَظْرِفُ بِهِ اَوْ هُرْطَرِفُ مَنْ رُوْفَ كَلِيْ بِهِ بِمَنْزِلَهِ قِيدٌ ہوتا ہے اور قید بِمَنْزِلَهِ صفت ہوتی ہے پس یہ خوبی صفت تو نہیں ہے لیکن معنوی صفت ہے یہ تمام اور پر کی شرح حق سجائہ و تعالیٰ نے احقر کو اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے۔ ذلِکَ مِمَّا خَصَّنِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِلُطْفِهِ (معارف مشوی، صفحہ ۲۷۰)

حدیث نمبر ۲۹

﴿إِنَّ نَقْتَرِفَ سُوءً اعْلَى اَنْفُسِنَا اَوْ نَجْرُهُ إِلَى مُسْلِمٍ﴾

(سنن ابی داؤد، کتابُ الادب، باب ما يقول اذا اصبح، ج: ۲، ص: ۳۳۷)

﴿أَوْ أَكُسِبُ خَطِيئَةً اَوْ ذَبَّاً لَا تَغْفِرُهُ﴾

(الدعوات الكبير للبيهقي، باب الدعاء عند الصباح والمساء)

ترجمہ: اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں کہ ہم حاصل کریں اپنی جان پر کسی برائی کو یا اس کو پہنچائیں کسی مسلمان کی طرف یا کریں ہم کوئی ایسی خطایا گناہ جس کی آپ مغفرت نہ فرمائیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب کبر یا میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ اَنَّ نَقْتَرِفَ سُوءً اَعْلَى اَنْفُسِنَا اَوْ نَجْرُهُ إِلَى مُسْلِمٍ اَوْ أَكُسِبُ خَطِيئَةً اَوْ ذَبَّاً لَا تَغْفِرُهُ اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں کہ ہم حاصل کریں اپنی جان پر کسی برائی کو یا اس کو پہنچائیں کسی مسلمان کی طرف یا کریں ہم کوئی ایسی خطایا گناہ جس کی آپ مغفرت نہ فرمائیں۔

مسلم نافرمانیوں کی عادت میں بتلا رہنے کے باوجود ترکیہ کا اہتمام نہ کرنا اور ترکِ معصیت کی

تدایرہ معلوم کرنا و خطرناک مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ایسا آدمی حق تعالیٰ کی راہ میں انوار و برکاتِ قرب خاص سے محروم رہتا ہے، ظاہر ہے کہ انوار طاعات و اذکار ظلمات معاصلی سے کبھی بالکل یہ سلب ہو جاتے ہیں اور کبھی حد درجہ یہ انوار بے کیف اور مضمحل ہو جاتے ہیں۔

نمبر ۲: دوسرے یہ کہ ایسا آدمی ہر وقت علیٰ معرض الخ خر ہے یعنی چاہ طرد و ضلالت کے کنارے کھڑا ہے۔ نہ معلوم کب کوئی گھٹری ایسی آجائے کہ یہ اپنی عادتِ معصیت کے مطابق گناہ کرے اور گرفت ہو جائے اور تخلیٰ صفتِ رحمت و حلم مبدل بِ تخلیٰ قہرا و تقاضہ ہو جائے جس کے نتیجے میں آئندہ توفیق استغفار نہ ہو اور شدہ شدہ یہ ظلمات سارے قلب کو زنگ آلو دکر دیں حتیٰ کہ ذکر سے وحشت و نفرت ہونے لگے اور پھر مردود ہو کر سوء خاتمہ کی لعنت کا طوق پہن کر جہنم میں چلا جائے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، آمین۔ (معارفِ مشنوی، صفحہ: ۷۳۲-۷۳۳)

حدیث نمبر ۳۰

﴿اَكْشُرُوا ذِكْرَ هَادِمِ الْلَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب ماجاء فی ذکر الموت، ج: ۲، ص: ۵۷)

ترجمہ: لذات کو سرد کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو یعنی موت کو۔

موت کا کثرت سے یاد کرنا دل کو دنیا سے اچانک کرتا ہے اور یہی ہدایت کا بڑا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ موت جو لذات کو سرد کرنے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کرو۔ پس موت کا اتنا تصور کرو کہ اس کی وحشت لذت سے بدلت جائے اور اپنے اصلی وطن کے ذکر سے لذت ملنی ہی چاہیے۔ مومن کے لیے موت دراصل محبوب حقیقی کی طرف سے دعوت ملاقات کا پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاث دیا جاتا۔ کبھی فرماتے کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے۔ کبھی فرماتے کہ کاش میں کسی مومن کے بدن کا باال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ ایک جانور کو دیکھ کر ٹھنڈا انسانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر مزہ میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سامنے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تھوڑے کوئی حساب کتاب نہیں کاش ابو بکر بھی تجوہ جیسا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش مجھے میری ماں نے جانا ہی نہ ہوتا۔ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتنے روتنے گر جاتے اور

بیمار ہو جاتے۔ ایک بار صحیح کی نماز میں جب اس آیت پر پہنچ تو روتے روتے آوازنہ لگلی:

﴿إِنَّمَا أَشْكُوْ بَشَّىٰ وَ حُزْنٰى إِلَى اللَّهِ﴾

(سورة یوسف، آیة: ۸۶)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حق تعالیٰ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرہ پر آنسوؤں کے بہنے سے دونالیاں سی بن گئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو۔ لہذا موت کو کثرت سے یاد کرنا کرو اور قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بے گانگی کا گھر ہوں، تہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں کیڑوں کا گھر ہوں الخ۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت رویا کرتے تھے حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بے کار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ پوچھ لیا تو فرمایا کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ پیش آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گذر ہوا۔ وہ جب:

﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَّةً كَالْدَهَانِ﴾

(سورة الرحمن، آیة: ۳۷)

پر پہنچ تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے کہ ہاں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے سے فرشتے بھی رونے لگے۔

ایک انصاری صحابی نے تجدی کی نماز پڑھی پھر بیٹھ کر بہت رونے کہتے تھے اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رو لا دیا۔ ایک صحابی رورہے تھے۔ بیوی کے پوچھنے پر فرمایا کہ اس وجہ سے روتا ہوں کہ جہنم پر تو گذرنा ہے ہی نہ معلوم نجات ملے گی یاد ہیں رہ جاؤں گا۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رات یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے:

﴿وَ امْتَأْرُوا الْيَوْمَ أَيْهَا الْمُجْرُمُونَ﴾

(سورة یس، آیة: ۵۹)

حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو تم سب لوگ ملے جلے رہے مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں

اور غیر مجرم علیحدہ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی روایا جائے کم ہے کہ معلوم اپنا شمار مجرموں میں ہو گا یا فرمان برداروں میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ذرا سا بھی آنسو خواہ کمھی کے سر پر برابر ہی کیوں نہ ہو تکل کر چہرہ پر گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چہرہ کو آگ پر حرام فرمادیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کامپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھٹرتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھٹرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا تھوں میں واپس جانا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو روک کر رکھو، گھر میں بیٹھ رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب جنت میں داخل ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزد یک دوقطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس کو رونا آئے وہ روئے ورنہ رونے کی صورت ہی بنالے۔ حضرت کعب ابخار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبصہ میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بننے لگیں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ پھاڑ کے برابر صدقہ کروں۔ (معارف بنوی، صفحہ: ۵۰-۵۱)

حدیث نمبر ۳

﴿مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَقَرَأَ فِيمَا بَيْنَ صَلْوَةِ الْفَجْرِ وَصَلْوَةِ الظُّهُرِ كُتِبَ لَهُ كَانَمَا قَرَأَ هُوَ مِنَ اللَّيْلِ﴾

(صحیح مسلم، کتاب صلوٰۃ المسافرین و قصروها، باب جامع صلوٰۃ اللیل، ج: ۱، ص: ۲۵۲)

ترجمہ: جس شخص کا نیند کے سبب رات کا وظیفہ اور معمول ادا نہ ہو سکا اور اس نے فجر اور ظہر کے درمیان اس کو پورا کر لیا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے رات ہی میں وہ معمول پورا کیا۔

حکایت: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تجدید شیطان نے آپ کے پاؤں دبا کر قضا کر دی یعنی نیند گہری طاری ہو گئی۔ آپ نے دن میں تجدید کی قضا دا کی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مرتوی ہے کہ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ جس شخص کا نیند کے سبب رات کا وظیفہ اور معمول ادا نہ ہو سکا اور اس نے فجر

اور ظہر کے درمیان اس کو پورا کر لیا گیکتب لَهُ كَانَمَا قَرَأً هُ مِنَ الْلَّيْلِ تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے رات ہی میں وہ معمول پورا کیا۔ حاصل حکایت یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں بعد نمازِ فجر معمولاتِ شب پورا کر کے بہت روئے اور حق تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ندامت کے ان آنسوؤں کو جو ایک روایت کے مطابق شہیدوں کے خون کے برابر میدانِ محشر میں تو لے جائیں گے قبول فرمائیں کہ درج کو بہت بلند فرمادیا۔ ابليس نے آپ کو آپ کے درجے سے کمتر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ کا مقام پہلے سے بھی بلند تھا۔ جل گیا۔ دوسرا شب میں تجد کے لیے بیدار کیا۔ حضرت نے دریافت کیا کہ اے شخص تو کون ہے؟ کہا میں آپ کو تجد کے لیے اٹھا رہا ہوں آپ اٹھ کر یہ نیک کام کر لیں۔ لیکن مجھ نہ معلوم کریں کہ میں کون ہوں، میرا نام بہت بدنام ہے۔ فرمایا کہ نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا حضور مجھے ابليس لعین کہتے ہیں۔ فرمایا تیرا کام تو برائی کرانا ہے، یہ نیک کام آج کیسے کر لیا؟ کہا حضور ہزاروں سال عبادت گزار رہا ہوں پرانی عادت کبھی عود کر آتی ہے۔ فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ ابليس تیرا اکمر مجھ پر نہ چل سکے گا۔ کہا حضور رات آپ کی تجد قضا کرادی تھی۔ آپ کی گریہ وزاری اور توبہ نے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بنادیا پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مجھ جیسا بنی آدم کا حاسداں کو کہاں برداشت کر سکتا ہے۔ آج سوچا کہ آپ کو بیدار کر دوں تاکہ آپ جس رفتار سے ترقی کر رہے تھے اسی پر قائم رہیں۔ آپ نے جس مقام درد و اخلاص سے توبہ کی اس نے تو آپ کو سلوک میں تیز گام بنادیا اور میری تدبیر معلکوں نے میرے جگر میں غم کی آگ رکھ دی۔ (معارفِ خس تہریز، صفحہ: ۱۱۰)

حدیث نمبر ۳۲

﴿الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ﴾

(صحیح البخاری، کتابِ الادب، باب علامہ حب اللہ عزوجل، ج: ۲، ص: ۹۱۱)

ترجمہ: آدمی اسی کے ساتھ ہو گا جس کے ساتھ مجبت کرے گا۔

محبت کی عظیم الشان کرامت

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ جو آدمی کسی قوم سے محبت رکھے (یعنی علماء و صلحاء سے محبت رکھتا ہے۔ مرقاۃ) وَلَمْ يَلْحُقْ بِهِمْ اور ان کے اعمالی نافلہ اور یاضاتِ شاقہ میں ان کا ساتھ نہ دے سکا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا **الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ**۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای یحشُرُ مَعَ مَحْبُوبِہ

وَيَكُونُ رَفِيقًا لِمَطْلُوبِهِ قَالَ تَعَالَى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ (المرفقة)

ترجمہ: محبت کی برکت سے اس محب کا حشر اپنے محبوب کے ساتھ ہو گا اور اسی کا رفیق ہو گا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور رسول کا مطیع ہو گا وہ انہیں منعم علیہم انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو گا۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

محبت کی کرامت سے محبوب کی معیت کی تائید میں ملاعلیٰ قاری نے جو آیت پیش کی ہے اس میں تو اطاعت کی قید ہے محبت کا لفظ ہی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اطاعت محبت کاملہ صادقہ کے لیے لازم ہے۔ پس اس آیت میں ملزم کی تعبیر لازم سے کی گئی ہے جو فن بلاغت میں علاقہ مجاز مرسل کہلاتا ہے اور اصطلاح میں اس کو تسمیۃ الملزوم باسم اللازم کہتے ہیں۔ چنانچہ ملاعلیٰ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں و مُنْ عَلَامَةُ الْمَحَبَّةِ الصَّادِقَةِ أَنْ يَخْتَارَ أَمْرَ الْمَحْبُوبِ وَنَهِيَةً عَلَى مُرَادٍ غَيْرِهِ وَلِذَا قَالَ رَابِعَةُ الْعَدُوِيَّةِ

تَعَصِّى إِلَهٌ وَأَنْتَ تُظَهِّرُ حُبَّهُ
هَذَا لَعْمَرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ
لُوكَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا طَغْتَهُ
إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطْبِعٌ

(المرفقة، ج: ۹، ص: ۲۵۰)

ترجمہ: محبت صادقہ کی علامت یہ ہے کہ محبوب کے حکم کو بجالائے اور نہی سے رک جائے۔ اور غیر محبوب کو بھی ترجیح نہ دے جیسا کہ رابعہ عدویہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے اگر تیری محبت صادق ہوتی تو اطاعت محبوب کی ضرور کرتا کیونکہ ہر محبت اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ (کشکول معرفت)

محبت و اطاعت پر معیت موعود کی تفصیلی تحقیق تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کیا محبت پر معیت سے یہ مراد ہے کہ جنت میں سب ایک ہی درجہ میں جمع ہوں گے اور فاضل اور مفضول میں فرق نہ رہے گا؟

ملا علیٰ قاری کی تحقیق:

جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت

میں کس طرح بعض کو بعض دیکھیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ﴾

(سورة النساء، آیہ: ۲۹)

اپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ أَعْلَمِنَ يَنْهَا رُونَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ فَيَجْتَمِعُونَ فِي رِيَاضِهَا.....﴾

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الاداب، باب الحب فی الله من الله، ج: ۸، ص: ۴۲)

اعلیٰ جنت کے لوگ اسفل والوں کے پاس نزول فرمادیں گے۔ اور جنت کے باغوں میں جمع ہوا کریں گے اِنَّ هَذِهِ الْمَعِيَّةَ وَالْمُوَاجِهَةَ وَالْمُجَامِلَةَ تَخْتِلُفُ بِاِخْتِلَافِ حُسْنِ الْمُعَالَمَةِ وَاللهُ اَعْلَمُ اور ہر شخص کی معیت اپنے بزرگوں کے ساتھ حسب اختلاف حسن معاملہ مختلف ہوگی۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کی تحقیق:

حضرت تھانوی بیان القرآن میں اس معیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقمطر از ہیں کہ ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اشخاص ان حضرات کے درجہ میں چلے جائیں گے کیونکہ یہ اس نص قطعی کے خلاف ہے:

﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾

(سورة آل عمران، آیہ: ۱۴۳)

بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے درجہ ساقلوں سے ان کے درجہ عالیہ میں پہنچ کر ان کی زیارت سے اور اس درجہ کے برکات سے مشرف ہوا کریں گے۔ (بیان القرآن، پارہ: ۵، سورہ النساء، صفحہ: ۱۳۷)

علامہ الوسي کی تحقیق:

حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی ذریات کو (بشرط ایمان) ان کے درجات میں جنت میں جمع فرمادیں گے اگرچہ وہ اعمال میں کم ہوں گے تاکہ وہ اپنی آنکھیں اپنی ذریات سے ٹھنڈی کریں۔ اور الحاق سے مرا مستقل سکونت ہے نہ کہ محض ان سے ملاقات اور زیارت کی اجازت۔ (روح المعانی، پ: ۲۲، ج: ۲۲)

محبت پر ثمرہ معیت کے متعلق علامہ الوسي کی تحقیق:

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ معیت سے یہ مراد نہیں کہ سب ایک درجہ میں ہوں گے بلکہ اعلیٰ منزل والے اسفل میں آنکھیں گے اور اسفل والے اعلیٰ منزل میں جا سکیں گے اور ایک دوسرے کو یہ احساس نہ ہو سکے گا کہ ہم سے اعلیٰ والے زیادہ عیش میں ہیں تاکہ ان کے دل میں حسرت

کا صدمہ نہ ہوا اور اعلیٰ والے احساس نہ کر سکیں گے ادنیٰ والے ہم سے کم اور بے قدر ہیں۔ تاکہ اپنے متعلقین کے کم عیش میں ہونے سے صدمہ نہ ہو۔ (تفسیر روح المعانی، پارہ: ۵، صفحہ: ۷۸)

شانِ نزول

معیت پر جس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایک روایت علامہ آلوئی نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکَ لَا حُبُّ إِلَيْ مِنْ نَفْسِي وَإِنَّكَ لَا حُبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں اور اولاد سے بھی زیادہ اور وَإِنِّي لَا كُوْنُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبَرُ اور میں گھر میں جب ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو صبر نہیں ہوتا حتیٰ اتنی فَأَنْظَرَ إِلَيْكَ یہاں تک کہ حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں لیکن آخرت میں آپ اعلیٰ درجہ میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوں گے تو ہم اپنی ادنیٰ جنت میں آپ کو کیسے پائیں گے اور کیسے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر نازل ہوئے:

﴿حَتَّىٰ نَزَلَ جِبْرِيلٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، ج: ۵، ص: ۷۵)

امام فخر الدین رازی کی تحقیق:

اس معیت کے متعلق امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

خلاصہ ترجمہ: معیت سے مراد ایک درجہ میں جمع ہو جانا نہیں، کیونکہ اس سے فاضل اور مفضول میں مساوات اور برابری لازم آتی ہے جو جائز نہیں۔ پس معیت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات اور دیدار ہر وقت ممکن ہو سکے گا۔ (تفسیر کبیر، جلد خامس، جزء عشر، صفحہ: ۲۶۱)

علامہ ابن کثیر حافظ عmad الدین دمشقی کی تفسیر:

﴿ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيًّا﴾

(سورة النساء، آیة: ۴۰)

علامہ ابن کثیر دمشقی اپنی تفسیر ابن کثیر میں مذکورہ آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

﴿أَيُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ، هُوَ الَّذِي أَهْلَهُمْ لِذلِكَ، لَا يَأْعُمَالُهُمْ، هُوَ عَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُ الْهُدَىَةَ وَالتَّوْفِيقَ﴾

یعنی معیت محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ یعنی اعمال کے بدالے میں نہ ملے گی اور وہ علیم ہیں کہ کون اس ہدایت اور توفیق کا مستحق ہے۔ (محض تفسیر ابن کثیر، پ: ۵، نساء: ۵۲۳)

از علامہ محمود نسفی صاحب تفسیر خازن:

اس معیت کے بارے میں صاحب تفسیر خازن نے روایت لکھی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آوے گی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا کہ کچھ تیاری نہیں کی الا انی احبت اللہ و رسولہ مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ تم اسی کے ساتھ ہو گے جس کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَمَا فَرَحَنَا بِشَيْءٍ إِشَدَ فَرَحًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ایسی خوشی ہم لوگوں کو کبھی نہیں ہوئی جیسا کہ اس ارشاد سے ہوئی اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں اَرْجُو اَنْ اَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِِّ اِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ امید ہے کہ میں ان سب حضرات کے ساتھ ہوں گا، بہ سبب ان کی محبت کے، اگرچہ ہمارے اعمال اس درجہ کے نہیں۔ (تفسیر خازن، ج: ۱، ص: ۳۷۲) (کشکولی معرفت، صفحہ: ۶۰)

حدیث نمبر ۳۳

﴿اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًاً وَ ارْزُقْنَا اِتْبَاعَهُ وَ ارِنَا الْبَاطِلَ بِاطِلًاً وَ ارْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ﴾

(تفسیر ابن کثیر، ج: ۱، ص: ۲۵۱)

ترجمہ: اے اللہ! ہمیں حق کا حق ہونا دکھادیجیے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے اور باطل کا باطل ہونا دکھادیجیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

فانی صورتیں اسے عظیم الشان اور پائندہ حقیقت نظر آنے لگتی ہیں، باطل حق نظر آنے لگتا ہے۔ اس تقلیلِ ابصار سے حدیث پاک میں پناہ مانگی گئی ہے اور یہ دعا سکھائی گئی اللہمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًاً وَ ارْزُقْنَا اِتْبَاعَهُ وَ ارِنَا الْبَاطِلَ بِاطِلًاً وَ ارْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ اے اللہ! ہمیں حق کا حق ہونا دکھادیجیے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے اور باطل کا باطل ہونا دکھادیجیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔

بس اللہ والے اس قہر سے محفوظ کیے جاتے ہیں لہذا حسینوں کے فرسٹ فلور پر نظر پڑتے ہی نظریں پیچی کر لیتے ہیں کیونکہ حسین جسموں کے گراونڈ فلور کی گندگی ان کو متاخر رہتی ہے کہ اندر سب پیشاب پاخانہ بھرا ہے اور اوپر چاندی کا ورق ہے۔ اللہ کی نافرمانی پیشاب پاخانہ سے بھی بدتر چیز ہے۔ توجہ کسی فانی

حسین شکل پر نظر پڑتے ہی دل میں مستی آئے تو فوراً نظر ہٹا لو اور اس مستی سے پناہ مانگو کہ یہ عذاب کی مستی ہے۔ یہ وہی مستی ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿لَعْمَرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

(سورة الحجر، آیة: ۷۲)

اور وہ (قوم لوط والے) اپنے نشہ میں مست ہو رہے تھے۔

واللہ کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی خبیث نہیں جو چند دن کے حسن فانی پر اپنے کریم مولیٰ اور اپنے خالی اور اپنے والے کو ناراض کرتا ہے۔ یہ شخص طبیعت کا خمیس اور کمینہ اور نہایت غیر شریف ہے۔ اگر اس میں حیا اور شرم ہوتی تو اپنے اللہ کو ناراض نہ کرتا۔ ملاعی قاری محدث عظیم لکھتے ہیں کہ حیا کی تعریف ہے فاًنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاةِ أَنَّ مَوْلَأَ كَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ يَعنِي حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولیٰ تم کو نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھیے تب سمجھ لو کہ یہ بندہ حیا اور شرم والا ہے۔ آج آپ کسی بدنظری کرنے والے کو بے غیرت اور بے حیا کہہ دیں تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جائے گا لیکن اللہ کے نزدیک یہ بے حیا ہے کیونکہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ سے نہیں شرما تا اس میں حیا کہاں ہے اس لیے ہر وقت اس کا خیال رکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، میری نظر پر ان کی نظر ہے۔ میرا شعر ہے۔

میری نظر پر ان کی نظر پاسیاں رہی
اس احساس سے کیوں بے خر تھے ہم

جس کو یہ استحضار ہو گا وہ شراب کی مستی میں ان شاء اللہ تعالیٰ بتلانہیں ہو سکتا۔

(دریں مشتوی مولا ناروم، صفحہ: ۶۵-۶۸)

خود بنی اور تکبر کی نخوست سے قلب کی بصیرت میں فساد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بصارت فاسد ہو جاتی ہے اور ایسا شخص حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ اہل اللہ اور مقبولانِ برگاہ کے چہرہ انور بدجنتوں کو منحوس اور بُرُّے نظر آتے ہیں اور اہلِ باطل کے چہرے ان کو محبوب اور منور معلوم ہوتے ہیں۔ اس ابتلاء کا سبب ان کے باطن کا کبر اور اعراض ہوتا ہے کما قال تعالیٰ:

﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾

(سورة النساء، آیة: ۱۵۵)

ان کے مسلسل کفر اور کفر پر ہمیشہ قائم رہنے کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ ظلم نہیں ہے کیونکہ ان کا ارادہ حق کو قبول کرنے کا تھا ہی نہیں اس لیے مہر لگا دی گئی لہذا یہ عذاب قہر ہے جو انبیاء اور اولیاء کے چاند جیسے چیزوں کو کابوس (ڈراویں شکل) دکھاتا ہے اور کفر کے تاریک کنوں کو خوش نما

باغِ دکھاتا ہے۔

اپنی شقاوت اور کور باطنی (بدجنتی اور بصیرت کے اندر ہے پن) اور قلبی فساد یعنی عجب و تکبر کے سبب انبیاء کی برابری کرنے لگے اور اولیاء اللہ کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور ان کو اپنی طرح قیاس کیا جیسا کہ حکایت ہے کہ ایک جبشی نے جنگل میں ایک آئینہ گرا ہوا دیکھا اور اس کے اندر اپنی کالی صورت لمبے لمبے دانت اور موٹے موٹے ہونٹوں کو دیکھ کر آئینہ کو گالی دے کر کہا کہ مجنت بد صورت، منحوس تیری ایسی بھدڑی شکل ہے جبھی تو جنگل کے ویرانے میں کسی نے تجھے پھینک دیا ہے، اگر حسین ہوتا تو گھروں میں لوگ تجھ کو آ راستہ کر کے رکھتے۔ اس ظالم کو یہ جربنا تھی کہ اس آئینہ میں خرابی نہ تھی بلکہ اس کی اپنی ہی صورت کا عکس تھا۔ چنانچہ بصیرت کے اسی اندر ہے پن کے سبب ابو جہل کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہایت برا نظر آتا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت صحیح یہ فیصلہ کر رہی تھی:

﴿كَانَ الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ﴾

(سنن الترمذی، کتاب المناقب عن رسول الله، باب صفة النبي ﷺ، ج: ۲، ص: ۲۰۶)

کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں مجھ کو آفتاب چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور شامتِ عمل سے جب اللہ کا قہر نازل ہو جاتا ہے تو اسی طرح اولیاء کی معرفت بھی نہیں ہوتی خصوصاً اللہ سے اپنے شیخ کی محبت و عظمت مانگنی چاہیے کیونکہ اگر اپنے شیخ کو حقارت سے دیکھے گا تو وہ شخص کبھی فلاح نہیں پاسکتا۔ ملاعلیٰ قاری فرماتے ہیں مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى شَيْخِهِ وَ نَظَرَ إِلَيْهِ احْتِقَارًا فلا يُفْلِحُ أَبَدًا جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا اور اس کو مختفہ از نظر سے دیکھا تو یہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جب کسی حسین کو دیکھ کر نفس میں خوشی کی لہریں اٹھیں تو اللہ سے فوراً درجا و اور سمجھ لو کہ یہ وہی کنویں کا اندر ہیرا ہے جو تقلیلِ البصار سے بہترین باغِ معلوم ہو رہا ہے۔ اس سے تو بہ کرو کیونکہ نافرمانی سے خوش ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وفا ہی ہے۔ جب نفس کسی حسین کو دیکھ کر خوشی امپورٹ کرے، درآمد کرے، جو حرام خوشیاں اور بد مستیاں آئیں تو نظر ہٹا کر نفس کو کوئی تکلیف دہ بات یاد دلا دو، دوزخ کی آگ کا تصور کرو، قبر کی منزل یا قیامت کی پیشی کو یاد کرو یا تنہائی میں جا کر اپنی کھوپڑی پر تین جو تے لگا لو کہ کیوں خوش ہوا، نفس کو فوراً اتنا غم دو کہ توازن اور نینس صحیح ہو جائے اور غم پہنچانے کا ایک اور راستہ بزرگوں نے بیان کیا ہے کیونکہ بعض وقت نفس دوزخ اور عذابِ قبر اور قیامت کی پیشی وغیرہ سے بھی متاثر نہیں ہوتا وہ پاگل سما ہو جاتا ہے لہذا اس نفس کو غم دینے کا بہترین اور مجبوب علاج مشانچ نے بتایا کہ فوراً وضو کرو اور آٹھ دس رکعتاں نفس سے پڑھو والو۔ بس یہ رکعتاں سارے مراقبوں سے بھاری پڑیں گی۔ پھر شیطان بھی

پیچھا چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے بدنظری تو میں نے کرائی اور میں نے کوشش کر کے فوکس ڈالا، اس حسین کے چہرے پر مسمر یزم کیا جس سے وہ چار آنہ حسن ان کو سولہ آنہ نظر آیا۔ لال لال گالوں کو اور زیادہ لال دکھا کر گالوں کو لالہ زار بنادیا اور یہ لالے جان کے چھالے ہیں جس سے ان کی جان کے ہی لالے پڑ گئے لیکن اس نے اشکبار آنکھوں سے توبہ کر لی اور توبہ سے خطا معاف ہو گئی اور آٹھ دس رکعات مزید پڑھ لیں اور کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیا جس سے اللہ کا غصب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ الْغَصْبَ الرَّبُّ الْخَ يہ سب نیکیاں مستزد اس کے نامہ اعمال میں چڑھکتیں۔ الہند اشیطان کہتا ہے کہ میری بنس تو یہاں بالکل لاس (خسارہ) میں جا رہی ہے الہذا توبہ کرنے والے کا تعاقب چھوڑ دیتا ہے۔ شیخ کے مشورہ سے گناہ کے ترک کے لیے صدقہ کرنا نہایت مفید ہے۔ (دری مشتوی مولانا روم، صفحہ: ۱۲۰-۱۲۳)

آپ اپنی ایک نگاہ کرم ڈال دیں تو اسی وقت اس کا نصیب جاگ اٹھے گا اور اس کا کام بن جائے گا اور اسی لمحہ نفس کے قید و بند سے رہائی پا جائے گا۔ وہ دل جو گناہوں کے شدید میلان میں بنتا تھا آپ کی نگاہ کرم کے بعد اس کو گناہوں کا وہ شدید میلان نہیں ہوتا جتنا عام لوگوں کو ہوتا ہے، بلکہ اسماں ایک طبعی میلان ہو گا لیکن اے اللہ آپ کی مہربانی سے اس کو قابو میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے کرم سے حسنِ مجازی کی فناستیت اور فانی اجسام کے اندر کی گندگی اس کو نظر آ جاتی ہے جس سے فانی جسموں سے ایک نفرتِ طبعیہ اے اللہ آپ اس کو عطا فرمادیتے ہیں کیونکہ انسان عقل کے بل بوتے پر کب تک بڑھے گا، عقلی استدلال کے پاؤں بہت کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے اے اللہ! ہمیں گناہوں سے طبعی کراہتِ نصیب فرمادیتے تاکہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ ورنہ حسن فانی کی ملیع سازی کافریب بُرے بُرے تقاضوں کو اور شدید کردیتا ہے مگر جس پر اے خدا آپ فضل فرمادیں تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ ان فانی جسموں کی چمک دمک ظاہری ہے، اندر گوہمراہوا ہے جیسے کوئی پاخانہ پرسونے اور چاندی کے ورق لگادے۔ جو ورق کی چمک دمک سے دھوکہ کھائے گا وہ پاخانہ ہی پائے گا الہذا اے نفس بالوں اور گالوں سے اور رانوں سے دھوکہ نہ کھا ورنہ پیشاب پاخانہ کی گندگی تک پہنچا پڑے گا اور یہ تو جسمانی اور حسی بے عزتی ہوئی لیکن اگر اے اللہ آپ نے ستاری نہ فرمائی تو ہم مخلوق میں بھی ذلیل ہو جائیں گے کیونکہ ستاریت ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ جب تک ہم چاہیں اپنے عیب کو چھپائیں بلکہ پرداہ ستاریت اے اللہ آپ کے اختیار میں ہے، جب چاہیں ہٹا دیں اور ساری دنیا ہماری رسوانی کا تماشہ دیکھ لے۔ اسی لیے مولانا رومی دعا فرماتے ہیں کہ نفس کی چالوں اور مکاریوں اور اس کے بُرے بُرے تقاضوں کی قید سے اے اللہ آپ کے سوا کون نجات دلا سکتا ہے کیونکہ تقلیب البصار سے گناہ حسین اور نیکیاں بُری معلوم ہونے لگتی ہیں۔ حدیثِ پاک کی دعا ہے اللہُمَّ أرِنَا

الْحَقُّ حَقًا وَ ارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ اَللهُ تَعَالَى كَوْحَقٌ دِكْهَا او رَاسٌ کی اتِّبَاع کی توفیق نصیب فرما۔ وَ اَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَ ارْزُقْنَا اجْتِسَابَهُ اور باطل دِکْهَا او رَاسٌ سے اجتناب او رپرہیز کی توفیق کا رزق دے دے یعنی رزق اتِّبَاع خیرات و حسنات نصیب فرما اور رزق اجتناب عن الباطل بھی نصیب فرما۔ اپنی رضا کے اعمال نصیب فرما اور ناراضگی کے اعمال سے حفاظت نصیب فرما۔ (فغان روی، صفحہ ۸۵-۸۷)

حدیث مذکورہ کی تشریح بعنوان دگر

تکبر و خود بینی اور گناہوں پر مسلسل اصرار کی نوحست کی وجہ سے قلب کی بصیرت فاسد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بصارت میں فساد آ جاتا ہے اور ایسے شخص کو حق باطل اور باطل حق نظر آنے لگتا ہے اور فانی شکل میں اور گناہ کے موقع اور دنیا کے مدار کی فانی لذتیں اس کو نہایت مہتمم باشان معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا آتش انگیز راستہ اس کو پانی کی طرح ٹھنڈا اور لذید معلوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ جو پانی کی طرح صاف و شفاف اور حیات بخش ہے اسے آگ کی طرح گرم اور کلفت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ اس تقلیب البصار سے حدیث پاک میں پناہ میں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہُمَّ ارْنَا الْحَقَّ حَقًا وَ ارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَ ارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَ ارْزُقْنَا اجْتِسَابَهُ اَللهُ مُجَھَّهٌ حَقٌّ کوْحَقٌ دِكْهَا او رَاسٌ کی اتِّبَاع بھی نصیب فرما اور باطل دِکْهَا او رَاسٌ سے اجتناب کی توفیق بھی نصیب فرما۔

اس حدیث پاک کا پہلا جملہ اللہُمَّ ارْنَا الْحَقَّ حَقًا نِعْمَتٍ او لی ہے کہ اے اللہ تَعَالَى کا حق ہونا مجھ پر واضح فرماد تھے لیکن بعض وقت حق واضح ہو گیا لیکن آدمی اسے قبول نہیں کرتا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ اور بڑھادیا وَ ارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ کہ اے اللہ جب آپ مجھ پر حق واضح فرمائیں تو اس کی اتِّبَاع بھی مقدر فرماد تھے۔ یہ دوسرا جملہ نِعْمَتٍ او لی کا مکمل ہے کیونکہ حق کا ظاہر ہونا نعمت ہے لیکن اگر اتِّبَاع کی توفیق نہ ہو تو نعمت کی تکمیل نہیں ہوئی اور جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہوا اور بلا غیرت کلام نبوت دیکھتے کہ وَقَقْنَا نہیں فرمایا کہ ہمیں توفیق دے دیجئے بلکہ وَارْزُقْنَا فرمایا کہ ہمیں اس کی اتِّبَاع کا رزق دے دیجئے کیونکہ رزق اپنے مزوق کو تلاش کرتا ہے جیسا کہ دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الرِّزْقَ لِيَطْلُبُ الْعَبْدُ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَهْلُهُ﴾

(مشکوہ المصایب، کتاب الرفق، باب التوکل والصبر، ص: ۳۵۸)

رزق بندہ کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم جہاں بھی رہیں اتِّبَاع حق کے رزق کو ہماری روح میں داخل کر دیجئے۔ جسمانی رزق پیٹ میں داخل ہوتا ہے اور توفیق اتِّبَاع کا رزق روح کے اندر داخل ہوتا ہے لیکن بلا غیرت کلام نبوت کا کمال ہے کہ توفیق کو رزق کے

لطف سے تعبیر فرمایا کہ اتباعِ حق کا رزق ہمیں دے دیجئے کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا﴾

(مشکوٰۃ المصایب، کتاب الرفق، باب التوکل والصبر، ص: ۳۵۲)

کسی نفس کو ہرگز موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق کمل نہ کر لے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وارزُقُنا فرما کر اُمت کے لیے یہ نعمت مانگ لی کہ اے اللہ! ہمیں مرنے نہ دیجئے جب تک ہم پوری پوری اتباعِ حق نہ کر لیں۔ جس طرح استکمال رزق ظاہری کے بغیر موت نہیں آ سکتی اسی طرح اے اللہ استکمال رزقِ باطنی یعنی اتباعِ حق کی تکمیل کے بغیر ہمیں موت نہ دے، جب تک اتباعِ حق میں ہم کمل نہ ہو جائیں ہمیں موت نہ آئے۔

اور حدیث پاک کا دوسرا جزو ہے وَ أَرَنَا الْبَاطِلَ بِالْبَاطِلِ أَوْ بَاطِلَ كَوْهِيمِيں باطل دکھا وَارزُقُنا اجتنابِ اور اس سے اجتناب کی توفیق بصورتِ رزق دے، اجتناب عن الباطل کا رزقِ روحانی ہمیں خود تلاش کر لے کہ جس باطل کے نزد میں جہاں کہیں ہم پھنسے ہوں اس سے بچنے کی توفیق ہمارے رزق کی طرح وہاں پہنچ جائے اور ہمیں اس باطل سے اجتناب کی توفیق نصیب ہو جائے اور جب تک باطل اور معصیت اور گناہوں کے اعمال سے ہم کو طہارت کا ملم، حفاظت کا ملم نصیب نہ ہو اے خدا ہمیں موت نہ آئے حتیٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا یہاں تک میرا نفس آپ کے اس رزقِ روحانی کو مکمل حاصل نہ کر لے۔

اور حدیث پاک میں لَنْ تَمُوتَ کا لفظ آیا ہے کہ ہرگز کوئی نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق کمل نہ کر لے تو اتباعِ حق اور اجتنابِ باطل کی توفیق کو رزق سے تعبیر فرمانا یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اُمت پر حرم ہے کہ بغیر کمل حق پرستی اور بغیر کمل اجتناب عن المعاصی کے میری اُمت کو موت ہی نہ آئے۔ حق پرستی کے رزق کا نام اتباعِ حق ہے اور باطل سے پہیز گاری و بے زاری کے رزق کا نام اجتناب عن المعاصی ہے۔ جب اس دعا کی برکت سے حق کی اتباع اور باطل سے اجتنابِ رزق افراد اُمت کے لیے مقدار نہیں ہو جائے گا انہیں موت نہ آئے گی، جب تک یہ روحانی رزق کمل ان کو نہ پہنچ جائے اور اس طرح وہ پاک و صاف ہو کر اور اللہ کے پیار کے قابل ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔

(احقر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جنوبی افریقہ کے ایک شیخ الحدیث جو حضرت والا کی خدمت میں قیام کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ تشریح بالکل الہامی ہے، ذہن کی رسائی ان معانی تک نہیں ہو سکتی جو حضرت والا نے بیان فرمائے خصوصاً توفیق کی رزق سے تعبیر کی مدل تقریر عجیب و غریب

ہے جو نہ کسی کتاب میں دیکھی نہ کسی سے سئی۔ جامع)

حضرت والا نے فرمایا کہ الحمد للہ! اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو علوم میری زبان سے بیان کرادیتے ہیں وہ علوم بتاتے ہیں کہ یہ میں مخرجات نہیں ہیں آسمانی منزلات ہیں۔

میرے پینے کو دوستو سن لو
آسمان سے مے اُرتی ہے

تقلیبِ البصار کے اس عذاب سے پناہ مانگی ہے جس میں آگ پانی اور پانی آگ نظر آنے لگتا ہے یعنی حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے جس کا سبب غلبہ جاہی غلبہ باہ سے اعراض عن الحق ہے مثلاً کسی پر حق واضح ہو گیا لیکن اپنی جاہ و کبر و خود بینی کے سبب کہتا ہے کہ میں کسی مولوی کی بات نہیں مانتا۔ (فغان روی، صفحہ: ۳۲۸-۳۹۳)

حدیث نمبر ۳۲

﴿لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ ذَرَّةٍ مِّنْ كَبِيرٍ قَالَ رَجُلٌ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثُوبًا حَسَنًا وَنَعْلَهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكَبِيرُ بَطَرَ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ﴾

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم الكبر و بیانہ، ج: ۱، ص: ۲۵)

ترجمہ: وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بڑائی ہو گی۔

دین پر استقامت اور اعمال کی بقاء کے لیے اہل اللہ کی صحبت اتنی ضروری ہے کہ حضرت مولا نا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت فرماتے ہیں کہ میں جب دین کی محنت کے لیے جاتا ہوں تو مخلوق میں اختلاط اور زیادہ میل جوں سے نفس میں کچھ کشافت اور گندگی سی آجائی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں اہل اللہ کی خانقاہوں میں جاتا ہوں تو دل مُحْلِّی ہو جاتا ہے جیسے موڑ کار طویل سفر پر جاتی ہے تو پرزوں میں کچھ میل کچیل لگ جاتا ہے لہذا اس کی ٹیونگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور صفائی کے لیے کار کار خانے میں جس کو درکشاپ کہتے ہیں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح دل کی ٹیونگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کی درکشاپ، خانقاہ ہیں ہیں کیونکہ نفس چور ہے اس میں خفیہ طریقہ سے کچھ بڑائی، کچھ دکھاوا آ جاتا ہے۔ جن کا مشاتخ اور علماء سے تعلق نہیں ہوتا ان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے اور ان کی زبان سے بڑائی کی باتیں نکالنا شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے دل میں کیا مرض پیدا ہو گیا۔ اس لیے چاہے کوئی مددِ رس ہو، معلم ہو، مبلغ ہو، مصنف ہو تو زکی نفس بغیر اہل اللہ کی صحبت اور تعلق کے نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے خود بتایا کہ میں اللہ کے فضل سے دین کے لیے کچھ وقت لگا کر جب کراچی واپس آیا تو مجھے تمام لوگ

نہایت حقیر معلوم ہوئے کہ یہ سب غافل ہیں، انہیں دین کی فکر نہیں، علماء پنکھوں میں بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اور ہم لوگ دریائے سندھ کے کنارے جنگلوں میں جا کر دین پھیلارہے ہیں، لیکن وہ ایک اللہ والے سے بیعت تھے انہوں نے اپنے شیخ کو اپنا یہ حال بتایا کہ مجھے تو بڑے بڑے علماء تک شیطان نظر آ رہے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ سب سے بڑے شیطان تو تم ہو کیونکہ تمہارے دل میں تکبر پیدا ہو گیا۔ تم نے اپنے نفس کو مٹانا نہیں سیکھا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھو اور اپنے کو سب سے کمتر سمجھو بلکہ جب تک خاتم ایمان پر نہیں ہو جاتا خود کو فروں سے اور جانوروں سے بھی کمتر سمجھو اور تمہارا حال اتنا خراب ہو گیا کہ عام مسلمان تو کجا تم علماء کو جو وارثیں انبیاء ہیں، حقیر سمجھ رہے ہو۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالٌ ذَرَّةً مِنْ كَبِرٍ وَهُوَ شَخْصٌ جَنَّتِ مِنْ دَخْلِ نَهْيَنْ ہو گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بڑائی ہو گی اور ایک روایت میں ہے کہ وَلَا يَجِدُ رِيحَهَا داخلمہ تو در کنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔

اس سے پتہ چلا کہ اہل اللہ سے تعلق کتنا ضروری ہے۔ اگر اس شخص کا کوئی شیخ نہ ہوتا تو یہ توہاک ہو گیا تھا کیونکہ شیطان نے دل میں تکبر ڈال دیا تھا لیکن شیخ کی ڈانت سے سارا تکبر نکل گیا۔ یہ تکبر اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ حج اور عمرے، تہجد وتلاوت، ذکر و نوافل سب کو اڑا دیتا ہے۔ اسی طرح چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، بخاری شریف پڑھا رہا ہو اگر اللہ والوں سے اصلاحی تعلق نہ ہو گا تو آپ اس کے علم و عمل میں فاصلے دیکھیں گے۔ چاہے علم کا سمندر ہو اگر اصلاح نہ کرائی ہو گی تو آپ دیکھیں گے کہ ہوائی جہاز میں ایئر ہو سٹس سے مسکرا کر اور اس کی طرف دیکھ کر باتیں کر رہا ہو گا اور زنا العین النظر کا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعنت لعَنَ اللَّهِ النَّاظِرَ وَالْمُنْظُورُ أَيُّهُ کا علم اس کی طاق نسیان میں ہو گا۔ جتنا نیکیاں کہانا ضروری ہے ان کی حفاظت کا اہتمام بھی اتنا ہی ضروری ہے جو نفس کی اصلاح کے بغیر نہیں ہوتا اور نفس کی اصلاح موقوف ہے یہ صحبت اہل اللہ پر۔ (دری مشنوی مولانا روم صفحہ: ۲۸۵۔ ۲۸۷)

حدیث قدسی میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ بہت بُرا ہے کبیر یاً خاص میری چادر ہے پس جو شخص بھی اس میں شریک ہونا چاہے گا اسے قتل کر دوں گا۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔

تکبر کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں تکبرَ غَمْطُ النَّاسِ وَ بَطَرُ الْحَقِّ کا نام ہے یعنی لوگوں کو تغیر سمجھنا اور حق بات کو قبول کرنے سے اعراض اور انکار کرنا۔ تکبر کرنے والا تو اضع سے محروم رہتا ہے اور حسد و

غصہ سے نجات نہیں پاتا، ریا کاری کا ترک اور نرمی کا برتاؤ اس کو دشوار ہوتا ہے اپنی عظمت اور بڑائی کے نشہ میں مست رہتا ہے۔

حدیثِ پاک میں ہے کہ جب بندہ رضائے حق کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے (جبیسا کہ مَنْ تَوَاضَعَ اللَّهُ كَانَ إِنْدِرَ حَرْفَ الْأَمْ سَطَّ طَاهِرٍ ہے) تو یہ شخص اپنے دل میں خود کو مکمل اور حقیر سمجھتا ہے اور مخلوق کی نظر میں اس کو اللہ تعالیٰ بلندی اور عزت عطا فرماتے ہیں اسی طرح جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں ذلیل کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ سورا اور کتبے سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔

علاق: اپنے گناہوں کو سوچا کرے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور محاسبہ کا دھیان رکھے، جب اپنی فکر میں پڑے گا دوسروں کی تحقیر، تقدیم اور تبصرہ سے بچ گا جیسے کوڑھی کسی ڈکام کے مریض کو حقیر نہیں سمجھتا اسی طرح اپنی روحانی اور قلبی بیماری کو شدید سمجھے اور اپنے خاتمہ کے خوف سے لرزائی اور ترساں رہے۔ میرے مرشد اس بیماری کی اصلاح کے لیے ایک حکایت بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک لڑکی کوشادی کے موقع پر خوب اپچھے لباس اور زیور سے سجا یا گیا۔ محلہ کی سہیلیوں نے تعریف شروع کی کہ بہن تم تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اس نے روکر کہا کہ ابھی تم لوگ بیکار تعریف کرتی ہو۔ جب میرا شوہر مجھے دیکھ کر پسند کر لے اور اپنی خوشی کا اظہار کر دے تب وہ خوشی اصلی خوشی ہو گی، معلوم نہیں اس کی نگاہ میں میری صورت کیسی معلوم ہو گی، تمہاری نگاہوں کے فیصلے ہمارے لیے بیکار ہیں۔

پھر حضرت مرشد فرماتے تھے کہ اس طرح بندہ کو مخلوق کی تعریف سے یا اپنی رائے سے خود کو اچھا اور بڑا نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ میدانِ محشر میں حق تعالیٰ کی نظر سے ہمارے کیا فیصلے ہوں گے اس کی خبر ہم کو ابھی کچھ نہیں پھر کس منہ سے اپنے کوموت سے قبل اور حُسْن خاتمہ سے قبل اچھا سمجھنے کا حق ہو گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں۔

ایماں چوں سلامت بہ لپ گور بریم
احسن بریں چستی و چالاکی ما

جب اسلام کو ہم قبر میں سلامتی سے لے جائیں گے پھر اپنی چستی اور ہوشیاری پر خوشی منائیں گے، یہی وجہ ہے کہ تمام اولیائے کرام مرنے سے قبل کبھی نازکی بات نہیں کرتے اور حُسْن خاتمہ کی دعا کرتے رہتے ہیں اور دوسروں سے بھی درخواستِ دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ یقیناً لوگوں کا کام ہے جو اپنے بارے میں مالک کے فیصلہ کا انتظار کیے بغیر اپنے ہی فیصلہ سے یا مخلوق کی تعریف سے اپنے لیے بڑائی اور اچھائی کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں۔

عجب اور کبر کا فرق

اپنے کو اچھا سمجھنا اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا عجب کہلاتا ہے اور اپنے کو اچھا سمجھنے کے ساتھ دوسروں کو کمتر بھی سمجھنا تکبیر کہلاتا ہے اور دونوں حرام ہیں۔ جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی نظر میں عزت والا ہوتا ہے اور جب اپنی نظر میں اچھا اور بڑا ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے معاصی سے نفرت واجب ہے لیکن عاصی سے نفرت حرام ہے۔ اسی طرح کسی کافر کو بھی زگاہ حقارت سے نہ دیکھے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر مقدر ہو چکا ہو۔ البتہ اس کے کفر سے نفرت واجب ہے۔

یقین کافر را نجواری منگرید
کہ مسلمان بولش باشد اُمید

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے کو تمام مسلمانوں سے فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے فی المال کمتر سمجھتا ہوں یعنی موجودہ حالت میں ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے اور خاتمہ کے اعتبار سے کہ نہ معلوم کیا ہوا پنے کو کفار سے بھی کمتر سمجھتا ہوں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن کامل نہ ہو گا جب تک کہ اپنے کو بہا تم اور کفار سے بھی کمتر نہ جانے گا۔

جب حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ چاہیں تو بڑے سے بڑے گناہ کو بدون سزا معاف فرمادیں اور چاہیں تو چھوٹے گناہ پر گرفت کر کے عذاب میں پکڑیں تو پھر کس منہ سے آدمی اپنے کو بڑا سمجھے اور کیسے کسی مسلمان کو خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو حقیر سمجھے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ازیں بر ملائک شرف داشتند
کہ خود را به از سگ نہ پنداشتند

اللہ والے اس سبب سے فرشتوں پر شرف و عزت میں بازی لیجاتے ہیں کہ خود کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت و قرب کو حق تعالیٰ نے بندوں میں مخفی رکھا ہے لہذا کسی بندہ کو خواہ کیسا ہی گنہگار ہو حقیر نہ جانو کے کیا خبر شاید یہی بندہ علم الہی میں ولی ہو اور اس کی ولایت کسی وقت بھی توبہ صادقة اور اتابع سنت کی صورت میں ظاہر ہو جائے۔ جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ بعض بندے زندگی بھر رند بادہ نوش، مست و خراب بادہ اور فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں اور اچانک ان میں تبدیلی آ جاتی ہے اور توبہ کر کے پاک و صاف ہو جاتے ہیں جیسے کوئی شاہزادہ حسین جس کے منہ پر کا لک لگی ہوا چانک صابن سے نہادھو کر چاند کی طرح روشن چہرہ والا ہو جائے۔

جو شہ میں آئے جو دریا رحم کا
گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے وجود میں دو مرتبہ کس قدر گندے راستے سے گذرتا ہے ایک مرتبہ باپ کے پیشاب کی نالی سے نطفہ کی شکل میں ماں کے شکم میں گیا اور دوسری مرتبہ ماں کے رحم سے ناپاک راہ سے وجود میں آیا پھر تکبر کیسے زیبا ہو گا۔ بڑے بڑے متکبر بادشاہوں کا موت، قبر میں کیا حال کرتی ہے اور کس طرح لاکھوں کیڑوں کی غذائیتی ہے۔

جس طرح امتحان کا نتیجہ سننے سے قبل اپنے کو بڑا اور کامیاب سمجھنے والا طالب علم بے وقوف ہے اسی طرح میدانِ محشر میں اپنا فیصلہ سننے سے قبل دنیا میں اپنے کو کسی سے افضل سمجھنا اور بڑا سمجھنا حماقت ہے۔
حضرت علامہ سید سلیمان صاحب کا خوب شعر ہے۔

ہم ایسے رہے یاں کہ دیسے رہے
وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

یہی حال ہمارا ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کی شرارت اور خباثت اور گناہوں کے تقاضوں کو جانتے ہوئے جہاں کسی نے ذرا تعریف کر دی کہ حضرت آپ ایسے ہیں بس حضرتی کا نشہ چڑھ گیا اور اپنے نفس کو بھول گئے۔ اللہ والے ایسے وقت اور شرمندہ ہو جاتے ہیں اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ستاری کا شکردا کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں یہ سب حق تعالیٰ کی ستاری ہے ورنہ اگر وہ ہمارے اترے پترے کھول دیں تو سب معتقدین را فرار اختیار کریں۔ پس مخلوق کا حسنِ ظن بھی حق تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور اپنے کو مکتر اور حقیر سمجھنا درجہ یقین میں ایک بینِ حقیقت کو تسلیم کرتا ہے اور عبدیت کاملہ کے لوازم سے ہے۔ (روح کی پیاریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ ۱۳۸-۱۳۲)

یہ تکبر کا مرض اتنا خطرناک مرض ہے کہ ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تبلیغ میں چلے لگاتا ہے، بخاری شریف پڑھاتا ہے مگر جب مراتودل میں تکبر لے کر گیا، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہو گا وہ حدیث سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو گا۔ یعنی جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی بڑائی ہو گی ایسا شخص جنت میں نہ جائے گا۔

یہ وہ زبردست ایٹم بم ہے کہ سو برس کا تہجد، سو برس کی زکوٰۃ، سو برس کے حج اور عمرے، سو برس کی نفلیں اور تلاوت، سو برس کی عبادت، ساری زندگی کے اعمال کو ہیر و شیما کر دیتا ہے جیسے ایٹم بم کا وہ ذرہ

جس نے جاپان کے ہیر و شیما کو تباہ کیا تھا یہ تکبر کا ذرہ تمام عبادات کو ضائع کر دیتا ہے یہ ایسا ایم بم ہے کہ سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شخص جنت کی خوبصورتی پائے گا جب کہ اس کی خوبصورتی دوستک جائے گی۔ اتنا خطرناک مرض ہے۔

حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تھانے بھون کی خانقاہ میں کوئی داخل ہوتا ہے تو پہلی نظر جب اس پر پڑتی ہے اس کی سب بیماری سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ علم غیب نہیں تجربہ ہے، عالم الغیب تو صرف خدائے تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی چال سے اور چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں فلاں بیماری ہے، ارے بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے حکیم لوگ بھی بتادیتے ہیں آنکھ پیلی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو یقان ہے، چہرہ زیادہ لال ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو فان لگرنے والا ہے، بہت زیادہ خون بڑھ گیا ہے، ہائی بلڈ پریشر وال امریض بھی چہرہ سے بچان لیا جاتا ہے۔

سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بدنگا ہی کر کے ایک شخص آیا تھا دیکھتے ہی فرمایا ما بالْ أَفْوَامِ يَتَرَشَّحُ مِنْ أَعْيُنِهِمُ الرِّبَّنَا كیا حال ہے ایسی قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا پیتا ہے تو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے سمجھ لیا۔ ہرگناہ کا اثر اس کی آنکھوں پر، چہرہ پر، اس کی چال پر پڑتا ہے اور تکبر والے کی تو چال، ہی عجیب ہوتی ہے، اس کی چال، ہی سے آپ سمجھ لیں گے کہ یہ شخص متکبر ہے۔ اور اللہ والوں کی کیاشان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هُوُنَا﴾

(سورة الفرقان، آیہ: ۲۳)

میرے خاص بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے کو دلیل کر کے، مٹا کر، ان کی چال بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے دے جا رہے ہیں اور متکبر کی چال بتاتی ہے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے، اکثر کے چلتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے متکبر و اتم اتنی زور سے زمین پر پاؤں رکھتے ہوئکن تم زمین کو پھاڑنیں سکتے ہو اور نہ پھاڑ سے زیادہ لمبے ہو سکتے ہو جو گردان تان کر چل رہے ہو:

﴿وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾

(سورة الاسراء، آیہ: ۲۷)

زمین پر اتراتا ہوا مت چل کیونکہ تو زمین کو پھاڑنیں سکتا اور بے وقوف ہے جو اتنی گردان تان رہا ہے تو پھاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتا۔ (علج کبر، صفحہ: ۲۵-۲۷)

یہ ارشاد مبارک جب صحابہ نے سنا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ذرہ کے

برا برتکبر ہو گا تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی شخص پسند کرے کے اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو، مثلاً ایک شخص خوب اچھا ہلا ہو اعمدہ لباس پہنتا ہے اور مان لو کہ جوتا بھی سلیم شاہی پہنتا ہے، ایک صحابی سوال کر رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَ يُحِبُ الْجَمَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَمِيلٌ ہے جمال کو پسند کرتے ہیں، میلا کچیلار ہنا کوئی اچھی بات نہیں، انسان صاف سترہار ہے، جتنا ہو سکے اچھے لباس میں رہے، یہ تکبر نہیں ہے، کبکی حقیقت اور اس کا ماذہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کہ تکبر کا بم دوجوڑے سے بنتا ہے۔

۱۔ بَطْرُ الْحَقِّ، حق بات کو قبول نہ کرنا، سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم مفتیوں کو مانتے ہی نہیں، میں نے ایسے متکبر بھی دیکھے ہیں جو کہتے تھے کہ اگر ساری دنیا کے مفتی مل جائیں تو بھی ہم نہیں مانیں گے، ارے بھائی ساری دنیا کے علماء گمراہی پر کیسے جمع ہو سکتے ہیں مگر متکبر کی سمجھ میں یہ بات کہاں آتی ہے۔ بس حق معلوم ہو جانے پر اس کو قبول نہ کرے یہی کبر ہے۔

ہماری مسجد کے ایک امام صاحب تھے، دوران جماعت ان کا وضو ٹوٹ گیا۔ فوراً جماعت چھوڑ کر مسجد سے نکل گئے اور جا کر وضو کیا، اگر متکبر ہو گا تو مارے شرم کے بے وضو ہی نماز پڑھا دے گا۔ کیونکہ سوچے گا کہ اب نکلوں گا تو لوگ کہیں گے کہ جناب کی ہوا نکل گئی لیکن اگر تکبر نہیں ہے تو سوچے گا کہ مسلمانوں کی نمازو کو کیسے ضائع کر دوں اور عذاب کا بارا بھی گردان پر کیسے لے لوں؟

۲۔ اور تکبر کا دوسرا بجز ہے غَمْطُ النَّاسِ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ کسی کو دیکھا تو اس کے سامنے آہا! آئیے تشریف لائیے، چائے پیجئے، ایک پیالی چائے پلائی اور جب بے چارہ چلا گیا تو کہتے ہیں کہ بدھو ہے، بے وقوف ہے، عقل نہیں ہے۔ آج کل لوگوں میں یہ عام مرض ہے۔ مخلص بندہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اخلاص ہو اور اللہ کی مخلوق کا بھی مخلص ہو۔ آپ خود سوچئے کہ جو شخص آپ کے پچوں کا مخلص نہیں ہوتا کیا آپ اسے دوست بنانے کے لیے تیار ہوں گے؟ ایک شخص باپ کی توہر وقت خدمت کر رہا ہے، اس کو شامی کباب اور بریانی کھلا رہا ہے، پیر بھی دبارہ ہے لیکن اس کے پچوں کے ساتھ مخلص نہیں، ہر ایک کے ساتھ برائی سے پیش آرہا ہے، ہر ایک کی غیبت کر رہا ہے۔ باپ ہرگز ایسے کو دوست نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ یہی ہے۔ ایک شخص خوب عبادت کرتا ہے، تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی لیکن اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے ان کی غیبت کرتا ہے، ان کو مستاتا ہے، یا کسی کو بُری نگاہ سے دیکھتا ہے اور دل میں بُرے بُرے خیال پکاتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ مخلص نہیں تو ایسے کو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنا ولی نہیں بناتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

﴿الْخَلُقُ عَيْالُ اللَّهِ فَاحْبُّ الْخَلُقَ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيْالِهِ﴾

(مشکوٰۃ المصایب، کتاب الاداب، باب الشفقة والرحمۃ علی الخلق، ص: ۳۲۵)

پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے، ان کا مخلص رہے، خیر خواہ رہے، دعا گور ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا حال بیان فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی اولیاء اللہ اپنا حال ظاہر کر دیتے ہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے، فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہے کہ میں مونموں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو تقویٰ دے دے، عافیت سے رہیں اور کافروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ایمان دے دے، اور چیزوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اے خدا جیو نیاں بھی بلوں میں آرام سے رہیں اور سمندر کی مچھلیوں کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں اور ساری کائنات کے لیے رحمت کی درخواست کرتا ہوں۔ ان کو کہتے ہیں اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات پر حرم دل ہوں اور خدا کی مخلوق کی بھلائی چاہتے ہوں، ولایت اس کا نام ہے، یہی لوگ ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا کیا درجہ ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذرہ در د عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہُمَّ وَفِقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضِي۔ تو اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ تکبر و جزء سے بنتا ہے:

ا۔ بَطَرُ الْحَقِّ حَقِّ بَاتٍ كَوْبُولَ نَهْ كَرْنَا اُور

۲۔ غَمْطُ النَّاسِ دُنْيَا کے کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا۔ الناس فرمایا المسلم نہیں فرمایا۔ اسی سے نکلتا ہے کہ کسی کا فرکو بھی حقیر مت سمجھو، اس کے لفڑ سے تو نفرت کرو اس کی ذات سے نہیں۔ معاصی سے تو نفرت کرو لیکن دوستو! عاصی سے نفرت نہ کرو، معاصی سے نفرت واجب، عاصی سے نفرت حرام، نکیر واجب تھقیر حرام، یعنی کسی بُری بات پر سمجھانا تو واجب ہے لیکن اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کے نفس میں اتنی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے کہ نصیحت کرنے والا جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے نصیحت کرے اس وقت تک اس کو نصیحت کرنا جائز نہیں۔ اگر وہ اپنے کو بُرا سمجھ کر اور دوسرے کو حقیر سمجھ کر نصیحت کر رہا ہے تو ایسی تبلیغ اس پر حرام ہے۔ جس کو نصیحت کیجیے تو پہلے یہ مراقبہ کیجئے کہ یا اللہ یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے لیکن آپ کا حکم سمجھ کر اس کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے نصیحت کر رہا ہوں۔ (علاق بکر، صفحہ: ۳۲-۳۳)

جب قیامت کے دن اللہ کی نظر میں ہماری نماز، ہمارے سجدے، ہمارا وعظ، ہماری بیرونی مریدی، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری نیکیاں پسند آ جائیں اور اللہ تعالیٰ فرمادیں کہ ہم نے قبول کیا تب خوش ہونا۔ ابھی کیا پتہ ہے کہ ان کی نظر میں ہم کیسے ہیں، کیا کوئی خبر آئی ہے؟ عشرہ مبشرہ اور صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمادیا رضی اللہ عنہم و رضوانہ نہ کہ میں ان سے راضی ہوں وہ مستثنی ہیں مگر ہم لوگوں پر تو کوئی آیت نازل

نہیں ہوئی لہذا ڈرتے رہیے، اپنی قیمت خود نہ لگائیے۔ وہ غلام نہایت بیوقوف ہے جو اپنی قیمت خود لگائے، بھائی غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے یادہ خود لگاتا ہے؟ غلام کی قیمت تو مالک لگاتا ہے۔ بس جب قیامت کے دن مالک تعالیٰ شانہ ہماری قیمت لگادیں اور فرمادیں کہ میں تم سے راضی ہوں پھر جتنا چاہو اچھلوکو دو۔ بڑے پیر صاحب شاہ عبدالقدار جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ایمان کو سلامتی سے قبر میں لے جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ فرمادے گا کہ میں تم سے خوش ہوں تب میں وہاں خوب خوشی مناؤں گا۔ ابھی تو روتے ہی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور عمل بھی کرتے رہو۔ لیکن اتنا خوف بھی نہ ہو کہ نا امید ہو کر عمل ہی چھوٹ جائے۔ خوف بس اتنا ہی مطلوب ہے کہ آدمی گناہوں سے فتح جائے، خوف اور امید کے درمیان میں ایمان ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ دیکھئے جب یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَنْتُوا وَ قُلُوبُهُمْ وَ جِلَدُهُمْ﴾

(سورة المؤمنون، آیة: ۲۰)

وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں۔ یہاں اسم موصول ما بلاعث کے لیے ہے، اسم موصول میں ابہام ہوتا ہے جس سے بلاعث مقصود ہوتی ہے یعنی صحابہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں لیکن اس سے ان کے دل میں اکڑنہیں آتی بلکہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کی کیا تفسیر ہے یعنی خوب خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں، جہاد میں مال دیتے ہیں پھر کیوں ڈرتے ہیں اہو الرَّجُلُ يَسْرِفُ وَ يَزْنِي وَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ کیا یہ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ ان لا یتَّقَبِلُ مِنْهُ مَعْلُومٌ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں۔

(تفسیر کبیر، ج: ۲، ص: ۸۰۰ اور وحی المعلانی، پ: ۱۸، ص: ۲۲۳)

دیکھئے نص قرآنی سے یہ علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ علاج فرمار ہے ہیں، قیامت تک کے لیے یہ سبق مل گیا کہ عمل کرنے کے بعد میں ڈر آنا چاہیے کہ معلوم نہیں قبول ہے یا نہیں۔

اور اگر تسبیحات سے، تہجد سے، چلے لگانے سے پیٹ میں اور بھی زیادہ تکبر کے پلے پیدا ہو جائیں تو بتاؤ یہ چلے قبول ہوں گے؟ رائے و نہذ میں اکابر تبلیغ سے بھی یہ بات سنی کہ جس عمل کے بعد اکڑا جائے تو سمجھ لو قبول نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا اخلاص ہو سکتا ہے کہ اللہ کا گھر بنایا۔ لیکن کعبہ بنانے کے بعد اکڑنہیں آتی کہ، ہم نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اپنے اخلاص پر ناز نہیں کیا کہ اب تو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ بلکہ گڑگڑا رہے ہیں زینا تَّقَبِلُ مِنَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

الْعَلِيُّمُ كَمَا خَدَاؤِرَاهِ كَرْم قَبُول فَرْمَاتِيجْنَهِ -

علامہ آلوی السید محمود بغدادی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَ فِي الْحَتَّىَارِ صِيْغَةُ التَّفْعُلِ اعْتِرَافٌ
بِالْقُصُورِ (روح المعانی، ج: ۱، ص: ۳۸۳) قبل باب تفعل سے ہے اور تفعل میں خاصیت تکلف کی ہے پس قبل
کہنا اپنے عجز و قصور کا اعتراف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے خدا ہماری تعمیر اس قابل نہیں ہے کہ آپ قبول
فرما نہیں لیکن آپ بے تکلف قبول فرمائیجئے، ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ آپ از راہ کرم، از راہ رحمت قبول فرمائیجئے۔
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيُّمُ يَعْنِي سَمِيعٌ بِدَعْوَاتِنَا وَعَلِيُّمٌ بِبَيْنَاتِنَا آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں اور
ہماری نیت سے باخبر ہیں کہ ہم نے آپ ہی کے لیے یہ تعمیر کی ہے۔

دونوں نبیوں کی یہ دعا قیامت تک کے لیے ہمارے واسطے ہدایت ہے۔ دونوں پیغمبروں کا یہ عمل
اللہ نے قرآن میں نازل کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو آگاہ فرمادیا کہ جب کبھی نیک عمل کی
 توفیق ہو جائے، چاہے حج کی توفیق ہو، عمرہ کی توفیق ہو، تلاوت کی توفیق ہو، تجدی کی توفیق ہو، روزوں کی
 توفیق ہو، جس نیک عمل کی بھی توفیق ہو جائے تو اکڑو مت، ناز نہ آئے کہ اودا! میں نے آج اتنا کر لیا، آج
میں نے اتنی تلاوت کر لی، آج میں نے اتنے نوافل پڑھ لیے۔ آج میں اللہ کا مقرب ہو گیا۔ باقی سب لوگ
تو غافل اور نافرمان ہیں اور اگر کچھ عبادت گزار ہیں بھی تو ایسے کہاں جیسا میں ہوں۔ لس جہاں یہ میں آئی تو
سمجھ لو کہ وہ بکری ہو گیا۔ وہ بھی میں میں کرتی ہے۔ یہ میں ہی تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔

لہذا یہ آیت تکبر و عجب کا علاج ہے کوئی نیک عمل ہو جائے تو اکڑو مت بلکہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا کہو جو
شخص کہہ دے گا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيُّمُ کہ سے پاک ہو جائے گا۔ جب اللہ سے
گرگڑا رہا ہے تو اب اس میں تکبر کہاں رہا۔ جس میں بڑائی ہوتی ہے وہ کہاں گرگڑانا جانتا ہے وہ تو اکڑنا
جانتا ہے، ادھر ادھر اپنی ڈینگیں ہانکتا ہے، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ آج تو ماشاء اللہ بہت سوریے آنکھ کھل
گئی۔ نوافل کے بعد رو نے کی بھی توفیق ہوئی، میری آنکھیں نہیں دیکھتے ہو کیسی لال لال سی ہو رہی ہیں۔

حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک ڈبل حاجی کے پاس ایک آدمی مہمان ہوا۔ اس حاجی نے
دو حج کیے تھے۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ ارے فلا نے! میرے مہمان کو اس صراحی سے پانی پلاو جو میں
نے دوسرے حج میں مدینہ شریف سے خریدی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس ظالم نے ایک جملہ میں دونوں
حج ضالع کر دیئے۔ ہزاروں روپیہ کا خرچہ، آنے جانے کی محنتیں، طواف اور سعی، منی اور عرفات کا ثواب،
سب ضالع ہو گئے کیونکہ اپنے عمل کا اظہار کر دیا۔

بس اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عجب و کبر سے، ریا سے اور جملہ رذائل سے ہمارے قلوب کو پاک

فرمادے۔ اور اپنی مرضیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ (علام کبر، صفحہ ۳۹-۴۲)

حدیث نمبر ۳۵

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَدَوَامَ الْعَافِيَةَ وَالشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ﴾

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں اور دوام عافیت مانگتا ہوں اور عافیت پر شکر کی توفیق مانگتا ہوں۔

ملتزم پر رحمت ہمارے ساتھ مقیم ہوئی تو مستغفرو تائب ہو گئے اور اپنے ملکوں میں آتے ہی پھر سارے گناہ شروع کر دیئے، رمضان میں تو ولی اللہ ہو گئے اور عید کا چاند لیکھتے ہی شیطان بن گئے اور تقوی کا بادہ اُتار کر پھینک دیا۔ یہ دلیل ہے کہ ہماری شامت اعمال کے سبب دوام عنایت حق ابھی ہمیں حاصل نہیں اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَدَوَامَ الْعَافِيَةَ وَالشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ﴾

اے اللہ! میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں اور دوام عافیت مانگتا ہوں اور عافیت پر شکر کی توفیق مانگتا ہوں۔ ملاعلیٰ قاری نے شرح مشکلۃ الاسمی بالمرقاۃ میں عافیت کے معنی لکھے ہیں السَّلَامَةُ فِي الدِّينِ مِنَ الْعِنَّةِ وَالسَّلَامَةُ فِي الْبَدَنِ مِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ وَالْمُحْنَةِ یعنی دین سلامت رہے گناہوں سے اور بدن سلامت رہے بُرے بُرے امراض سے اور محنت شاقہ سے۔ معلوم ہوا کہ دوام عافیت و دوام عنایت حق مطلوب ہے کہ اس سے ہی ہمارا دین اور ہماری دنیا سلامت رہ سکتی ہے اور شکر سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے اور حقیقی شکر تقویٰ ہے۔ (دری مشنی مولانا روم، صفحہ ۳۱۲-۳۱۳)

حدیث نمبر ۳۶

﴿مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ﴾

(سنن الترمذی، کتاب العلم، باب فضل طلب العلم، ج: ۲، ص: ۹۳)

ترجمہ: جو علم دین کی طلب میں گھر سے نکلا تو وہ اُس شخص کی مانند ہے جو جہاد کے لیے نکلا، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے۔

اگر علم کو دل پروری کا ذریعہ بناؤ کہ دل بن جائے، دل اللہ والا ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ علم تمہارا بہترین دوست ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے مَنْ

خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ جَوَالِدِكَ رِضاَكَ لِيَعْلَمَ كِي طَلَبُ مِنْهُ سَرَّ
نَكَلَ أَسَكَ لِيَعْلَمَ كِي اُسَ مَجَاهِدِكَا ثَوَابَ هَے جُو جَهَادَ كَي لِيَنَكَلَ هَے يَهَا تَكَ كَوَهُ گَهْرَلُوْٹَ آئَے كَيْوَنَكَهُ دِينَ كَوَ
زَنَدَهُ كَرَنَے مِنَ اور شَيْطَانَ كَوَذَلِيلَ كَرَنَے مِنَ اور نَفْسَ پَرْ مَشْقَتَ اَثَانَے مِنَ وَهُ مَجَاهِدِهِيَ كَي طَرَحَ هَے۔ اَسِي
طَرَحَ عَلَمَاءَ سَوَءَ كَي لِيَعْلَمَ كُو دِنِيَادِارِيَ، تَنَ پَرْ وَرَى او رَأَيَ عَزَّتَ وَجَاهَ كَي لِيَآلَءَ كَارِبَنَاتَے ہَیں اَحَادِيثَ
مِنْ سُخْتَ وَعِيدَيْنَ وَارِدَ ہَیں۔ حَضُورُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْشَادَ فَرَمَاتَے ہَیں:

﴿مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ
إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ﴾

(سنن الترمذى، كتاب العلم، باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا، ج: ۲، ص: ۹۳)

يعنى جواس نيت سے علم حاصل کرے کے علماء سے فخر کرے یا بے وقوف اور جاہلوں سے جھگڑے یا لوگوں کو
اس کے ذریعہ اپنی طرف متوجہ کرے تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں، مراد یہ ہے کہ علم سے اس کی غرض طلب
دنیا، شہرت و مال و جاہ وغیرہ ہوا س کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے:
﴿مَنْ تَعْلَمَ عِلْمًا مِمَّا يُنْتَغِي بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا
لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا﴾

(سنن ابی داؤد، كتاب العلم، باب فی طلب العلم لغير الله تعالى، ج: ۲، ص: ۱۵۹)

يعنى قرآن و حدیث کا جو علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا ہے اس علم کو اگر کوئی اس لیے سیکھتا ہے کہ دنیا
کا مال و ممتاز حاصل کرے تو حضور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں
پائے گا۔

اس لیے تحصیل علوم دینیہ کے لیے تصحیح نیت اور اخلاق انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں تو
علم اس کے لیے وبال ہے اور اخلاق بغیر اللہ والوں کی صحبت کے نہیں ملتا۔ بڑے سے بڑا عالم بھی اگر اللہ
والوں سے مستغفی ہو گا تو اس کا علم اس کو نفس کی قید سے آزاد نہیں کر سکتا۔ اس کے نو علم پر نفس کے
اندھیرے ہوں گے جس سے اس کا علم نہ خود اس کے لیے مفید ہو گا۔ امت کے لیے مفید ہو گا۔

(درس مشوی مولانا ناروم، صفحہ: ۳۲۳-۳۲۵)

مولانا سید سلیمان ندوی پر پہلے منطق و فلسفہ اور علوم ظاہرہ کا غلبہ تھا، اب عشقِ الہی کا غلبہ ہو گیا، علم
درجہ ثانوی ہو گیا اور مولیٰ درجہ اولیٰ ہو گیا یعنی جو علم مدرسون میں عالم منزل مولیٰ کرتا ہے پہلے اس کو کافی
سمجھتے تھے اور اللہ والوں کی صحبت سے جو درِ صحبت اور آہ و فغاں اور ان علوم پر عمل کی توفیق ملتی ہے جو ہمیں
بالغِ منزل مولیٰ کرتی ہے اس کی دل میں اہمیت نہ تھی۔ اب زاویہ نگاہ بدل گیا اور یقین آگیا کہ مولیٰ افضل

ہے علم مولیٰ سے لیکن علم مولیٰ بھی ضروری ہے ورنہ مولیٰ کا راستہ کیسے معلوم ہو گا اس لیے درس و تدریس بھی ضروری ہے، کچھ علماء ایسے ہونے چاہئیں جن کا علم زبردست ہو لیکن ان کے علم پر اللہ کی محبت غالب ہو پھر ایسا عالم نورِ علیٰ نور ہوتا ہے، جس کے علم پر اللہ کی محبت غالب ہو گئی اس کے علم میں چاشنی بڑھ جاتی ہے اور ایک عالم اُس سے سیراب ہوتا ہے۔ مدرسہ کے علوم پر اللہ کی محبت کو غالب رکھنا ہے تاکہ عالم منزل بالغ منزل ہو جائے اور یہ نعمت خانقاہوں سے، اہل دل کے سینوں سے ملتی ہے۔

اس کے بعد سید صاحب نے حضرت حکیم الامت سے بیعت کی درخواست کی لیکن واہ رے حکیم الامت۔ حضرت نے ان کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ میں بھی آپ کو بیعت نہیں کروں گا۔ آپ کی فلاں فلاں غلطی ہے جو ہمارے اکابر اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہے لہذا العلامیہ بالعلاییہ کے تحت اپنے رسالہ میں ان اغلاط سے اپنارجوع شائع کریں تو پھر آپ کو بیعت کروں گا۔ یہ سید صاحب کا بہت بڑا متحان تھا کیونکہ اتنے بڑے عالم کو اپنی علمی کوتا ہیوں کے اعلان میں جامانع ہوتی ہے لیکن سید صاحب کے چوٹ لگ چکی تھی۔ گئے اور اپنے دار المصنفین کے رسالہ المعارف میں اعلان شائع کیا اور رسالہ لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خوش ہو گئے اور فرمایا۔

از سلیمان گیر اخلاصِ عمل

اگر اخلاص سیکھنا ہے تو سید سلیمان ندوی سے سیکھو اور سید صاحب کو بیعت کر لیا۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی غیر عالم کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر اللہ کرتا ہے تو صاحب نور ہوتا ہے لیکن جب کوئی عالم سلسلہ میں داخل ہوتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے تو نورِ علیٰ نور ہو جاتا ہے، ایک علم کا نور دوسرے ذکر کا نور۔ سید صاحب نے جب اللہ اللہ کیا اور اللہ کی محبت کا مزہ ملا، نسبت عطا ہوئی اس وقت کے ان کے اشعار عجیب و غریب ہیں، فرماتے ہیں۔

نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا

ذکر میں تاثیرِ دورِ جام ہے

اور نمازِ تہجد کے بارے میں فرمایا۔

وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے

صبح سے ہی انتظارِ شام ہے

حضرت حکیم الامت سے تعلق کے بعد سید صاحب کے حالات بدل گئے اور حضرت نے خلافت

بھی عطا فرمائی اور شیخ کی محبت میں ان کے یہ اشعار بہت درد بھرے ہیں۔
 جی بھر کے دیکھ لو یہ جمالِ جہاں فروز
 پھر یہ جمالِ نور دکھایا نہ جائے گا
 چاہا خدا نے تو تری محفل کا ہر چراغ
 جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا

جس کو جو ملابہ شیخ کی غلامی ہی سے ملا ہے ورنہ عالم کے علم پر اس کے نفس کے اندر ہیرے چھائے رہتے ہیں، اپنے علم پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی اور اگر عمل ہوتا ہے تو اخلاص نہیں ہوتا، علم کی کمیت تو ہوتی ہے کیفیت نہیں ہوتا۔ حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص بغیر صحبتِ اہل اللہ کے مل ہی نہیں سکتا۔ آپ تحریر کر کے دیکھ لیں کہ غیر صحبت یافتہ عالم کے علم و عمل میں فاسیلہ ہوں گے۔ اس کے لیے شہرت و جاہ اور تن پروری کا ذریعہ ہوتا ہے۔ (درسِ مشنوی مولانا ردم صفحہ: ۳۲۰-۳۲۲)

حدیث نمبر ۳

﴿ثُلَّتْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوةَ الْإِيمَان﴾

(صحیح البخاری، کتابُ الإیمان، باب من کرہ ان یعود فی الکفر، ج: ۱، ص: ۸)

ترجمہ: تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔

بخاری شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے سب ایمان کی حلاوت پالے گا۔ ان تین باتوں میں ایک یہ ہے:
 ۱) مَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبِّهِ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جو شخص کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے اس کو حلاوتِ ایمانی عطا ہوگی اور حضرت مالکی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

﴿وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوةَ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى بَشَارَةٍ﴾

حسنُ الخاتمة

(مرقة المفاتیح، کتابُ الإیمان، ج: ۱، ص: ۷۲)

اور وارد ہے کہ حلاوتِ ایمان جس قلب میں داخل ہوتی ہے پھر کبھی اس قلب سے نہیں نکلتی اور اس میں اشارہ ہے حسنِ خاتمه کی بشارت کا۔ کیونکہ جب ایمان دل سے کبھی نہیں نکلے گا تو خاتمه ایمان پر ہو گا اور حسنِ خاتمه جنت کی ضمانت ہے۔

اب آگر کوئی اشکال کرے کہ اس حدیث میں حسن خاتمه اور دخول جنت کی بشارت ہے لیکن اہل اللہ کی رفاقت و معیت فی الجنة کا توثیق نہیں تو بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جو آدمی کسی قوم سے (یعنی علماء و صلحاء) سے محبت رکھتا ہے لیکن اعمالِ نافلہ اور مجاہداتِ شاقہ میں ان کا ساتھ نہ دے سکا تو سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ﴾

(صحیح البخاری، کتابُ الأدب، باب علامه حب الله عزوجل، ج: ۲، ص: ۹۱۱)

آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ملاعی قاری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

﴿أَيُّ يَحْشُرُ مَعَ مَحْبُوبِهِ وَيَكُونُ رَفِيقًا لِمَطْلُوبِهِ قَالَ تَعَالَى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّلِحِينَ﴾

(مرقاۃ المفاتیح، کتابُ الأدب، باب الحب فی الله من الله، ج: ۸، ص: ۷۰)

یعنی محبت کی عظیم الشان کرامت ہے کہ اس محبت کی برکت سے اس محب کا حشر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور اسی کا رفیق ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہیں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوی نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ اولاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں لیکن آخرت میں آپ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اعلیٰ درجہ میں ہوں گے اور ہم جنت میں ادنیٰ درجہ میں ہوں گے تو آپ کو کیسے پائیں گے اور کیسے آپ کا دیدار کریں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر روح المعانی، پ: ۵، ص: ۲۵)

اور تفسیر خازن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے تیاری تو کچھ نہیں کی الا اینی احباب اللہ و رَسُولُهُ مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسی خوشی کبھی نہیں ہوئی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی۔

تفسرین و محدثین نے ان آیات و احادیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ معیت سے مراد یہ نہیں کہ سب ایک درجہ میں جمع ہو جائیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات و دیدار ہر وقت ممکن ہو گا۔ اعلیٰ درجہ والے جنتی ادنیٰ درجہ والے جنتیوں کے پاس آسکیں گے اور ادنیٰ درجہ والے اعلیٰ درجہ والوں کے پاس جاسکیں گے۔

میرے بزرگوں کی کرامت اور ان کی جو تیوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں اور جنت میں دخول اولیں ہم سب کو نصیب فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب کو ولی اللہ بنادے اور اپنے دوستوں کی صورت بھی دے دے اور دوستوں کی سیرت بھی دے دے اور اپنے اولیاء کے اخلاق بھی عطا فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمادے۔ اے اللہ ایسا ایمان و یقین عطا فرما کر زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض کر کے حرام لذتوں کو اپورث نہ کریں اسیت ادنه کریں وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ۔
(درس مشنوی مولانا رود، صفحہ: ۳۶۲-۳۶۸)

حدیث نمبر ۳۸

﴿اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الذکر بعد الصلوة، ج: ۱، ص: ۷۱)

ترجمہ: اے اللہ! جو چیز آپ عنایت فرمائیں اسے کوئی روک نہیں کر سکتا اور جس چیز کو آپ روک دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔

اے اللہ! صرف آپ کی ذات ہے کہ کوئی چیز آپ کی عطا میں مانع نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ عزیز ہیں، زبردست طاقت والے ہیں، اور عزیز کے معنی ہیں الْفَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُعْجَزُ شَيْءٌ فِي اسْتِعْمَالِ قُدْرَتِهِ یعنی جو ہر چیز پر قادر ہو اور اپنی قدرت کے استعمال میں کوئی چیز اس کو عاجز نہ کر سکے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ یہ لاغی جنس کا ہے کہ اے اللہ جنس کی کوئی نوع یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ عطا فرمانا چاہیں اور وہ اس میں مانع ہو جائے اور جس کو آپ اپنی عطا سے محروم کریں تو کوئی عطا کرنے والا اس کو عطا نہیں کر سکتا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مجھلی نے نگل لیا تو وہ تین اندر ہیروں میں تھے، رات کا اندر ہیرا، مجھلی کے پیٹ کا اندر ہیرا اور دریا کی تہہ کا اندر ہیرا اور وَ هُوَ كَظِيمٌ وَ هُوَ حَسْطٌ رہے تھے۔ وہاں کون تھا جو آپ کے پیغمبر کو اس امتحان سے نجات دیتا لیکن آپ کی عطا میں کوئی چیز مانع نہ ہوئی اور دریا کی تہہ میں آپ نے نگریزوں سے پڑھوادیا:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

(سورة الانبياء، آية: ۸۷)

اور اشارہ دے دیا کہ یہ پڑھ لو تو نجات پا جاؤ گے۔ اور سُبْحَنَكَ میں یہ علم پوشیدہ ہے کہ اس وقت بھی جبکہ مچھلی نے نگل لیا ہے آپ اس وقت بھی پاک ہیں ہر ظلم سے، آپ ظالم نہیں ہیں، میں ہی ظالم ہوں تو آپ ایسے باعطا ہیں اور باوفا کیسے کہ اپنے پیاروں اور فاداروں کی سات پشت بلکہ دس پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں:

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا﴾

(سورة الکھف، آیہ: ۸۲)

اور وہ دیوار جس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا گرہی تھی آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے اس کو بنوادیا تاکہ ظالم بادشاہ اس خزانہ کو نہ چھین سکے اور اس عطا اور کرم کی وجہ آپ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وَ كَانَ أَبُو هُمَّا صَالِحًا كَانَ دُونُوْنَ بَچوْنَ كَابَابَ هَمَارَا فَادَارَ اور پیارا تھا اور یہ باب کون تھا؟ روایت میں ہے کہ كَانَ الْأَبُوْ السَّابِعُ وَ فِي رِوَايَةٍ كَانَ الْأَبُوْ الْعَاشِرُ یہ ساتواں باب تھا اور ایک روایت میں ہے کہ دسوال باب تھا۔ آہ! آپ کیسے باوفا ہیں کہ جو آپ کا ہو جاتا ہے آپ اس کی دس پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے میدانِ محشر میں بھی اور پل صراط پر بھی اللہ ہی ساتھ دے گا ہمارا مالک دونوں جہان کا مالک ہے اور دونوں جہان میں صرف وہی باوفا ہے۔

اور دنیا کے باعطا بادشاہ اگر مجرموں کو معاف بھی کرتے ہیں تو عدالت عالیہ میں اس کا سابقہ ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں تاکہ اگر آئندہ کبھی وہ پھر بے وفائی کرے تو اس کا سابقہ ریکارڈ فرد جرم عائد کرنے میں ثبوت فراہم کرے لیکن اے اللہ آپ ایسے باعطا ہیں کہ جس کو معاف کرتے ہیں اس کا سارا ریکارڈ ضائع کر دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ قیامت کے دن رسوانہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

﴿إِذَا تَابَ الْعَبْدُ أَنْسَى اللَّهُ الْحَفَظَةَ ذُنُوبَهُ وَ أَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَ مَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّىٰ

يَلْقَى اللَّهَ وَ لَا يَسِّ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنْبٍ﴾

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الدعوات، ج: ۵، ص: ۹)

جب بندہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کراماً کا تبین سے اس کے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے جوارج یعنی اعضاء جسم جو اس کے خلاف گواہی دیتے ان کو بھی بھلا دیتے ہیں اور جس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا (اور وہ زمین اس کے خلاف گواہ ہوتی) اس زمین سے بھی اس کے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیتے ہیں یہاں تک

کہ قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہوں پر کوئی شہادت دینے والا نہ ہو گا۔
(فغان روی، صفحہ: ۱۰-۶)

ہمارے گناہوں کے آثار و نشانات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نہیں مٹائیں گے خود مٹائیں گے اور فرشتوں کو بھلا دیں گے۔ اُنسَى اللَّهُ کا لفظ ہے کہ میں بھلا دوں گا تاکہ فرشتوں کا احسان میرے غلاموں پر نہ رہے اور وہ میرے بندوں پر یہ احسان نہ جتا۔ میں کتم تو نالائق تھے، ہم نے تمہارے گناہوں کو مٹایا تھا۔ دیکھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بندہ پروری! اسی موقع پر خواجہ صاحب کا یہ شعر ہے۔

مجھ سے طغیانی و فتن و سرکشی

تجھ سے بندہ پروری ہوتی رہی

آپ تو بندہ پروری فرماتے رہے اور ہم اپنی نالائقیوں سے باز نہ آئے۔ توبہ کی برکت سے فرشتوں کی گواہی مٹانے کے بعد اعضاء کی گواہی کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں یعنی جن اعضاء سے گناہ ہوا تھا ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو خوکر دیتا ہے اور جس زمین پر گناہ ہوئے تھے اس کے نشانات کو بھی اللہ مٹا دیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہ ہو گا۔

آہ! جس سانس میں ہم اللہ کو راضی کر کے دامنِ جنت حاصل کر سکتے تھے اس کو ہم نے دنیا کی عارضی لذتوں میں ضائع کر دیا اور موت کے وقت وہ مہلت ختم ہو گئی:

﴿وَلَنْ يُؤْخَرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَهُ أَجَلُهَا﴾

(سورہ المنافقون، آیہ: ۱۱)

اور اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کی میعاد عمر ختم ہونے پر آجائی ہے۔ اس وقت اس زندگی کی ایک سانس کی قیمت معلوم ہو گی کہ اگر بادشاہ اپنی ساری سلطنت حضرت عزرا میل علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دے کہ مجھے ایک لمحہ کی مہلت دے دو تو اس کے لئے کہ کہ کے اللہ کو راضی کرلوں تو مہلت نہ ملے گی۔ یہ ایسی تقیٰتی زندگی ہے۔ پس اے اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم آپ کو یاد کر کے اور آپ کو راضی کر کے اور مہلتِ حیات سے پورا پورا فائدہ اٹھا کر ابدی کامیابی حاصل کر لیں۔ (فغان روی، صفحہ: ۱۰-۶)

حدیث نمبر ۳۹

﴿يَا حَسْنَى يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغْيِثُ أَصْلِحْ لِي شَانِى كُلَّهُ وَلَا تَكْلِنِى إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ﴾

(الستن الكبيری للنسائی، کتاب عمل الیوم والملیلة، باب ما يقول اذا امسى، ج: ۲، ص: ۱۲۷)

ترجمہ: اے زندہ حقیقی! اے قائم رکھنے والے! آپ کی رحمت سے میں فریاد کرتا ہوں کہ میرے تمام احوال کی اصلاح فرمادیجئے اور ایک پلک جھکنے کو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے۔

جب دشمن ستاتا ہے تو مظلوم سرکار کی عدالت عالیہ میں استغاثہ دائر کرتا ہے اور وہ معی کہلاتا ہے

اور جس کے خلاف استغاثہ دائر ہوتا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں اور فریاد کے مضمون کو استغاثہ کہتے ہیں۔ اس دعا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دیا کہ جب تمہیں کوئی ستائے خواہ وہ تمہارا داخلی دشمن نفس ہو یا خارجی دشمن، شیطان ہو یا انسان ہو تو تم حی و قیوم کی سرکار عالیہ میں اپنا استغاثہ و فریاد داخل کر دو کیونکہ یہ وہ سرکار عالیہ ہے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں، حق تعالیٰ کی ذات حی ہے ائی اَزْلًا أَبَدًا وَ حَيَاةُ كُلِّ شَيْءٍ بِهِ مُوَبَّدًا یعنی اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسی سے ہر شے کی حیات قائم ہے اور اللہ قیوم بھی ہے یعنی قَائِمٌ بِذَاتِهِ وَ يُقَوْمُ غَيْرُهُ بِقُدرَتِهِ الْفَاهِرَةُ یعنی جو اپنی ذات سے قائم ہے اور دوسروں کو اپنی صفت قیومیت سے سنبھالے ہوئے ہے۔ یعنی ہیں حی و قیوم کے۔

اور جس عدالت میں یہ استغاثہ دائر کیا جا رہا ہے وہ حق تعالیٰ کی رحمت کی عدالت ہے بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْفِيُ ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ کمربیڈ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ! میں آپ کی رحمت کی عدالت میں اپنی فریاد داخل کرتا ہوں۔

اور مضمون استغاثہ ہے اَصْلِحْ لِي شَانِيْ كُلَّهُ وَ لَا تَكْلِنْيِ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنِ جس میں فریاد کا ایک مثبت اور ایک منفی مضمون ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر حالت کی اصلاح کی مثبت فریاد ہے اور نقص کے حوالہ نہ کرنے کی منفی فریاد ہے اور دینی عدالتوں میں جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو مضمون استغاثۃ طویل ہو جاتا ہے اور پھر بھی کثرت الفاظ میں مفہوم قلیل ہوتا ہے لیکن کلام نبوت کا اعجاز ہے کہ دو محضر جملوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں جہان کی حاجتیں پیش فرمادیں کیونکہ آپ جو امعن لکھم یعنی کلماتِ جامعہ سے نوازے گئے تھے۔ جو امعن لکھم کے معنی ہیں کہ قلیل الفاظ میں کثیر معانی پہاڑ ہوتے ہیں۔

فریاد کا مثبت مضمون اَصْلِحْ لِي شَانِيْ كُلَّهُ ہے یعنی میری ہر حالت کو درست فرمادیجئے خواہ وہ حالت دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ مثلاً اگر کوئی دشمن ستارہ ہا ہے تو اس کی ایذا رسائیوں سے نجات دے دیجئے، کوئی جسمانی خطرناک مرض پیدا ہو رہا ہے تو اس کو شفاء عطا فرمادیجئے۔ اسی طرح آخرت کے کاموں میں غفلت ہو رہی ہو، نماز روزہ میں سستی ہو رہی ہو تو اس کو درست فرمادیجئے، کسی گناہ کی عادت ہو تو اس سے تو بہ کی توفیق دے دیجئے اور تقویٰ کی دولت عطا فرمادیجئے یعنی جسمانی صحت بھی عطا فرمائیے اور روحانی صحت بھی عطا فرمائیے اور بگڑی کو بنادیجئے اور اپنے نام کی لذت اور عبادت کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمادیجئے اور کله تاکید ہے یعنی ہماری کوئی حالت ایسی نہ رہنے پائے جس پر آپ اپنی نگاہ کرم نہ ڈالیں اور ہماری بگڑی کو نہ بنادیں۔ لب دنیا کی ہر حالت کی درستگی کی اور آخرت کی ہر حالت کی درستگی کی فریاد اَصْلِحْ

لی شانی کلہ کے اس مختصر سے جملہ میں ہے۔ کلامِ نبوت کی جامیعت کا یہ اعجاز ہے۔ اور استغاشہ کا منفی مضمون والا تکلینی الی نفیسی طرفہ عین ہے اور جس کے خلاف یہ استغاشہ دائر کیا جا رہا ہے وہ مدعای علیہ کون ہے؟ یعنی وہ کون دشمن ہے جس کے خلاف رحمتِ الہیہ کی عدالت میں یہ فریادِ داخل کی جا رہی ہے؟ وہ نفس ہے جس کا ذکر استغاشہ میں سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے گے اور جس کے خلاف یہ استغاشہ کے سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے اور یا تنا بڑا دشمن ہے کہ پلک جھپٹنے میں وار کر کے آدمی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دیکھئے کتنا ہی بڑا دشمن ہو، حملہ کے لیے پہلے کچھ اسلج سنبھالے گا، کچھ خود سنبھلے گا، وار کے لیے کچھ نشانہ لگائے گا، پلک جھکتے ہی وار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صرف نفس دشمن ہے جو پلک جھپٹنے میں انسان کو ہلاک کر سکتا ہے، پلک جھپٹی اور قصدًا کفر کا عقیدہ دل میں ڈال دیا اور اسی وقت کافر بنادیا، پلک جھپٹنے میں کسی گناہ کا ارادہ دل میں ڈال دیا اور گناہ میں مبتلا کر کے فاسق بنادیا۔ اسی لیے سروِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُمت کو سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ پلک جھپٹنے ہھر کو مجھے میرے نفس دشمن کے حوالے نہ کیجئے کیونکہ میرا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ أَعْدَى عَدُوِّكَ فِي جَنِينِكَ﴾

تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے اور اس سے مراد نفس ہے جو پہلو میں چھپا بیٹھا ہے اور گھر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان تو باہر کا دشمن ہے، وہ تو ایک بار و سو سو ڈال کر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کے پیچھے لگا رہے لیکن نفس توہر وقت پہلو میں ہے لہذا بار بار گناہ کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیطانی و سوسے اور نفسانی و سوسے میں یہی فرق ہے کہ اگر ایک بار گناہ کا تقاضا ہوا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور جب بار بار گناہ کا تقاضا ہو تو ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ نفس کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے نفس کی حقیقت بتادی کہ:

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّهُ﴾

(سورہ یوسف، آیہ: ۵۳)

یعنی نفس کثیر الامر بالسوء ہے، بہت زیادہ برائی پر اکسانے والا ہے لہذا نفس کے شر سے کون نج سکتا ہے؟ جس پر حق تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو۔ علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ یہ ما ظرفی زمانیہ مصدر یہ ہے جس کا ترجمہ ہو گا ایسی فی وَقْتِ رَحْمَةِ رَبِّیْ کہ جس وقت میرے رب کی رحمت کا سایہ ہو گا تب نفس کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

اگر آپ کی رحمت کا سایہ اس نفس پر پڑ گیا تو یہ کرگس بھی پھر بازِ شاہی اور بازِ سلطانی کا کردار ادا کر سکتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز واشک بارہو سکتا ہے۔ میرے قلب و جاں آپ سے اس درجہ چک سکتے ہیں کہ ساری کائنات مجھے آپ سے ایک بال کے برابر جدا نہیں کر سکتی لہذا آپ ہمیشہ اور ہر لمحے

مجھے اپنی رحمت کے سامنے میں رکھیے، ایک لمحہ کے لیے مجھ کو میرے لشک کے سپرد نہ کجھے ورنہ خوف ہے کہ یہ راہ طاعت و سعادت کو چھوڑ کر راہِ شقاوت اختیار کر لے کیونکہ معصیت شقاوت کی راہ ہے اور ترکِ معصیت نزولِ رحمت کی دلیل ہے۔ اسی لیے ہمیں حدیث پاک میں یہ دعا بھی سکھائی گئی:

﴿اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ﴾

اے اللہ! ہم پروہ رحمت نازل فرمادے جس سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو اور اپنی نافرمانی سے ہمیں شقی اور بد بخت نہ ہونے دیجھے وَ لَا تَكْلِنْيُ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةً عَيْنٍ اور ہمیں ایک پل کے لیے ہمارے نفس کے حوالہ نہ کبھی۔ (فناں روی، صفحہ: ۱۸-۱۳)

حدیث نمبر ۴۰

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَالنَّارِ﴾

(تفسیر الباب لابن عادل)

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾

(سورة طہ، آیہ: ۱۲۳)

جو مجھے بھول جاتا ہے اس کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لو تو جس طرح وہ ترپتی ہے اسی طرح ہماری روح آپ سے دور ہو کر ترپتی رہتی ہے کیونکہ آپ سے دوری کا عذاب کس دوزخ سے کم ہے اور آپ کی خوشی کس جنت سے کم ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی خوشی اور رضا کو جنت پر مقدم فرمایا اور آپ کی ناراضگی کو جہنم پر مقدم فرمایا:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَالنَّارِ﴾

(تفسیر الباب لابن عادل)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہِ کبریا میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کی رضا و خوشی کو طلب کرتا ہوں اور جنت کو درجہ ثانوی میں طلب کرتا ہوں اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور دوزخ سے درجہ ثانوی میں پناہ چاہتا ہوں۔ **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ** سے معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کی محبت، اللہ کی رضا ہے، ذاتِ حق ہے، جنت کی نعمت اور جنت کی لذات درجہ ثانوی میں ہیں۔ جنت تو معاوضہ ہے، بدله ہے جو دراصل عطا ہے لیکن بصورت جزا ہے لیکن جنت اللہ کی ذات نہیں ہے، غیر ذات ہے، رضاۓ کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے رِضا ک سے مراد ہے کہ اے اللہ آپ ہم سے

خوش ہو جائیے یہ ہمارے لیے جنت سے عزیز تر ہے، آپ کی خوشی کے مقابلہ میں جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے جانِ عاشقِ نبوت جنت کو مقدم نہیں کر رہی ہے، آپ کی رضا اور آپ کی خوشی کو مقدم کر رہی ہے۔ جان پاک نبوت کا یہ اسلوب کلام خود دلیل ہے کہ نبی اللہ کا کتنا بڑا عاشق ہوتا ہے کہ جنت سے پہلے آپ کی رضامانگ رہا ہے اور رضا کے بعد وَالْجَنَّةَ میں واو عاطفہ داخل فرمایا اور سارے علماء نبوکا اس پر اجماع ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت لازم ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کی رضا کی جو لذت ہے وہ اور ہی کچھ ہے اور جنت کی لذت کچھ اور ہے۔ اللہ کی ذات کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے نام کا مزہ اور ہے اور جنت کا مزہ اور ہے۔ جنت مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے الہذا لذت مخلوق، خالق کی لذت کو کہاں پاسکتی ہے۔ اسی لیے میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتے تھے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا تو اہل جنت اتنا مزہ پائیں گے کہ اس وقت جنت ان کو یاد بھی نہ آئے گی کہ کہاں جنت ہے، کہاں حوریں ہیں اور کہاں نماء جنت ہیں۔

صحنِ چن کو اپنی بہاروں پر ناز تھا

وہ آگئے تو ساری بہاروں پر چھا گئے

ترے جلوؤں کے آگے ہمتِ شرح و بیان رکھ دی

زبانِ بے نگہ رکھ دی نگاہ بے زبان رکھ دی

اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سامنے اہل جنت کا ہوش نہ رہے گا۔

وہ سامنے ہیں نظامِ حواسِ برہم ہے

نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے

جب اللہ کے مقابلہ میں جنت اور لذاتِ جنت کی کوئی حقیقت نہیں تو دنیا کیا یقینی ہے کیونکہ دنیا کی لذتوں کی شراب نہ ازی ہے نہ ابدی ہے یعنی دنیا پہلے نہیں تھی پھر اللہ نے پیدا کیا اور قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے فنا کر دی جائے گی۔ تو دنیا کی شراب غیر ازی غیر ابدی اور جنت کی شراب ابدی غیر ازی ہے یعنی جنت ابدی تو ہے لیکن از لی نہیں ہے، یعنی پہلے نہیں تھی پھر پیدا کر دی گئی اور کبھی فنا نہیں ہو گی لیکن ہمیشہ سے نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات از لی ابدی ہے یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جنت کی شراب اللہ کی خاص ذات کو، اللہ کے نام کی لذت کو، اللہ کی محبت کے مزہ کو کہاں پاسکتی ہے کیونکہ جنت ابدی سبھی لیکن شانِ از لیت اور لذتِ از لیت سے محروم ہے۔ اور جب اعلیٰ قسم کی چیز منہ کو لوگ جاتی ہے تو ادنیٰ منہ کو نہیں لگتی۔ تو اولیاء اللہ جو اللہ کے نام کی لذت کو پا گئے، اللہ کی محبت کا مزہ جن کے منہ کو لوگ گیا، جن پر اللہ کی محبت چھا گئی

تو دنیا کی لذتوں کی شراب ان کے منہ کو کیا گے کی جبکہ جنت بھی ان کو ثانوی درجہ میں ہو جاتی ہے لیکن جنت کو مانگتے ہیں کیونکہ محل دیدارِ الہی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کے سوال کا حکم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

(سورة المطففين، آیہ: ۲۶)

تم لوگ ہماری نعمتوں پر لج کرو۔ پس جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر ہمیں لج کرنے کا حکم دیں تو وہ ظالم ہے جو قناعت کرے۔

چوں طمع خواہد ز من سلطان دیں
خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب وہ سلطان دیں، ہم سے طمع چاہے تو قناعت کے سر پر خاک ڈالو۔

تو جس طرح اللہ کی رضا جنت سے بڑھ کر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نارِ نصکی دوزخ سے بڑھ کر ہے جس کی دلیل اس حدیث پاک کا دوسرا جز ہے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَالنَّارِ سَرُورِ عَالَمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی نارِ نصکی سے پناہ مانگی اور دوزخ سے پناہ کو مُؤخر فرمایا۔ یہاں بھی واو عطف کا ہے اور معطوف علیہ و معطوف میں مغایرت کو لازم کرتا ہے یعنی آپ کی نارِ نصکی اور جہنم کی عقوبت برابر نہیں ہو سکتی، آپ کا ناراض ہو جانا عذاب جہنم سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَصْدَّعَنِي وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

(المعجم الكبير للطرانی)

اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیں۔ دیکھو! اگر باپ یا استاد یا شیخ اپنا چہرہ نارِ نصکی سے پھیر لے تو لاائق بیٹا اور لاائق شاگرد اور لاائق مرید پر کیا گذر جائے گی۔ پیائی کے ڈنڈے سے زیادہ اس پر اپنے باپ یا شیخ کی نارِ نصکی شاق ہوتی ہے۔ اسی لیے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نارِ نصکی کو دوزخ پر مقدم فرمایا کہ عذاب دوزخ کا سبب تو ان کی نارِ نصکی ہی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کفار کو اپنی رویت سے محروم کرنے کو موقع سزا میں بیان فرمایا جو حق تعالیٰ کی شانِ محبوبیت کی عظمی الشان دلیل ہے:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمْحُجُوبُونَ﴾

(سورة المطففين، آیہ: ۱۵)

ہرگز نہیں یہ (کفار) قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ بطور سزا کے محبوبی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی شانِ محبوبیت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ دنیا میں کسی سلطان وقت نے کسی مجرم کو یہ سزا نہیں سنائی کہ ہم تجھے اپنے دیدار سے محروم کرتے ہیں کیونکہ دنیوی بادشاہ حاکمِ محض ہوتے ہیں محبوب نہیں ہوتے۔ ان کے مجرمین تو صرف سزا سے پچنا چاہتے ہیں، بادشاہوں کے دیدار کے حریص نہیں ہوتے لیکن موقع سزا میں حق تعالیٰ کے اس اعلان سے ثابت ہوا کہ ان کے دیدار سے محرومی کافروں کے لیے خدا یک عذاب ہوگی اور کفار سخت ضيق اور گھٹن میں ہوں گے۔

معلوم ہوا کہ اللہ سے دوری اور ان کی ناراضگی دوزخ سے بڑھ کر ہے کیونکہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسی کو دوزخ میں ڈالے گا اور دوزخ کا حاصل اللہ تعالیٰ سے جدا ہی ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سے جدا ہو جاتا ہے اور دوزخ میں دوزخیوں کا جو حال ہو گا کہ لا یَمُوْثُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي نہ مرے گا نہ جئے گا، موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہو گا اسی طرح گنجہ گار کی زندگی اللہ تعالیٰ کی دوری کے عذاب سے دنیا ہی میں تلن ہو جاتی ہے۔ (فغان روی، صفحہ: ۵۲-۵۸)

حدیث نمبر ۳۴

﴿اللَّهُمَّ وَاقِيْةَ كَوَافِيْهِ الْوَلِيْدِ﴾

(کنز العمال)

ترجمہ: آپ ہماری ایسی حفاظت کیجیے جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔

اگر آپ نے ہمیں ہمارے نفس کے حوالہ کر دیا تو ہم ایسے نالائق ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیں گے لہذا آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے اور ہمیں اپنی نافرمانی نہ کرنے دیجئے کیونکہ ہمارا ہاتھ تو گندگی میں جاتا ہے، گندے گندے کاموں کی طرف بڑھتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی اماں سے کہہ دے کہ اے اماں! میں نادان ہوں، میری توفیرت ہی خراب ہے، میرے اندر بھلے بُرے کی بھی تمیز نہیں۔ پس اگر میں پیش اب پا خانے میں ہاتھ ڈالوں تو قبل اس کے کوہ گندگی میں ملوث ہو اس وقت آپ میرا ہاتھ پکڑ لیا کیجئے تو اے خدا! اس وقت ماں اس کی کیسی حفاظت کرے گی۔ اے اللہ! آپ تو ماں کی محبت اور ماں تک خالق ہیں۔

مادران را مہر من آمُوختم

ماں کو محبت کرنا تو آپ ہی نے سکھایا ہلہا ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ وَاقِيْةَ كَوَافِيْهِ الْوَلِيْدِ﴾

(کنز العمال)

کہ آپ ہماری ایسی حفاظت کیجئے جیسے ماں اپنے بچوں کی کرتی ہے کیونکہ اے خدامون کے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ذلیل ترین کام نہیں کہ وہ آپ کی نافرمانی کر کے اپنے قلب اور قلب کو ناپاک کر لے اور آپ سے دور ہو جائے لہذا اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالہ نہ کیجئے اور اپنی خاص مدد شامل حال کر کے نفس کے ہاتھوں سے ہمیں چھڑا لیجئے۔

پرده را بردار و پرده ما مر

ہمارے اندر گناہوں کے جو تقاضے اور گناہوں کا جو خبیث ذوق ہے۔ اس پر اپنی رحمت اور ستاری کے پرده کو قائم رکھئے، اس پرده کو اٹھنے نہ کیجئے، اپنی ستاری اور پرده پوشی کا پرده نہ پھاڑیے یعنی ہمارے عیوبوں کو ظاہرنہ کیجئے ورنہ ہم ذلیل رسوا ہو جائیں گے کیونکہ اے اللہ گناہوں پر مسلسل اصرار کی وجہ سے آپ جس سے انتقام لیتے ہیں تو اس کا پرده ستاریت پھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ سارے عالم میں رسوا ہو جاتا ہے لہذا۔

اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن

گر بد م من سر من پیدا مکن

اے اللہ! اپنے اس بندہ کو رسوانہ کیجئے۔ اگرچہ میں انتہائی نالائق ہوں لیکن میری نالائقیوں اور میرے عیوبوں کو اپنے بندوں پر ظاہرنہ کیجئے۔ (فناں روی، صفحہ: ۸۲-۸۳)

حدیث نمبر ۳۲

﴿إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الانبیاء، باب حدیث الغار، ج: ۱، ص: ۵۹۵)

ترجمہ: جب تجھ سے حیا ختم ہو گئی تو پھر جو چاہے کر۔

نعود باللہ کیا شریعت یہ اجازت دے رہی ہے کہ شرم کو ختم کر کے جو چاہو کرو۔ نہیں! یہ صورتاً امر ہے حقیقتاً خبر ہے کہ اگر تجھ سے حیا جاتی رہی تو پھر تو ہر گناہ کرے گا کیونکہ ہر گناہ کا سبب بے حیائی ہے، اگر بدنظری کر رہا ہے تو اس کا سبب بے حیائی ہے، زنا کر رہا ہے تو نہایت درجہ کا بے حیا ہے کہ دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے جو اپنی ماں بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتا اور اس کو پرواہ نہیں کہ اللہ نے اگر مخلوق پر ظاہر کر دیا تو کس قدر رسوانی ہو گی۔ اس کے علاوہ خدا کے حکم کو توڑنا خوب بے حیائی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بے حیا ہے۔ حیا والا آدمی سوچے گا کہ اگر کبھی میرا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا۔ غرض ہر گناہ کی جڑ میں بے حیائی پوشیدہ ہے۔ گناہ بغیر بے حیائی و بے غیرتی کے ہو ہی نہیں سکتا۔ پس جس کی زندگی کی ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود و مراد ہو کہ ایک لمحہ بھی اس کا اللہ سے غافل نہ ہو تو ایسا شخص چاہے مسجد میں ہو، چاہے دکان میں سودا بیچ رہا ہو، چاہے بیوی بچوں سے با تیں کر رہا

ہو یاد و ستوں سے خوش طبعی کر رہا ہو یہ ہر وقت باغِ قرب میں ہے اور اللہ کا راستہ اس کے لیے گویا پھولوں کے جھرمٹ اور درختوں کے سائے میں نہایت سکون و عافیت سے گذر جائے گا اور بہت مزے میں یہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ اے اللہ! صرف آپ ہی ہمارا مقصد، ہمارا مقصود، ہماری مراد، ہماری آرزوں اور تمناؤں کا مرکز بن جائیں تاکہ آپ کا راستہ ہم پر نہایت آسان اور انہیلی لذیذ ہو جائے۔ شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور نفس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ أَعْدَى عَدُوِّكَ فِي جَنِينِكَ﴾

تیراس سے بڑا دشمن تو تیرے پہلو میں ہے۔ اور نفس و شیطان دونوں بھی مراد یہی جاسکتے ہیں لیکن شیطان کا یہاں مراد ہونا زیادہ اقرب الی القیاس ہے کیونکہ دشمن از لی اور مردو دیاز لی ہے اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور نفس کا اگر ترکیب ہو جائے تو یہ ولی اللہ بھی ہو جاتا ہے، تو شیطان ظالم، ہم سے کتنا حسر کرتا ہے۔ پس اے خدا میں اس دشمن کے خلاف آپ سے فریاد کرتا ہوں جیسے کوئی دشمن کسی بچہ کو مار رہا ہو تو وہ بچہ اپنے ابا کو پکارتا ہے پس اے اللہ! اس دشمن شیطان اور دشمن نفس کے ستانے پر ہم آپ ہی کو پکار رہے ہیں کہ آپ سے ہماری فریاد ہے کہ اس دشمن کی پٹائی سے ہمیں بچا لیجئے۔ (غفار رومی صفحہ: ۱۲۹-۱۳۱)

حدیث نمبر ۳۳

﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الطهارة، باب فی مایقال بعد الوضوء، ج: ۱، ص: ۱۸)

ترجمہ: اے اللہ! مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنادیجئے اور بہت پاکیزہ لوگوں میں سے بنادیجئے۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے بعد کی مسنون دعا اللہُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ کی تشریح میں لکھا ہے کہ اے خدا! ہم نے وضو تو کر لیا اور اپنے ظاہری اعضا پاک کر لیکن ہمارے ہاتھوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے دل کو پاک نہیں کر سکتے، دل کا وضو تیرے ہاتھ میں ہے لہذا ہمیں توفیق توبہ بھی دے دے تاکہ ہمارا دل بھی پاک ہو جائے اور ہم پاک صاف لوگوں میں ہو جائیں۔

شریعت نے جس وقت کی جو دعا بتائی ہے اس میں ایک خاص مناسبت اور جوڑ ہے۔ دیکھئے وضو میں اور اس دعا میں کیا سماں جوڑ ہے کہ وضو کے پانی سے اپنے اعضاء بدن کو پاک کرنا تو میرے اختیار میں تھا

لیکن دل کو پاک کرنا آپ کے اختیار میں ہے لہذا توفیق تو بدے کر آپ میرے دل کو پاک فرمادیجئے تاکہ میرا باطن بھی صالح ہو جائے اور میں آپ کے نیک بندوں میں شمار ہو جاؤ۔ تو بدے دل کاوضو ہے اور تو بدے تین چیزوں کا نام ہے:

۱۔ الرُّجُوعُ مِنَ الْمُعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ گناہ چھوڑ کر عبادت میں لگ جانا۔

۲۔ الرُّجُوعُ مِنَ الْغَفْلَةِ إِلَى الدِّكْرِ غفلت کی زندگی چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے لگنا۔

۳۔ الرُّجُوعُ مِنَ الْعَيْبَةِ إِلَى الْحُضُورِ اللَّهِ سے دل ذرا ساغاتب ہو جائے تو پھر خدا کے سامنے حاضر کر دینا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تو بہ کی تیتوں قسموں تک رسائی دے دے اور ہم کو پاک کر دے کیونکہ توفیق تو بہ آسمان سے آتی ہے۔ دلیل قرآن شریف کی یہ آیت ہے:

﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾

(سورة التوبۃ، آیہ: ۱۱۸)

کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر توجہ فرمائی تاکہ وہ تو بہ کر لیں۔ علامہ آلوتی تاب علیہم کی تفسیر فرماتے ہیں اُنی وَفَقَهُمُ لِلتَّوْبَةِ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ تو بہ کریں۔ معلوم ہوا کہ توفیق آسمان سے آتی ہے تب زمین والے تو بہ کر کے ولی اللہ بننے ہیں۔ اگر توفیق اپنے اختیار میں ہوتی تو ساری دنیا ولی اللہ ہو جاتی۔ توفیق تو بہ انعامِ الہی ہے۔ جس کو تو فیق تو بہ نہ ہو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محروم ہے۔ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو گھر میں گرا ہواد کیہ سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی بیٹا گھر میں گرا ہوا ہے اور باپ دیکھ بھی رہا ہے لیکن نہیں نکالتا تو یہ دلیل ہے کہ یہ شخص باپ کی نعمت عنایت سے محروم ہے۔ جو لوگ تو بہ میں دریکرتے ہیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محروم ہیں۔ جس پر اللہ کی توجہ، رحمت اور مہربانی ہوتی ہے ایک سیندھ بھی وہ تو بہ میں دری نہیں کرتا، وہ گناہ کی حالت میں رہتے ہوئے اطمینان سے نہیں رہتا، جلدی سے تو بہ کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، آپ کی ناخوشی کی راہوں سے میرے دل نے جو حرام خوشی امپورٹ کی میں ان حرام خوشیوں سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان انبیاء کی طرح بالکل معصوم ہو جائے۔ کبھی نہ کبھی خطا ہوگی، بشریت سے مغلوب ہو کر کبھی سالک سے بھی لغفرش ہو جائے گی اور باطن میں حرام مزہ درآمد کر لے گا لیکن جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ گناہ کو اور ہنما پچھونا نہیں بنا سکتا فوراً بے چین ہو کر تو بہ و استغفار کرے گا کہ اے خدا میرے نفس نے آپ کو ناخوش کر کے جو حرام خوشی درآمد کی ہے میں اس ملعون خوشی اور حرام خوشی سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ مجھ کو معاف کر دیجئے کیونکہ آپ کی ناخوشی کی راہوں سے میری خوشیاں نامبارک اور قابل لعنت ہیں، منہوں اور غیر شریفانہ ہیں کہ اپنے پالنے والے محسن کو ناراض

کر کے میں اپنادل خوش کر رہا ہوں۔ جو بیٹھا اپنے باپ کو ناراض کر کے خوشیاں منارہا ہو تو اس بیٹھی کی یہ خوشیاں غیر شریفانہ اور کمینہ پن کی خوشیاں ہیں لہذا اے خدا میں ان تمام خوشیوں پر نادم ہوں جن سے آپ ناراض ہوئے ہوں کیونکہ کوئی بندہ آپ کی نافرمانی میں بنتا ہوا سے بڑھ کر کوئی عذاب ہی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا عذاب آپ کی نافرمانی ہے۔ بندہ ہو کر اپنے مالک کا اور قادرِ مطلق مالک کا نافرمان ہو، اس پر جتنے جوتے پڑ جائیں کم ہیں اور جتنے عذاب اور بے چینیاں دل پر نازل ہو جائیں تھوڑی ہیں۔

(لغان روی، صفحہ: ۱۹۲-۱۹۳)

دعاء و ضوکی عاشقانہ حکمت

وضو کے بعد یہ دعا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُنَظَّهِرِينَ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے قلیم فرمائی تاکہ بندوں کا باطن اور قلب بھی پاک ہو جائے کیوں کہ تو بدل کی طہارت کا نام ہے۔ پس وضو سے ہاتھ پیر دھونا ہمارے اختیار میں تھا لیکن دل تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، دل کو دھونا ہمارے اختیار میں نہیں تو جہاں بندہ کا اختیار نہ ہو وہاں دعا کرنا عبدیت ہے کہ ما نگ لو اے خدا وضو کر لیا، ہاتھ پیر دھو لیے یعنی جسم کے اعضاء دھو لیں لیکن میرا ہاتھ میرے دل تک نہیں پہنچ سکتا آپ اپنے کرم سے میرا دل بھی دھو دیجئے کیوں کہ دل اگر پاک نہیں ہے تو ظاہری پاکی کا اعتبار نہیں ہے۔ علامہ آلوی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقِيقَةَ الطَّهَارَةِ طَهَارَةُ الْأَسْرَارِ مِنْ ذَنَسِ الْأَغْيَارِ اصل طہارت یہ ہے کہ دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے، جس کا گھر ہے وہ رہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو اللہ پاک ہے وہ پاک دل میں آتا ہے یعنی جگلی خاص سے مجھی ہوتا ہے ورنہ جسم کی پاکی تو ہندو بھی کر سکتا ہے۔ ایک ہندو دریا میں کوڈ گیا اور نہالیا تو اس کا جسم نجاست حیہ سے پاک ہو گیا، پیشتاب پاخانہ سب دھل گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے جو کسی کافر کو نصیب نہیں۔ دشمنوں اور دوستوں میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے۔ دوستوں کو امتیازی ڈش دی جاتی ہے، امتیازی نعمت دی جاتی ہے۔ اس لیے طہارة الاسرار یعنی باطن کی پاکی، غیر اللہ سے قلب کی پاکی مومن کی شان ہے لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے وضو کے بعد عاسکھانی۔

وضو کے وقت اہل اللہ کی خشیت

اکابر سے سناتے ہے کہ بعض بزرگوں پر وضو کرتے ہی خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس لیے وضو کرتے وقت گپ شپ کرنا، شور و غل کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ علامت اچھی نہیں ہے۔ وضو خانے میں آوازیں سنتا ہوں جیسے چھلی بازار۔ جب وضو شروع کرو اس وقت سے اللہ کی عظمت و

ہبیت چھرے پر آ جانی چاہیے کیونکہ اس وضو کے بعد ہم کو اپنے مولیٰ کے پاس کھڑا ہونا ہے، عظیم الشان مولیٰ کے پاس کھڑا ہونا ہے۔ خاموشی سے وضو کرو، جب شور و غل کرو گے تو وضو کی دعا کب پڑھو گے کیونکہ زبان تو مشغول ہو گئی فضولیات میں۔

وَسِعُ لِيْ فِيْ دَارِيْ كَمِعْنَى

میرے شیخ شاہ ابرا رحمت صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دورانِ وضو حدیث سے ایک ہی دعا

ثابت ہے:

﴿اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَسِعُ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ﴾

(السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم واللیلة، باب ما یقول اذا توصل، ج: ۲، ص: ۲۳)

اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرمادیجئے اور میرا گھر بڑا بنادیجئے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔

وَ وَسِعُ لِيْ فِيْ دَارِيْ یعنی گھر کو وسیع بنانے کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر بڑا گھر ہو جائے اور دوسرا یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمادیجئے کہ گناہوں سے ہمارے دل میں اندر ہیرا ہے جس کی وجہ سے سارا عالم ضائقٌ علیہمُ الارضُ بما رحبت کا مصدقہ ہے۔ گنہگار اور مجرم کو سارا عالم تنگ معلوم ہوتا ہے۔

جب سارا عالم اس کو تنگ معلوم ہوتا ہے تو اس کو اپنا گھر کیسے بڑا معلوم ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں تو میری ناراضگی تو عرش پر ہوتی ہے مگر دو علامتوں سے دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے:

(۱) ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ

پوری دنیا اس کو اندر ہیری لگتی ہے اور اتنی لمبی چوڑی زمین تنگ معلوم ہونے لگتی ہے اس کا جینا جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔

(۲) وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْفُسُهُمْ

اور وہ اپنی جان سے بیزار ہو جاتا ہے۔ (محبوب اللہ بنی کا طریقہ، صفحہ: ۲۲-۱۸)

محبوبیت عند اللہ کے دوام کا طریقہ

تو وضو کی دعا کے متعلق اللہ نے مجھے یہ علم عظیم عطا فرمایا کہ مُتَطَهِّرِينَ بَابِ تَفْعَلِ سے ہے یعنی تکلیف اٹھا کر طہارت حاصل کرو، طہارت قلبیہ بھی، دل بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، تو

اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ تم چوپیں گھنٹے اللہ کے محبوب رہو گے۔ نہیں کہ وضو کے وقت یہ دعا پڑھ لی اور نماز کے وقت تک پاک صاف رہے لیکن جب مارکیٹ گئے، کلفٹن گئے، لفنسٹن اسٹریٹ گئے تو نظر خراب کر لی اور تمہاری طہارت متناشر ہو گئی تو جب طہارت باطنی سے اور توبہ کی برکت سے محبوبیت میں جو جگہ ملی تھی جب بھی توبہ کے دائرہ سے اور طہارت کے دائرہ سے خروج اختیار کرو گے دائرة محبوبیت سے بھی تمہارا خروج ہو جائے گا، اس وقت گناہ کی حالت میں تم اللہ کے پیارے نہیں رہو گے۔ دیکھا آپ نے طہارت اور توبہ کا یحث سے کیا جوڑ لگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو محبوب رکھتے ہیں جب تک تم دائرة توبہ سے اور دائرة طہارت سے خروج اختیار نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے مضارع استعمال فرمایا جو حال اور استقبال کے لیے ہوتا ہے یعنی زندگی بھر جب تک تم توبہ کرتے رہو گے تو ہماری محبوبیت سے تمہارا خروج اور (Exit) نہیں ہو گا۔ کیونکہ ساؤ تھا افریقہ کے علماء بیٹھے ہیں ان کی مادری زبان انگریزی ہے اس لیے تھوڑا سا انگریزی لفظ بول دیتا ہوں۔ تو آپ لوگ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے پیارے رہیں یا کبھی پیارے رہیں اور کبھی غیر پیارے رہیں، یعنی کبھی اللہ کے پیارے رہیں اور کبھی اللہ کے پیارے محروم رہیں۔ تو جب پیار دائی چاہتے ہیں تو یہ دونوں صفت اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ (۱) تَوَابِينَ کی اور (۲) مُتَطَهِّرِينَ کی۔

مُتَطَهِّرِينَ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں مراد طہارت باطنی اور طہارت قلب ہے کیوں کہ اصل طہارت یہ ہے کہ غیر اللہ سے ہمارا فاصلہ رہے، کسی طرح سے بھی ہمارا قلب ایک اعشاریہ ایک ڈگری بھی اللہ سے نہ ہے۔ جہاں ہٹنے کا اثر محسوس ہونے لگے اور دیکھئے کہ کسی حسین کی طرف دل جھکا جا رہا ہے وہاں سے راہ فرا اختیار کرو۔ جب تک اس کے نارگٹ اور اس کے محاذات سے آگے نہیں بڑھو گے تمہارے قلب کا قبلہ صحیح نہیں رہے گا۔ یہ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ تَفْسِير ہے کہ غیر اللہ سے بھاگو اور غیر اللہ سے ہروہ چیز مراد ہے جس سے آپ کے قلب کا قبلہ متناشر ہوا اور ایک اعشاریہ بھی اللہ سے دور ہو۔ جو دل اللہ تعالیٰ سے ایک اعشاریہ بھی دور نہ ہو گا ایسے دل کو اپنی ذات پاک سے، اللہ تعالیٰ ایسے چٹالیں گے کہ سارا عالم اسے ایک اعشاریہ اپنی طرف مائل نہ کر سکے گا۔ بتاؤ یہ علم عظیم پیش کر رہا ہوں یا نہیں؟ جس کی قسمت میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے شخ کی باتوں کو عظمت و محبت سے سنتا ہے۔

استغفار اور توبہ کا فرق

توبہ کے متعلق ایک ضمنی سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کرو، بعض بزرگ کہتے ہیں کہ توبہ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی حکم دیئے ہیں کہ استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو۔ سوال یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ایک ہی چیز ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ بتائیے کیسا سوال ہے۔ عام مسلمان اور عام

امتی اس کو ایک ہی سمجھتا ہے لیکن یا ایک نہیں ہے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں ان شاء اللہ کوئی چیز بلا دلیل نہیں پیش کروں گا۔ اس فقیر پر اللہ پاک کا کرم ہے، میرے اوپر اللہ کے کرم کا آفتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **إسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ** اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت مانگو ثم تُوبُوا إلَيْهِ پھر تو بہ بھی کرو۔ اگر تو بہ واستغفار ایک ہی چیز ہے تو عطف کیوں داخل ہوا کیونکہ عطف کا داخل ہونا معطوف الیہ اور معطوف میں مغایرت کی دلیل ہے۔ اگر یہ ایک ہی چیز ہوتی تو عطف داخل ہی نہ ہوتا۔ علامہ آلوسی قفسی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہاں حرف عطف ثم کا نازل ہونا دلیل ہے کہ استغفار الگ چیز ہے اور تو بہ الگ چیز ہے کیونکہ عطف کا قاعدہ کلیہ ہے کہ معطوف الیہ اور معطوف میں مغایرت لازم ہے۔ جیسے ایک آدمی کہے کہ روٹی اور سالن لاو اور وہ خالی روٹی لاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ سالن کیوں نہیں لائے تو کہتا ہے کہ روٹی اور سالن ایک چیزیں ہیں تو آپ کہیں گے کہ اگر ایک چیز تھی تو روٹی کے بعد اور کیوں لگایا، یہ حرف عطف مغایرت کو لازم کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ روٹی اور سالن الگ الگ چیز ہے۔ لیجئے اردو میں بھی عربی نحو کا قاعدہ لگادیا۔

اسی طرح استغفار اور تو بہ ایک چیز نہیں ہے۔ تو استغفار اور تو بہ میں کیا فرق ہے؟ استغفار کہتے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے، خدا کے قرب سے محروم ہو گئے اور ہماری حضوری دوری میں تبدیل ہو گئی، منزل قرب سے منزل غصب میں جا پڑے تو دوری کے غم اور عذاب کی وجہ سے ندامت کے ساتھ اپنی اس نالائقی سے معافی چاہنا یہ استغفار کا مفہوم ہے کہ آگناہ کر کے ہم اپنے اللہ سے کیوں دور ہوئے، نہ ہم گناہ کرتے نہ قرب سے محروم ہوتے۔ معلوم ہوا کہ ماضی کے گناہوں پر ندامت سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے اور تو بہ کیا ہے؟ تو بہ کے معنی رجوع الی اللہ کے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ میں لکھا ہے جو مشکلاۃ کی عربی زبان میں شرح ہے گیارہ جلدوں میں کہ **تَوَابُونَ** کے معنی **رَجَاعُونَ** کے ہیں یعنی کیثر الرجوع الی اللہ جس کا ترجحہ میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ گناہ سے تم اللہ سے جتنی دور ہو گئے تھے پھر اپنے اللہ کے پاس واپس آ جاؤ، اپنے مرکز اور مستقر سے بھاگ گئے تھے پھر منزل جانان پر آ جاؤ، منزل محبوب پر آ جاؤ، پھر منزل مولیٰ پر آ جاؤ، پھر اپنے قلب کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تو بہ نام ہے اللہ کے پاس واپس لوٹ آنا، گناہوں کی وجہ سے جس مقام قرب سے بندے دور ہو گئے تھے پھر اسی مقام پر واپس لوٹ آنا۔ رجوع الی اللہ کا نام تو بہ ہے کہ گناہوں سے دوری کو ندامت کے ساتھ حضوری سے بدل کر یہ عزم کرنا کامے اللہ آئندہ بھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آئندہ بھی آپ سے دور نہیں ہوں گے، آپ کے دامنِ رحمت سے چپٹ جائیں گے اور آپ کی آغوشِ رحمت میں لپٹ

جائیں گے، آپ کے قدموں میں سر کھدیں گے اور آئندہ ہمیشہ تقویٰ سے رہیں گے اور کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس کا نام توبہ ہے۔ اب فرق معلوم ہو گیا؟ استغفارِ اماضی کی تلافی کرتا ہے اور توبہ عزم علی التقویٰ سے مستقبل روشن کرتا ہے۔

لفظ تَوَّابِينَ کے نزول کی حکمت

اصطلاح میں تَوَّابِينَ کی تین فُتُمیں ہیں۔ محدثین کی شرح سے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو ابین کو محبوب رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تائین کیوں نہیں فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ جب تم کثیر الخطأ ہو تو تم کو کثیر التوبہ ہونا چاہیے، جب تمہارا بخارتیز ہے تو جیسا مرض ولی دوا۔ جب تم نے خطائیں زیادہ کی ہیں تو زیادہ توبہ کرنے میں تم کو کیا رکاوٹ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں محبوب رکھتا ہوں کثرت سے توبہ کرنے والوں کو کیونکہ جو کثیر الرجوع نہیں ہیں وہ ہماری جدائی کا احساس بھی زیادہ نہیں رکھتے، وہ ہم سے کچھ فاصلے بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے پریشانی میں ہیں اور اسی لیے جلدی توبہ بھی نہیں کرتے کہ دوچار گناہ اور کر لیں، ہر بس اسٹاپ پر گناہ کے مزے لوٹ کر جائیں، پھر شام کو گھر آ کر توبہ کر لیں گے کیوں کہ اگر ایک اسٹاپ پر توبہ کر لیں گے تو اگلے اسٹاپ پر مزہ کیسے ملے گا۔ بتاؤ یہ کس قدر رکمینہ پن ہے اور تصوف کی روح ہی نہیں ہے اس ظالم کے اندر۔ یہ حق تعالیٰ کی جدائی پر صبر کرنے والا، حرام لذت سے مزے اڑانے والا، بہت ہی نامناسب مزاج رکھنے والا غیر شریفانہ ذوق رکھتا ہے۔

ولایتِ عامہ اور ولایتِ خاصہ

اب رجوع الی اللہ کی تین فُتُمیں ہیں اور جب شانِ محبوبیت ہماری توبہ یعنی رجوع الی اللہ سے متعلق ہے تو محبوبیت کی بھی تین فُتُمیں ہو جائیں گی، اللہ کے پیاروں کی تین فُتُمیں ہو جائیں گی۔ ایک عوامی پیار، کہ اللہ ہر مومن کو پیار دیتا ہے۔ جیسے فرمایا:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾

(سورة البقرة، آیہ: ۲۵۷)

اللہ ہر ولی کو پیار کرتا ہے، ہر مومن کا ولی ہے۔ مگر یہ ولایتِ عامہ ہے۔ جو تقویٰ سے رہتے ہیں وہ خاص ولی ہیں، ان کی دوستی کا معیار بلند ہو جاتا ہے، مومن متقدی ولی خاص ہوتا ہے لیکن ہر مومن کو ولی فرمایا اگرچہ کچھ نگاہ رہو مگر میرے دائرہ دوستی سے خارج نہیں ہے، بوجہہ کلمہ اور ایمان کے کچھ نہ کچھ دوستی یعنی ولایتِ عامہ تو حاصل ہے۔ ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ میں تقویٰ شامل نہیں ہے۔ ولایتِ خاصہ تقویٰ پر موقوف ہے جس کی دلیل ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ﴾

(سورة یونس، آیہ: ۲۳)

اور فرمایا:

﴿اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

(سورہ البقرۃ، آیہ: ۲۵۷)

فرماتے ہیں میری ولایت اور دوستی کا معیار اور علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان دھروں سے نکالتا رہتا ہے فی الحال بھی اور مستقبل میں بھی خلمات جمع ہے اور نور واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دھیرے کو جمع اور نور کو مفرد کیوں نازل فرمایا اس کی وجہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں جماعت الظُّلُمَاتِ لِتَعَدُّدِ فُؤُنَ الْضَّلَالِ خلمات کو جمع نازل فرمایا کیونکہ گمراہی کی بہت قسمیں ہیں۔ کفر کی گمراہی اور ہے فسق کی گمراہی اور ہے، زنا کی اور ہے، بد نظری کی اور ہے، تکبر کی اور ہے۔ پس چونکہ گمراہی کی بے شمار طریقیں اور اقسام ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے خلمات کو جمع نازل فرمایا اور نور کو واحد نازل فرمایا لوحدۃ الحق کیونکہ حق ایک ہوتا ہے۔

جتنی تَوَابُونَ کی قسمیں ہوں گی تو بہ کی بھی اتنی ہی قسمیں ہیں اور اتنی ہی محبوبیت کی قسمیں لازمی ہو جائیں گی۔ تواب سننے تو بہ کی تین قسمیں ہیں:

(۱) تَوْبَةُ الْعَوَامِ

(۲) تَوْبَةُ الْخَوَاصِ

(۳) تَوْبَةُ أَخْصِ الْخَوَاصِ

تواللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی بھی تین قسمیں ہو جائیں گی:

(۱) محبوبیت عامہ سے محبوب عام

(۲) محبوب خاص

(۳) محبوب اخص الخواص

یعنی اللہ کا پیار عوامی والا اور اللہ کا پیار علی الخواص اور اللہ کا پیار اخص الخواص والا یعنی اللہ کے پیارے پھر خاص پیارے پھر خاص میں بھی اخص الخواص۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا کون سا پیار چاہتے ہیں اُن خواص والا، سب سے اعلیٰ والا یوہی معمولی؟ دیکھو ایک دن مرنا ہے۔ اگر اعلیٰ درجہ کے پیار کوئی نہیں پاؤ گے تو پچھتنا پڑے گا۔

۱۔ توبہ کی پہلی قسم: توبہ کی پہلی قسم کا نام ہے الرُّجُوعُ مِنَ الْمُفْعِصَةِ إِلَى الطَّاعَةِ توبہ عوام

یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے اور اللہ کی فرماں برداری میں لگ جائے۔ تشكیر اور تکبیر میں تضاد ہے۔ تشكیر کریں گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ تکبیر سے بعد ہوتا ہے اور تشكیر سے قرب ہوتا ہے اور بعد اور قرب میں تضاد ہے اور اجتماع ضریب میں محال ہے۔ تکبیر ہمیشہ ظالم اور حق کو ہوتا ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ سے نظر ہٹ کر اپنی صفت پر اس کی نظر آ جاتی ہے۔ شکر سے اللہ کی صفت قرب اس کو عطا ہوتا ہو تو ناممکن ہے کہ اس میں تکبیر بھی آ جائے چونکہ تکبیر نام ہے بندہ کا اپنے مولیٰ سے غافل ہو کر اپنی کسی صفت پر نظر کرنا کہ میں ایسا ہوں اس لیے دوسروں سے برتر ہوں۔ جیسے ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کے حسن و جمال پر فدا ہوں۔ اس کے بعد پھر آئینہ لے کر کہتا ہے کہ آپ کا نام حسن و جمال اور شانِ کمال تسلیم مگروہ رے میری ناک اور وہ رے میر اکتابی چہرہ اور وہ رے میری پتلی کمر جو کہاں ہے اور کہدھر ہے

کا مصدقہ ہے۔ ایسے عاشق کو محبوب بھی ایک جوتا مارے گا، کہہ گا کہ تم مجھ پر عاشق ہو تو میری خوبیوں سے نظر ہٹا کر اپنی خوبی کیوں دیکھتے ہو؟ تو مولیٰ سے نظر ہٹا کر اپنی خوبی دیکھنے والا حق ہے اور حق ہمیشہ تکبیر ہوتا ہے۔

تو عوام کی توبہ کا نام ہے الرُّجُوعُ مِنَ الْمُعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ جو گناہوں کو چھوڑ کر فرماں بردار ہو گئے اور ان کی توبہ سے اللہ نے ان کو محبوب بنالیا یہ توبۃ العوام ہے پس جو توبۃ العوام تک رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام لوگوں والا پیارا اور محبت ملے گی۔

۲۔ توبہ کی دوسری قسم: اس کے بعد توبہ الخواص ہے۔ وہ ہے الرُّجُوعُ مِنَ الْغُفْلَةِ إِلَى الدِّكْرِ یعنی فرماں بردار تو پہلے ہی تھے مگر اپنے شیخ کا بتایا ہوا ذکر و تلاوت سب بھول گئے تھے لیکن پھر چونکے اور دوبارہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ ذکر کی قضاہیں ہے ندامت کافی ہے۔ ذکر چھوٹ گیا تواب پھر شروع کر دو، اللہ کی یاد سے پھر جان میں جان آ جائے گی۔

مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ
اک جسم ناتوان کو توانائی دے گیا

اللہ کے ذکر کا نامہ روح کا فاقہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھو۔ میں نے جن کو سوبار ذکر بتایا اگر کسی دن بہت تحکم گئے ہو تو دس دفعہ ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور دس مرتبہ اللہ اللہ کرلو۔ آپ کہیں گے دس سے کیا ہوگا۔ ایک پر دس کا وعدہ ہے آپ کا سوپورا ہو جائے گا۔

ایک صاحب نے لکھا کہ میں حسینوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہوں کہ وہ رے اللہ کیا

شان ہے آپ کی! الہزادنیا کے جتنے حسین ہیں یہ سب آئینہ جمالِ خداوندی ہیں ان کے آئینہ میں اللہ کا جمال دیکھتا ہوں۔ حکیم الامت نے کیا جواب لکھا کہ آئینہ ہونا تسلیم مگر یہ آتشی آئینے ہیں جل کر خاک ہو جاؤ گے، نہ تم رہو گے نہ تمہارا ایمان رہے گا۔ الہذا تقویٰ سے رہو۔ (محبوب اللہ بنبن کا طریقہ، صفحہ: ۲۵-۲۵)

آخر میں سب سے پیارا درجہ اخْصَ الخواص کا ہے جن کو اولیائے صدیقین کہتے ہیں۔ تو اخْصَ الخواص کی توبہ کیا ہے:

۳۔ توبہ کی تیسری قسم: الرُّجُوعُ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْحُضُورِ جو ایک لمحہ اپنے دل کو اللہ سے غائب نہ ہونے دے، ہر وقت قلب کو اللہ کے سامنے رکھے۔ جب ادھر ادھر ہوفوراً ٹھیک کر لے۔ ان کا رجوع گناہ سے نہیں ہوتا، گناہ سے توبہ عموماً محفوظ کر دیئے جاتے ہیں بس کبھی دل پر کچھ غبار سا، کچھ جا ب سا آگیا اس غبار کو ہٹا کروہ دل کو اللہ تعالیٰ کے محاذات میں لے آتے ہیں۔

توبہ کے معنی ہیں رجوع کرنا۔ رجوع کے لفظ کا اطلاق جب ہوتا ہے جب کوئی اپنے گھر سے باہر نکل جائے پھر لوٹ آئے تو اللہ کے قرب کی منزل سے دور ہونا لیکن پھر نادم ہو کر منزل قرب پر واپس لوٹ آنا اس کا نام رجوع الی اللہ ہے، توبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ کی فرضیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے قرب سے ہمارا خروج ہوگا، شیطان نفس کبھی ہم کو اللہ سے دور کر دیں گے الہذا جلد لوٹ آؤ۔ اب اس لوٹنے کی تین قسمیں ہیں جو ابھی بیان ہو گئیں۔ اللہ کی طرف سے جیسا جس پر یحیث کاظم ہو گا ویسی ہی اس کی توبہ ہوگی۔ عوام پر اللہ کی شانِ محبوبیت عام ہے، خاص پر خاص ہے اخْصَ الخواص پر اعلیٰ درجہ کی محبوبیت اور پیار ہے جس پر میں نے ایک شعر بھی کہا ہے۔

از لبِ نادیدہ صد بو سہ رسید
من چ گویم روح چہ لذت چشید

اللہ تعالیٰ کے عاشق اپنی نظر کو حسینوں سے بچا کر زخمِ حرمت کھاتے ہیں اور خون آرزو کرتے ہیں اس مجاہدہ کی برکت سے ان کی جانِ اللہ کے پیار کی وہ لذت محسوس کرتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو حوصلے میں تباہ ہوئے اور مخت نہیں ہوتے۔ اپنے بازیِ شاہی سے شاہ بازی سیکھتے ہیں، اور بازیِ شاہی کوں ہے؟ شیخ ہے۔ اس سے شاہ بازی سیکھتے ہیں، حسینوں کے محاذات سے ہٹ جاتے ہیں، دیکھنا تو درکنار اس کے ٹارگٹ اور محاذات میں نہیں رہتے کیونکہ میگنٹ ادھر بھی ہے، اس کے سامنے رہیں گے تو اندر یشہ ہے کہ کھنچ جائیں گے ایک میگنٹ دوسرے کو کھینچتا ہے الہذا فوراً اس کے ٹارگٹ اور محاذات سے آگے بڑھ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ اٹھنی اور میگنٹ کو سامنے کرو تو اٹھنی پھنستی جاتی ہے اور اگر زیادہ نزدیک کیا تو میگنٹ سے چپٹ

جاتی ہے لیکن اگر اس اٹھنی کو جلدی سے گزار دو تو میگنٹ کے دائرہ کشش سے اس کا خروج ہو گیا اب اس سے نقصان کم ہو گا۔ جب کوئی حسین سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے فَقُرُوا إِلَيْهِ أَهْسَتْهُ مَتْ چلو اللہ کے پاس بھاگ کر جاؤ مگر کتنا بھاگو؟ اتنا بھاگو کہ اللہ کو دل میں پا جاؤ، مولیٰ کے پاس جا کر لپٹ جاؤ، سجدے میں پڑ جاؤ۔ اللہ ایسا پیارا ہے جو ان سے چپٹتا ہے سارا عالم اسے لپٹاتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی پانی میں کرنٹ چھوڑ دے تو اس پانی کو مت چھوڑ۔ کرنٹ لگ جائے گا لیکن اللہ والوں سے مصافحہ کرنے سے مت ڈرو۔ ان پر اللہ کی معیت کی بجلی ہے۔ یہ وہ کرنٹ ہے جو حیات عطا کرتا ہے، دنیا کا کرنٹ موت دیتا ہے، دنیاوی بجلی کا اگر کرنٹ لگ جائے تو موت آتی ہے لیکن اللہ والوں پر جو جذب کی تجلی ہے ان سے مصافحہ کرنا، ان کے پاس بیٹھنا ان کو دیکھنا ان شاء اللہ ضرور جذب کا ذریعہ ہو جائے گا۔ مولا نارومی فرماتے ہیں کہ سیب کی منڈی میں سیب مت خریدو، باغ میں چلے جاؤ۔ منڈی میں خراب سیب بھی ہوتے ہیں لیکن باغ میں تازہ سیب ملیں گے۔ باغ میں سوتے بھی رہو گے تو سیب کی خوبصورتی سے ہی دماغ تازہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ والے اللہ کی محبت کے باغ ہیں۔ اللہ والوں کے یہاں پڑے ہوئے سوتے بھی رہو تو اللہ والوں کا نور ہوا کے ذریعہ تمہارے اندر جاتا رہے گا۔ اس لیے بڑے بڑے عبادت گزار اس مقام تک نہیں پہنچ جو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والوں کو مل گیا۔ حاجی امداد اللہ صاحب ہمارے دادا پیر فرماتے ہیں کہ مولا نارومی کو سو برس کی تہجد سے وہ قرب نہ ملتا جو چند دن شمس تبریزی کے پاس بیٹھنے سے مل گیا۔ دوسرے یہ کہ اب کوئی قیامت تک صحابی نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدادیدہ آنکھوں کی پیغمبرانہ نسبت سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے بڑے ہائی پا اور بلب تھے کہ اب قیامت تک کسی کو ویسا بلب نہیں مل سکتا۔ جو شخص ایک کروڑ پا اور کا بلب دیکھ لے اور بلب بھی ایسا کہ اس جیسا قیامت تک دوسرا بلب نہ پیدا ہو تو اس بلب کے دیکھنے والوں کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا لہذا قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی ادنیٰ صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو وہ در دل عطا فرمادے جو آپ اخصل الخواص کو دیتے ہیں اور اختر اور ہم سب بہت اعلیٰ قسم کی ڈش مانگ رہے ہیں تو اے خدا اخصل الخواص اولیائے صد یقین کی جو آخری سرحد ہے، ہم سب کو اور پورے عالم کو بلا استحقاق عطا فرمادیں، آمین۔
(محبوب اللہی بنین کاطریقہ، صفحہ: ۳۵-۳۸)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رحم امتی ہیں یعنی امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دل، انہوں نے یہ روایت بیان کی یعنی حدیث کے پورے مجموعہ میں دو چار روایتیں ہیں صدیق اکبر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان ہی دو چار روایتوں میں یہ حدیث بھی ہے جو نکہ یہ امت پر رحمت کا معاملہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی امت گناہ کرنے سے مایوس ہو جائے اس لیے بوجہ رحمت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرمایا۔ یہ روایت مشکلۃ میں بھی ہے:

﴿مَا أَصَرَّ مِنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾

(سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب فی الاستغفار، ج: ۱، ص: ۲۱۲)

یعنی جو شخص استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے اور ہمت سے ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے تو گہنگاروں میں تو کیا، اس کا شمار گناہ پر اصرار کرنے والوں میں بھی نہیں ہوگا، اگرچہ دن میں ستر مرتبہ اس کی توبہ بُٹ جائے۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اصرار کی تعریف بیان کی ہے **أَلْأَصْرَارُ الْشَّرِيعِيُّ الْإِقَامَةُ عَلَى الْقَبِيْحِ بِدُونِ الْإِسْتَغْفَارِ وَ الرُّجُوْعُ بِالْتَّوْبَةِ** یعنی برائی پر قائم رہنا اور استغفار و توبہ نہ کرنا یہ ہے اصرار ایشرعی۔ (خون تہنا کا انعام، صفحہ ۳۲)

حدیث نمبر ۳۳

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْطُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَ يَسْطُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ الْلَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا﴾

(صحیح مسلم، کتاب التوبۃ، باب قبول التوبۃ من الذنوب، ج: ۲، ص: ۳۵۸)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت رات بھرا پنے ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ دن کا خطا کار رات کو توبہ کر لے اور دن بھر ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ رات کا خطا کار دن میں توبہ کر لے اور یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔

اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رات بھرا پنے ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ دن کا خطا کار رات کو توبہ کر لے اور دن بھر ہاتھ پھیلائے رہتی ہے کہ رات کا خطا کار دن میں توبہ کر لے۔ سبحان اللہ! کیا رحمت ہے آپ کی بندوں پر کہ ایک کروڑ گناہ بھی اگر کوئی کر لے لیکن ندامت کا ایک آنسو بھی نکل آیا، دل میں ندامت پیدا ہو گئی کہ آہ میں نے کیا کیا تو اسی وقت تمام گناہوں کو آپ معاف فرمادیتے ہیں، سو برس کا کافر جورات دن کفر کر رہا تھا، اگر کلمہ پڑھ لے تو اسی وقت ولی اللہ ہو جاتا ہے۔

میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک ہندو نے برس

تک اپنے بت کو صنم پکار رہا تھا کہ ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے صمد نکل گیا تو آواز آئی لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں تو اس کا فرنے ڈنڈا لٹھایا اور سب بتوں کو توڑ دیا کہ نوے سال تک میں نے تمہیں پکارا اور تم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آج غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا نام نکل گیا تو فوراً جواب آگیا کہ لبیک میرے بندے میں موجود ہوں۔ سبحان اللہ! تو عفو کرنے میں آپ بے حد کریم ہیں کہ نوے برس کے کافر کو بھی نہیں بھولتے اور ایک لمحہ میں معاف فرم اکرانا پیارا بنا لیتے ہیں۔

اور آپ حی لم یزل ہیں یعنی زندہ حقیقی ہیں کہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کی حیات میں کبھی زوال نہیں آ سکتا بلکہ ہر وقت آپ کی ایک نئی شان ہے:

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ﴾

(سورة الرحمن، آیہ: ۲۹)

علامہ آلوسی روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں یوم سے مراد وقت ہے، دن مراد نہیں ہے ایسی فِی کُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ فِی كُلِّ لَحْظَةٍ مِنَ الْلَّهْظَاتِ وَ فِی كُلِّ لَمْحَةٍ مِنَ الْلَّمْحَاتِ یعنی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لمحہ آپ کی ایک نئی شان ہے۔ پس چونکہ آپ زندہ حقیقی ہیں اس لیے آپ ہی محظوظ حقیقی ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو محظوظ بنایا جائے کیونکہ اگر آپ کے علاوہ کسی اور کو دل دیا تو ایک دن معلوم ہوا وہ مر گیا اور اس کا جنازہ دفن ہو رہا ہے اب کہاں جاؤ گے اور کس کو دل کا سہارا بناوے گے کیونکہ جس کو سہارا بنا یا تھا وہ تو مر گیا۔ اب کیا اس لاش سے چمٹو گے اور اگر چمٹو گے تو تین دن کے بعد لاش سڑ جائے گی اور مردہ جسم پھول کر پھٹ جائے گا، پھر سب سے پہلے تم ہی اسے دفن کرو گے اور بدبو سے ناک بند کر کے وہاں سے بھاگو گے۔ لہذا کہاں مر نے والوں پر مر رہے ہو۔

مر نے والوں سے عشق نہ کرو کہ یہ پاسیدار نہیں ہوتا عشق اس زندہ حقیقی سے کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، جو موت وزوال و فنا سے پاک ہے اس سے محبت کرو تو تم بھی زندہ جاوید ہو جاؤ گے۔ جنت میں وہ تمہیں حیات جاوادی عطا کرے گا۔ وہ ایسا زندہ حقیقی ہے جو اس سے ہے اور ابد تک رہے گا اور حیات کُل شَيْءٍ بِهِ مُؤَبَّداً ہر شے کی حیات اسی سے قائم ہے اور وہ قیوم بھی ہے یعنی قَائِمٌ بِذَاتِهِ وَ يُقَوِّمُ عَيْرَهُ بِقُدْرَتِهِ الْقَاهِرَةُ اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنی قدرتِ قاہرہ سے دوسروں کو قائم کیے ہوئے ہے اور کیونکہ اس کی ہر وقت ایک نئی شان ہے لہذا اس کے عاشق بھی ہر وقت ایک نئی شان میں رہتے ہیں، ہر لمحہ ان کو ایک نئی حیات عطا ہوتی ہے جس کا دنیوی عشق اور تصور بھی نہیں کر سکتے۔ (فغان روی ۳۰۰-۳۰۲)

حدیث نمبر ۲۵

﴿مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الدعوایات، باب ما جاء فی فضل الدعاء، ج: ۲، ص: ۲۷۵)

ترجمہ: جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔

اے اللہ! آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے:

﴿إِذْ أُدْعُونَىٰ أَسْتَجِبُ لَكُمْ﴾

(سورة غافر، آیہ: ۲۰)

مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے:

﴿مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الدعوایات، باب ما جاء فی فضل الدعاء، ج: ۲، ص: ۲۷۵)

جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ نے دعا کی صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ حکم فرمادیا کہ بندے آپ سے مانگیں۔ اگر آپ حکم نہ دیتے تو ہم خاکی پتوں کی کیا مجال تھی کہ آپ کے سامنے لب کھول سکتے۔ یہ حکم بھی آپ کی رحمت اور کرم عظیم ہے جس طرح اتّقُوا اللہ کا حکم بھی آپ کا احسان و کرم ہے کہ یہ حکم دے کر آپ نے دراصل اپنے بندوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، آپ نے اپنے غلاموں کو دوستی کی پیشکش کی ہے ورنہ منی اور حیض سے پیدا ہونے والے ناپاک بندے اتنے عظیم الشان مالک سے دوستی کا تصور کرنے کی بھی مجال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دوستی کے لیے کوئی تو قدر مشترک ہونی چاہیے اور آپ کا اے خدا کوئی مثل اور ہمسر نہیں۔ کہاں خالق کہاں مخلوق، کہاں آپ قدیم اور واجب الوجود اور کہاں ہم حادث و فانی۔

چہ نسبت خاک را باعالم پاک

ہم تو آپ کی دوستی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن آپ نے دوستی کی پیشکش فرمادی کرم کے دریا بہادئے اور نا امید یوں کے اندھیروں میں امید کا آفتاب طلوع فرمادیا کہ بس تقویٰ کو شرط و لایت ٹھہرایا:

﴿إِنَّ أَوْلَيَاؤَهُ إِلَّا الْمُسْتَقْوُنَ﴾

(سورة الانفال، آیہ: ۳۲)

اسی لیے یا یہا الَّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللَّهَ کا عاشقانہ ترجیحہ دلالتِ التراوی سے یہی ہے کہ اے ایمان والوں ہمارے دوست بن جاؤ الہذا تقویٰ کا حکم بھی آپ کی عظیم الشان رحمت ہے۔

چوں دعا ما امر کر دی اے عجائب
ایں دعائے خویش را کن مستجاب

اے ہمارے بے مثل رب جب آپ نے خود ہم کو دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے تو یہ دلیل ہے کہ آپ ہماری دعاوں کو قبول فرمانا چاہتے ہیں کیونکہ شاہ جب کسی چیز کو مانگنے کا حکم دے تو یہ دلیل ہے کہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے اور باپ جب بچہ سے کہتا ہے معافی مانگ تو یہ دلیل ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ پس حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعا آپ کو مطلوب ہے اور آپ کی رحمت واسعہ سے بعید ہے کہ اپنی مطلوب کو آپ رو فرمادیں۔ پس ہماری دعاوں کو اے کریم قبول فرمائیجئے۔ (فغان رومی، صفحہ: ۳۲۸۔ ۳۲۰)

حدیث نمبر ۳۶

﴿مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنِيهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الدَّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرًّ وَجَهَهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ﴾

(سنن ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ص: ۳۰۹)

ترجمہ: اگر کسی بندہ مومن کی آنکھوں سے ایک آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف نکل آئے خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے چہرے پر لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خشیت الہی سے نکلے ہوئے آنسو قلب کو شفادینے والے ہیں تَشْفِيَانَ الْقَلْبَ بِذُرْوُفِ الدُّمُوعِ (جامع صغیر) اور خشیت الہی سے نکلے ہوئے آنسو کا ایک قطرہ خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو دوزخ کی آگ کے حرام ہونے کا ذریعہ ہے یعنی کسی بندہ مومن کی آنکھوں سے اگر ایک آنسو اللہ کی خشیت سے نکل آئے خواہ مکھی کے سر کے برابر ہو اور اس کے چہرہ پر لگ جائے تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں اور اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو نجات کا ذریعہ ہیں:

﴿عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاهُ فَقَالَ أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعُكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْبَكَ﴾

(مسند احمد، مشکوٰۃ المصایح، کتاب الاداب، باب حفظ اللسان، ص: ۳۱۳)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ اور ندامت سے رونے والے گنہگاروں کی آواز اللہ تعالیٰ کو تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَا يَنِدِّبُ إِلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ مُسَبِّحِينَ﴾

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، سورۃ القدر، ج: ۳۰، ص: ۱۹۶)

کنہگاروں کا گریہ نہامت مجھے سچ پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔

اے حلیل اشکِ کنہگار کے اک قطرہ کو

ہے فضیلت تری تسبیح کے سو دانوں پر

اور تہائی میں اللہ کے لیے نکلے ہوئے آنسوؤں پر قیامت کے دن سایہ عرشِ الہی کی بشارت ہے:

﴿وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ﴾

(صحیح البخاری، کتابُ الاذان، باب من جلس فی المسجد یتنظر الصلوة، ج: ۱، ص: ۹۱)

وہ شخص جو تہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہ پڑیں یعنی آنسو جاری ہو جائیں اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اللہ کے نزدیک دو محبوب قطروں میں سے ایک محبوب قطرہ وہ آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے نکلا ہوا دروسرا وہ قطرہ خون ہے جو اللہ کے راستے میں گرا ہو:

﴿لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثْرَيْنِ قَطْرَةٍ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةٍ دَمٍ﴾

تھراؤ فی سبیلِ اللہِ.....﴾

(سنن الترمذی، کتابُ فضلِ الجهاد عن رسول اللہ ﷺ، ج: ۱، ص: ۲۹۶)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہوا اور ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہا ہو۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے موسلا دھار بر سے والی بارش کی طرح رو نے والی آنکھیں مانگی ہیں:

﴿اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَيْنِ هَطَالَتِيْنِ تَسْقِيَانِ الْقُلْبَ بِذُرْوَفِ الدُّمُوعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدُّمُوعُ دَمًا وَالْأَضْرَاسُ جَمْرًا﴾

(الجامع الصغير للسيوطی، ج: ۱، ص: ۵۹)

(وفي رواية تسقيان القلب بذروف الدموع كما في المناجمات المقبول)

اے اللہ! مجھے ایسی آنکھیں عطا فرم جو موسلا دھار ابر کی طرح بر سے والی ہوں تَسْقِيَانِ الْقُلْبَ جو آنسوؤں سے دل کو سیراب کر دیں قبل اس کے کہ دوزخ میں آنسو خون اور ڈاڑھیں انگارے بن جائیں۔ مناجات مقبول میں جو روایت منقول ہے اس میں تَسْقِيَانِ الْقُلْبَ کے بجائے تَسْقِيَانِ الْقُلْبَ ہے۔

غیم ہاطل کے معنی موسلا دھار بر سے والا بادل یعنی موسلا دھار بارش اور هطالہ مبالغہ کا وزن ہے جو یہاں صفت ہے عینین کی اور عینین عربی قاعدہ سے مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت هطالہ بھی مؤنث استعمال فرمائی گئی۔ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ اے

اللہ آپ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرمائیے جو ہاطلہ نہیں ہطالہ ہوں ہاطلہ میں بھی موسلا دھار بارش جیسے گریا کامفہوم تھا لیکن نبوت کی جان عاشق نے اس پر قناعت نہیں فرمائی بلکہ ایسی آنکھیں مانگیں جو ہطالہ ہوں یعنی موسلا دھار برسنے والے ابر سے بھی زیادہ رونے والی ہوں۔

تو ہطالتین عینین کی صفتِ اولیٰ ہے یعنی اللہ والی آنکھوں کی پہلی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہطالتین فرمائی کہ وہ موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ آنسو بر سانے والی ہیں۔ اس کے بعد سرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھوں کی دوسرے صفت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ تَسْفِيَانَ الْقُلْبَ بِذُرْوُفِ الدَّمْعِ یا تَسْقِيَانَ الْقُلْبَ بِذُرْوُفِ الدَّمْعِ وہ آنکھیں ایسی ہوں جو بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کو شفادینے والی ہوں یا بہتے ہوئے آنسوؤں سے دل کو سیراب کر دیں۔ صرف وہی آنسو دل کو سیراب کرتے ہیں جو اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف سے بہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر رونے والی آنکھ دل کو سیراب نہیں کرتی، جو آنسو غیر اللہ کے لیے نکلتے ہیں وہ دل کو سیراب نہیں کرتے بلکہ دل کا سیلان اس کر دیتے ہیں۔

کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ جو آنکھیں آپ کے لیے بیدار نہ ہوں، آپ کے غیروں کے لیے جاگ رہی ہوں وہ آنکھیں اور ان کی بیداری بے کار اور لچیع اوقات ہے اور جو آنسو آپ کی جدائی کے غم کے بجائے مرنے والوں کے لیے بہرہ رہے ہوں وہ باطل ہیں۔

تو عینین کی صفت ثانیہ یعنی اللہ والی آنکھوں کی دوسری صفت تَسْقِيَانَ الْقُلْبَ بِذُرْوُفِ الدَّمْعِ فرمکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے آنسو مانگے ہیں کہ صرف وہی دل کو سیراب کرتے ہیں۔ اور عینین کی صفت ثالثہ یعنی آنکھوں کی تیسرا صفت سرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں قبیلَ أَنْ تَكُونَ الدُّمُوعُ دَمًا وَ الْأَضْرَاسُ جَمْرًا کہ اے اللہ! رونے کی یہ توفیق اسی حیات دنیا میں عطا فرمادیجئے قبیل اس کے کہ دوزخ میں یہ آنسو خون اور ڈاڑھیں انگارے بن جائیں کیونکہ دوزخ میں دوزخی خون کے آنسو روئے گا لیکن وہ آنسو کسی کام کے نہ ہوں گے کہ وہ تو عذاب کے آنسو ہوں گے۔ پس مبارک وہ آنسو ہیں جو اسی دنیا کی زندگی میں اللہ کے لیے بہہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کا اور عذاب جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔

اور قبیلَ أَنْ تَكُونَ الدُّمُوعُ دَمًا وَ الْأَضْرَاسُ جَمْرًا اظرف ہے اور ہر ظرف م نعروف کے لیے بمزملہ قید ہوتا ہے اور قید بمزملہ صفت ہوتی ہے پس یہ خوبی صفت تو نہیں ہے لیکن معنوی صفت ہے۔ اس لیے اس کو عینین کی صفت ثالثہ قرار دینا صحیح ہے۔

جب احقر معارفِ مشنوی لکھ رہا تھا یہ خاص شرح اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا

فرمائی۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (فَقَانِ رُوِيَ، صفحہ: ۳۷۹-۳۸۱)

تشریح حدیث بالابعنوان دگر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو غالباً اسی حدیث کے پیش نظر مولانا رومی نے فرمایا۔

کہ برابر میکنہ شاہ مجید

اشک را در وزن باخون شہید

اللہ تعالیٰ گنہ کار بندوں کے آہ و نالوں کے وقت نکلے ہوئے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔

میرے بزرگوار دوستو! بے حساب مغفرت اور عرش کے سامنے کا نئے بھی حق تعالیٰ کے خوف سے تہائی میں رونا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔

بخاری شریف میں باب من جلس فی المسجد یتنظر الصلوة و فضل المساجد کے ذیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث تحریر فرمائی ہے:

﴿سَبْعَةُ يُظْلَمُهُمُ اللَّهُ فِي ظَلَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد یتنظر الصلوة، ج: ۱، ص: ۹۱)

قیامت کے دن سات (قتم کے) آدمی ایسے ہوں گے جن کو حق تعالیٰ شانہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا:

﴿وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد یتنظر الصلوة، ج: ۱، ص: ۹۱)

وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو تہائی میں یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بنے لگیں۔

شرح بخاری فتح الباری (ج: ۲، ص: ۱۲۷) میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول یہاں سایہ سے مراد عرش کا سایہ ہے فیُرَجِحُ أَنَّ الْمُرَادَ ظِلُّ الْعَرْشِ۔ ذَكَرَ اللَّهَ أَيْ بِقْلُبِهِ

مِنَ التَّذَكْرَةِ أَوْ بِلِسَانِهِ مِنَ الْدِسْكِرِ ذَكْرُ اللَّهِ سَمَرَادُولِ مِنْ يَادِ كَرْنَا اللَّهِ تَعَالَى كُويَازِ بَانِ سَذَكْرُ كَرْنَا اُورِ خَالِيَاً يُعْنِي تَهْنَاهَىٰ كَيْ قِيدَاسِ لِيَهِ هِيَ كَرِيَاءٌ مَحْفُوظَرِ هِيَ لَأَنَّهُ يَكُونُ أَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاءِ وَ الْمُرَادُ خَالِيَاً مِنَ الْأَلْتِفَاتِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَ لَوْ كَانَ فِي مَلَاءٍ يُعْنِي سَمَرَادَتَهْنَاهَىٰ سَيِّهِي سَيِّهِي هِيَ هِيَ كَهْ قَلْبُ تَوْجِهِ الْمُهَاجِرِ كَهْ اُورِ غَيْرِ اللَّهِ سَمَرَادَتَهْنَاهَىٰ هُوَ اُگرْ كَچِهِ جَمِيعِ مِنْ هُوَ اُورِ اسِ مَفْهُومِ كَيْ تَائِيَدِ اِيَامِ نِيَقِيَ كَيْ اسِ رَوَايَتِ سَهْوَتِي هِيَ ذَكْرُ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَكِنْ مَطْلَقُ تَهْنَاهَىٰ جَهَانِ كَوَنِي نَهْ هُوَ اسِ مَفْهُومِ كَيْ تَائِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَبَارِكِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اُورِ حَمَادِ بْنِ زَيْدِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَيْ رَوَايَتِ ذَكْرُ اللَّهِ فِي خَلَاءٍ سَهْوَتِي هِيَ اَيُّ فِي مَوْضِعِ خَالِيَاً يُعْنِي بِالْكُلِّ تَهْنَاهَىٰ هُوَ كَوَنِي مَخْلُوقُ نَهْ هُوَ اُورِ حَافِظُ عَسْقَلَانِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَرِمَاتِي هِيَ هِيَ الْاَصْحُ زِيَادَهُ تَحْجِجُ هِيَ - اَحْقَرَ عَرْضَ كَرْتَانِ هِيَ كَهْ اَهْلِ مَجْتَبَتِ كَوْذَوْقَأَ بَهْيِي خَلُوتِ مَجْبُوبَ هِيَ - (رَوْحُ كَيْ بَيَارِيَاٰ اُورِانِ كَاعِلَج، حَصَدُوم، صَفَنِ: ۵۵-۵۸)

حدیث نمبر ۲۷

﴿اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبِنِي فَإِنَّكَ عَلَىٰ قَادِرٌ﴾
(کنزِ العمال)

ترجمہ: اے اللہ! مجھے رسوانہ کیجئے کہ یقیناً آپ مجھے خوب جانتے ہیں اور مجھے عذاب مت دیجئے کہ یقیناً آپ مجھ پر خوب قادر ہیں۔

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوداً تعییم فرمائی میرے حق میں اس کو قبول فرمائیجئے اللہُمَّ لَا تُخْزِنِي فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ اے اللہ! مجھے رسوانہ کیجئے کیونکہ آپ مجھے خوب جانتے ہیں، میری تمام نالائقیوں کا آپ کو علم ہے اس لیے مجھے رسوائنا آپ کو کچھ مشکل نہیں وَلَا تُعَذِّبِنِي فَإِنَّكَ عَلَىٰ قَادِرٌ اور مجھے عذاب نہ دیجئے کہ میں پوری طرح آپ کی قدرت قاہرہ غالباً کاملہ کے تحت ہوں، جو پوری طرح قدرت میں ہو اس کو عذاب دینا قادرِ مطلق کو کیا مشکل ہے لیکن آپ کریم ہیں اپنے کرم کے صدقہ میں اس بندہ عاجز اور مغلوب کو رسوائھی نہ کیجئے اور عذاب بھی نہ دیجئے۔ لہذا اے خدا! میری مدفرِ مائیے اور نفس و شیطان کی مکاریوں سے اور ان کی چالوں اور دھوکوں سے مجھے بچا لیجئے کہ نفس و شیطان مجھے مغلوب نہ کر سکیں۔ اللَّهُمَّ وَاقِيَّةَ الْوَلِيدِ اور میری ایسی حفاظت فرمائیے جیسے ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی حفاظت کرتی ہے کہ اس کے بچے کو اگر مٹی کھانے کی عادت ہے تو گھر میں جھاڑو لگا کر گھر کو مٹی سے پاک کر دیتی ہے اور اگر کوئی دوسرا بچہ چھپا کر مٹی لاتا ہے تو اس کا کسٹم کرتی ہے اور مٹی اس سے چھین کر بچیں دیتی ہے اور ایسے بچہ کو اپنے بچے کے پاس بھی نہیں آنے دیتی اور اگر بچہ کبھی چھپا کر مٹی منہ میں رکھ لیتا ہے تو

اس کے منہ میں انگلی ڈال کر نکال لیتی ہے اور بھی انگلی لیتا ہے تو اس کو قے کر دیتی ہے تاکہ کوئی مضر چیز میرے پچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اے اللہ ماں کی رحمت تو آپ کی رحمت کی ادنیٰ بھیک ہے، ماں کو محبت کرنا تو آپ ہی نے سکھایا ہے۔ پس اے خالق رحمت مادر اس! گناہوں سے میری بھی اسی طرح حفاظت فرمائیے کہ اگر میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو آپ نہ کرنے دیجئے اور گناہ اور اسباب گناہ کو مجھ سے اس طرح دور کر دیجئے جیسے ماں مضر چیزوں کو اپنے چھوٹے پچھے دو کر دیتی ہے۔

پس اے کریم! ہمارے گناہوں کو محض اپنے کرم سے معاف فرمادیجئے بلکہ گناہوں کے آثار و نشانات کو بھی موفراً دیجئے کیونکہ عفو کے معنی ہیں گناہوں کے نشانات اور شہادتوں کو مٹا دینا۔ اے اللہ آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ آپ سے معافی مانگتا ہے اور آپ جب اس کو معاف فرمادیتے ہیں تو آپ گناہ کے چاروں گواہوں کو ختم کر دیتے ہیں، کر لماً کاتبین سے اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعمال النام سے اس گناہ کو خود مٹا دیتے ہیں اور جس زمین پر اس نے گناہ کیا تھا اس زمین سے بھی گناہ کے آثار کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے اعضا جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والے تھے ان اعضا کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں حتیٰ لیقی اللہ و لیس علیہ شاهد مِنَ اللہِ بَدْنِ یہاں تک وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف کوئی گواہ نہ ہوگا۔

پس اے اللہ! میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اپنے جرام پر نادم ہو کر تو بہ کر رہا ہوں آپ اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کو میرے حق میں قبول فرمادیجئے اور مجھے معاف فرمادیجئے اے کریم۔

اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی۔ اللہُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ أَوْ بَعْضِ احادیث میں لفظ كَرِيمٌ کا بھی اضافہ ہے کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، بڑے کریم ہیں، ناقابلِ معافی اور مستحقِ عذاب کو بھی بعجه اپنے کرم کے معاف فرمادیتے ہیں اور یہی نہیں کہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ تُحِبُّ الْعَفْوَ معااف کرنے کو آپ محبوب رکھتے ہیں اس کی شرح محدثین نے یہ کی ہے کہاں تُحِبُّ ظُهُورَ صِفَةِ الْعَفْوِ عَلَى عِبَادِكَ اپنے بندوں پر اپنی صفتِ عفو و مغفرت کاظہور آپ کو خود محبوب ہے یعنی اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنا آپ کا محبوب عمل ہے۔ پس آپ کے اس محبوب عمل کے لیے ہم گنہگار اپنے گناہوں پر ندامت واستغفار و توبہ کی گھڑی لے کر حاضر ہوئے ہیں فَاعْفُ عَنِّی پس ہم کو معاف کر دیجئے کہ آپ کا محبوب عمل ہو جائے گا اور ہمارا بیڑہ پار ہو جائے گا۔ ملاعلیٰ قاری ایک حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں:

﴿إِنَّ الْمُسْتَغْفِرِينَ نُنَزِّلُهُ مَنْزَلَةَ الْمُتَّقِينَ﴾

(مرقة المفاتيح، کتاب الدعوات، باب الاستغفار، ج: ۵، ص: ۱۷۱)

گناہوں سے توبہ کرنے والے بھی متین کے درجہ میں کر دیئے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تَعْذِبْنِي فَإِنَّكَ عَلَىٰ قَادِرٌ اے اللہ! مجھے عذاب نہ دیجئے کیونکہ میں تو پوری طرح آپ کے قبضہ قدرت میں ہوں، آپ سے بچ کر میں کہاں جا سکتا ہوں۔ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یعنوان ہے جلپ رحمتِ حق کے لیے جیسے چھوٹا بچہ باپ سے کہتا ہے کہ ابا مجھے نہ ماریئے میں تو آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوں، آپ کے قبضہ میں ہوں تو باپ کو اس کی بے بسی پر حرم آ جاتا ہے تو سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی امت کو سکھا دیا کہ اپنے رب سے ایسے ہی کہوتا کہ ان کی رحمت کو جوش آ جائے۔

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اگر وہ سارے عالم کو بخش دے تو اس کے خزانہ مغفرت میں ایک ذرہ کی واقع نہ ہو پس میرے ان گناہوں کو بخش دے جس سے اے اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور مجھے وہ مغفرت عطا فرمادے جس کی آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ (نفان روی، صفحہ: ۳۶۲-۳۶۳)

مورِ درحمت چار قسم کے افراد

حدیثِ پاک میں ہے:

﴿لَوْلَا رِجَالٌ خُشِّعٌ وَشُيوخٌ رُكَعٌ وَأطْفَالٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمٌ رُتَّعٌ لَصَبَبَنَا عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبَابًا﴾

(تفسیر قرطبی، ج: ۲، ص: ۱۱۶)

اگر خشوع کرنے والے مرد نہ ہوتے اور کمر بھکے ہوئے بوڑھے نہ ہوتے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور بے زبان جانور نہ ہوتے تو تمہارے اوپر بارش کی طرح عذاب نازل ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ چار قسم کی مخلوق کی وجہ سے ہم لوگ عذابِ الہی سے بچے ہوئے ہیں۔ نمبر ایک رِجَالٌ خُشِّعٌ درنے والے مرد خدا، دودھ پیتے جس کو اطفال رُضَّع کہا گیا ہے، نمبر تین بڑے بوڑھے جنہیں شُيوخٌ رُكَع کہتے ہیں نمبر چار بے زبان جانور جن کو بَهَائِمٌ رُتَّع کہتے ہیں۔ آج دیکھو لاکھوں مرغیاں جلا دی گئیں، بے گناہ مخلوق کو زندہ جلا دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان بے گناہوں مظلوموں کی آہ سن لے اور ہم پر کوئی ایسا حاکم بنادے جس سے پورے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے، علمِ الہی میں جس کا نظم و انتظام و صلاحیت ہمارے لیے خیر ہو، آپ بہتر جانتے ہیں، ہم تو آپ سے ملتے ہیں، اپنی ذات پر بھروسہ مت کرو، ہم جن کو اچھا سمجھتے ہیں دُم اٹھاؤ تو ماذہ نظر آتی ہے۔

ہر کہ او دم برداشتہ مادہ نظر می آید

اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اپنے علم پر نازمت کرو، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو کہ

اے خدا اپنے علم کے اعتبار سے ہماری خیر و بہتری کے لیے عالمِ غیب سے اسباب پیدا فرم۔
(نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے، صفحہ: ۲۳-۲۵)

رحمتِ حق کو متوجہ کرنے والا عجیب عنوان دعا

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قربان جائیے، سرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں کروڑوں صلوٰۃ وسلام نازل ہوں، کیسی پیاری دعا سکھادی اللہُمَّ لَا تُخْزِنِنِی فَإِنَّكَ بِيْ عَالِمٌ اے اللہ! ہم کو ذلیل نہ فرمائ کہ جس کو ٹھڑی میں ہم گناہ کر رہے تھے وہاں آپ بھی موجود تھے آپ ہمارے سارے عیوب کو جانتے ہیں الہذا اے خدا ہم کو رسانہ فرم۔ مخلوق سے تو ہم چھپ لیے لیکن آپ اس وقت بھی موجود تھے جب ہم گناہ کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا سکھار ہے ہیں۔ قربان جائیے کیا پیاری دعا ہے اللہُمَّ لَا تُخْزِنِنِی فَإِنَّكَ بِيْ عَالِمٌ پس تحقیق کہ آپ خوب جانتے ہیں جو ہم تھائیوں میں خلوتوں میں، کو ٹھڑیوں، میں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں اے خدا! آپ وہیں ہوتے ہیں اور آپ اپنی قدرت قاهرہ کے ساتھ ہمیں دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا کمالِ حلم و کرم ہے کہ جلدی بدلنہیں لیتے۔ موقع دیتے ہیں کہ شاید اب تو بہ کر لے، شاید اب تو بہ کر لے وَ لَا تُعذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَىٰ قَادِرٌ اور مجھ کو عذاب نہ دیجئے کیونکہ آپ مجھ پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ (اب اللہ اور صراطِ مستقیم، صفحہ: ۱۱-۱۲)

حدیثِ بالا کی مزید تشریح

اے اللہ! آپ ہم کو ذلیل اور رسانہ کیجئے۔ کیونکہ آپ ہمارے ہر گناہ سے باخبر ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو آپ موجود ہوتے ہیں اور جب نیکی کرتے ہیں تو بھی موجود رہتے ہیں۔ آپ بھی غیر موجود ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اِيْنَمَا كُنْتُمْ کا بھی ترجمہ ہے کہ اے اللہ! آپ اپنے بندوں سے کبھی غیر موجود نہیں ہوتے، مسجد میں بھی آپ ساتھ ہیں، دفتر میں بھی ساتھ ہیں، ہوائی جہاز پر بھی ساتھ ہیں، بحری جہاز پر بھی ساتھ ہیں، شہر میں بھی ساتھ ہیں، جنگل میں بھی ساتھ ہیں، کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ ساتھ نہ ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ جملہ اسمیہ ہے اس سے خروج محال ہے۔ اب منطق سنئے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے دوام پر اور دوام دلالت کرتا ہے عدم خروج پر کہ اس حالت سے اس کا خروج نہیں ہو سکتا۔ یعنی بندہ ایک سانس ایسا نہیں لے سکتا کہ خدا اُس کے ساتھ نہ ہو، انسان کا کوئی سانس ایسا نہیں گز سکتا کہ جس سانس میں وَهُوَ مَعَكُمْ سے اس کا خروج اور اگینٹ (Exit) ہو جائے۔ بتاؤ ایسا رفیق کہاں ملے گا جو زمین کے اوپر بھی اور جوز میں کے نیچے بھی، عالم بزرخ میں بھی، میدانِ محشر میں بھی اور جنت میں بھی ساتھ ہو، لاؤ ہمارے پیارے اللہ کے سوا کوئی ایسا ساتھی، ایسا رفیق، ایسا مولیٰ جو

کبھی اور کہیں ساتھ نہ چھوڑتا ہو۔

ورنہ جنازہ جب قبر میں اُرتتا ہے تو بڑی بڑی عاشق بیویاں زمین کے اوپر رہ جاتی ہیں، مال و دولت و کار و بار اور دفتر اور آفس جس کی وجہ سے اُن کوش ملتا ہے اور ڈش ملتا ہے، اگر آفس نہ چلے تو کوش بھی غائب اور ڈش بھی غائب۔ موت کے وقت آفس اور ڈش سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں؟ یا آفس ساتھ جاتا ہے کہ صاحب جو کار و بار چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کی ترقی کے لیے وقتاً فوقتاً ہدایت جاری کرتے رہیں گے۔

توَاللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي کے معنی یہ اے اللہ! اور اللہ اسم اعظم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میرے اسم اعظم کے صدقہ میں بھیک مانگو کہ **أَللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي** اے اللہ! مجھے رسوائی کی جو قدرت آپ کو حاصل ہے تو رسوائی کرنے کی بھی آپ کو قدرت ہے۔ ایک طرفہ قدرت پر اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ ایک قدرت رسوائی کی تو حاصل ہوا اور دوسرا قدرت رسوائی کرنے کی حاصل نہ ہوا اور قدرت کی تعریف کیا ہے؟ فلسفہ کا قاعدة مسلمہ ہے اور اس پر میں بڑے بڑے ایم ایس اور بڑے سے بڑے سائنسدان کو لکارتا ہوں کہ اپنی سائنس کے زور سے میری اس بات کو ذرا درکر کے دکھاؤ کو قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے یعنی قدرت کہتے ہیں کہ ضدین پر قدرت حاصل ہو، جو کام کر سکتا ہوا سکونت بھی کر سکتا ہوا س کا نام قدرت ہے۔ اگر کسی کی گردان ایک طرف کو اکٹھائی ہے دوسری طرف نہیں مُرْسکتی تو اس کو کہتے ہیں کہ تخفی ہو گیا ہے، کنز از ہو گیا ہے، ٹھنڈس ہو گیا ہے اس کو قدرت نہیں کہتے۔ یہ سب طب کی کتابوں میں مجھ کو پڑھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج میری طب یونانی طب ایمانی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ تو فلسفے کے قاعدة مسلمہ کے مطابق قدرت نام ہے جو ضدین سے متعلق ہو۔ جو کام کر سکتا ہونے بھی کر سکتا ہو۔ چنانچہ ایک فلسفہ وال نے حکیم الامت کو لکھا کہ میں جب کسی حسین پر نظر ڈالتا ہوں تو پھر ہٹا نہیں سکتا، میرے اندر طاقت ہٹانے کی نہیں ہوتی۔ حضرت نے لکھا کہ آپ غلط کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو نہ دیکھنے کی بھی آپ کو طاقت ہے کیونکہ قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے۔

أَللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي کی شرح کا درد انگیز عاشقانہ اور نادر عنوان

وہ خالق سائنس اور خالق فلسفہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی اُمی کو جو کسی مکتب کا پڑھا ہو انہیں تھا علومِ نبوت عطا فرم رہا ہے کہ آپ اس طریقہ سے اُمت کو سکھائیے مگر کمال ہے شفقت اور رحمت کا کہ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُمت کی خطاؤں کو خود اور ہلیا اور عرض کیا **لَا تُخْزِنِي** اے خدا! اپنے نبی کو رسوائی سمجھئے۔ کیا شان رحمت ہے رحمۃ للعلمین کی اور کلامِ نبوت کا کیا کمال بلاغت ہے کہ رحمۃ حق کو

جو شدلانے کے لیے امت کی رسوانی کو اپنی رسوانی سے تعبیر کیا ورنہ کیا نبی بھی کہیں رسوا ہوتا ہے؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ اور ذلت و رسوانی اس پر ممتنع اور محال ہے، تو یہ سب ہماری تعلیم کے لیے ہے، ہم کو سکھادیا کہ ایسے مانگو مگر کیا پیارا انداز ہے کہ اپنے غلاموں کو داغدار نہیں ہونے دیا، سب اپنے اوپر اوڑھ لیا کہ اے خدا! ہم کو رسوانہ کرنا۔ فَإِنَّكَ بِيُّ عَالَمٌ كیونکہ آپ کو ہمارے سب گناہوں کا علم ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں آپ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ نامناسب کا لفظ یاد رکھئے کہ گناہ نام ہی ہے مرضی خدا کے خلاف کام کرنے کا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کھانا پینا اور ہر جائز نعمت کا استعمال حلال ہے۔ تو اس مضمون کا حاصل یہ ہوا کہ اے خدا! آپ ہمیں رسوانہ کیجیے۔ فَإِنَّكَ بِيُّ عَالَمٌ میں فاء تعلیمیہ ہے یعنی یوجہ اس کے کہ آپ کو ہمارے سب گناہوں کا علم تھا، ہے اور ہوتا رہے گا، اس لیے ہمیں رسوا کرنے کا ضابطہ سے آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رسوا کرنے والی قدرت کو ہم پر نافذ کر دیں، کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہمیں رسوا کرنے کا قانون اور ضابطہ کی رو سے آپ کو حق حاصل نہ ہو۔ بحقِ ضابطہ ہمیں رسوا کرنے کی آپ کو قدرت ہے جس کی دلیل فَإِنَّكَ بِيُّ عَالَمٌ ہے کیونکہ آپ کو ہمارے سارے گناہوں کا علم ہے اور جس کو کسی کے عیوب کا علم ہو جائے وہ جب چاہے اس کو رسوا کر سکتا ہے۔ پس بحقِ ضابطہ آگر آپ ہم کو رسوا کر دیں تو آپ ظالم نہیں ہوں گے۔ آپ کا عینِ عدل، عینِ انصاف، عینِ قانون اور ضابطہ ہو گا۔

رحمتِ ارحم الراحمین کا کامل نمونہ

مگر حقِ ضابطہ کے بجائے ہم حقِ رابط آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ وہ ارحم الراحمین ہیں جو مولاۓ رحمۃ للعلمین ہیں۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ اللہ کی رحمت سے اختر اس عنوان سے فریاد کر رہا ہے کہ آپ ارحم الراحمین ہیں مگر آپ کس پیغمبر کے مولیٰ ہیں؟ سید الانبیاء رحمۃ للعلمین کے مولیٰ ارحم الراحمین ہیں۔ یوں تو آپ ہم سب کے مولیٰ ہونے کی نسبت سے، عظیم الشان منسوب الیہ کی نسبت سے بے مثل ارحم الراحمین کی شان رحمت کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے کہ آپ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مولیٰ ہیں جو رحمتِ ارحم الراحمین کا مظہر اتم ہے، آپ کی رحمت کا کامل نمونہ ہے۔ جس کی شان یہ ہے کہ مکہ کے ظالموں کو، ستانے والوں کو، حالتِ نماز میں آپ پراونٹ کی او جھٹری ڈالنے والوں کو، راہ میں کائنے بچانے والوں کو، طائف کے بازار میں پھر مار کر آپ کے سر مبارک کے خون مبارک سے نعلین بھرنے والے ظالموں کو فرمادیا کہ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ آج کے دن تم سے کوئی انقام نہیں، جو بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا وہی تمہارا بھائی آج تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ آہ! بھائی بھی فرم رہے ہیں تو ایسے نبی رحمت کے آپ مولیٰ ہیں! پھر آپ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہو گا! ہمارے وہم و گمان

سے اور قیل و قال سے آپ کی رحمت بے پایاں بالاتر ہے۔ پس بحثِ ضابطہ، ہم مستحقِ رسوائی ہیں لیکن اے ارم الراحمین اے مولائے رحمۃ اللعلمین ہم آپ سے بحثِ رابطہ، بحثِ رحمت، بحثِ رحمۃ اللعلمین فریاد کرتے ہیں کہ ہم رحمۃ اللعلمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس نسبتِ غلامی کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں کہ لا تُخْزِنْنِی ہمیں رُسوانہ کیجئے، معاف کر دیجئے، کیونکہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وجودِ عاسکھائی تو اس منفی میں مثبت درخواست پوشیدہ ہے کہ اے خدا! آپ کو ہمیں رُسوا کرنے کی جتنی قدرت ہے اتنی ہی قدرت رُسوانہ کرنے کی بھی ہے۔ آپ کو دونوں قدرت حاصل ہے۔ چاہیں تو بحثِ ضابطہ آپ ہم کو ذیل و رُسوا کر دیں کہ سارے عالم کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں اور چاہیں تو بحثِ رابطہ، بحثِ رحمت اور بحثِ محبت جو ہمیں پیدا کرنے اور پالنے کی وجہ سے آپ کو ہم سے ہے اپنی اس رُسوا کرنے والی قدرت کے قضیہ کا عکس کر دیں اور ہمیں رُسوانہ کریں کیونکہ ہمیں آپ کے خاص بندوں اور بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے کہ فلسفہ کا قاعدہ مسلمہ ہے کہ قدرتِ ضدین سے متعلق ہوتی ہے یعنی قادر وہ ہے جو ضدین پر قادر ہو کہ جو کام کر سکتا ہو وہ نہ بھی کر سکتا ہو اور جو طرفہ قدرت نہ رکھتا ہو وہ مجبور ہوتا ہے اور آپ مجبور نہیں ہیں۔ آپ جس طرح رُسوا کرنے والی صفت کے ظہور پر قادر ہیں اسی طرح اپنی اس صفت کو ظاہرنہ کرنے پر بھی قادر ہیں یعنی آپ کو دونوں پر قدرت ہے۔ آپ ہم کو جتنا رُسوا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اتنا ہی رُسوانہ کرنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ لہذا اے ارم الراحمین اپنی رحمت کے صدقہ میں اپنی رُسوا کرنے والی صفت ہم پر ظاہرنہ کیجئے بلکہ اس کا ضد اور عکس یعنی رُسوانہ کرنے والی صفت کا ہم پر ظہور فرمادیجئے۔

ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ ہم نے تم کو نامناسب حالت میں دیکھا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم نے تو میری صرف ایک غلطی دیکھی ہے لیکن میری زندگی میں کتنے گناہ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے پرده پوشی فرمائی ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو ان ہزاروں خطاؤں اور گناہوں میں سے ایک ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ ہر گنہگار اپنے گناہوں کی تعداد کو جانتا ہے، کمیات کو بھی جانتا ہے کیفیات کو بھی جانتا ہے اور کس جغرافیہ سے گناہ کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن علم جغرافیہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ گناہ پر اپنی ستاریت کا پرداہ ڈالا ہوا ہے اسی لیے دعا کرتا ہوں اللہُمَّ لَا تُخْزِنْنِی فَإِنَّكَ بِيَعْلَمُ اے اللہ! مجھے رُسوا نہ کیجئے کہ آپ میرے تمام گناہوں سے باخبر ہیں۔

حدیثِ پاک کے دوسرے جز کی عشقِ انگیز و عارفانہ شرح

اب دوسرا جملہ بھی اسی سرکارِ عالیہ کا ہے جس کا پہلا جملہ آپ ابھی سن چکے ہیں۔ اب در عالیہ کا دوسرا جملہ بھی مسجدِ اشرف سے نشر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وَ لَا تُعَذِّبْنِی فَإِنَّكَ عَلَىٰ قَادِرٌ اور

اے خدا ہم کو عذاب نہ دیجئے کہ ہمیں عذاب دینے کی حق قانون و ضابطہ آپ کو پوری قدرت حاصل ہے لہذا پوری قدرت کے اعتبار سے ہم کو پورا عذاب دینے پر آپ قادر ہیں لیکن اے مولیٰ! جتنا عذاب دینے کی آپ کو قدرت ہے تو اس قضیہ کے عکس کی لیعنی عذاب نہ دینے کی بھی آپ کو اتنی ہی قدرت حاصل ہے۔ عذاب دینے کی یک طرفہ قدرت کے اظہار پر آپ مجبور نہیں ہیں۔ لہذا ہم بے کسوں، غریبوں اور گنہگاروں پر آپ رحم فرمائیں اور عذاب نہ دینے کی قدرت کا ہم پر ظہور فرمادیجئے۔

ارحم الراحمین کی عظمتِ شان کے عجیب عارفانہ نکات

اور مخلوق میں چونکہ تاثر و انفعال ہے اس لیے اس پر جب اس کی کسی صفت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دوسری صفت میں منتقل ہونے میں دریگئی ہے جیسے کسی پر غصہ چڑھ گیا تو اب رحم و کرم کی صفت میں منتقل ہونے میں اس صاحبِ غصب کو کچھ تاخیر ہوگی، کچھ وقت لگے گا کیونکہ خون گرم ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئیں، آنکھیں سرخ ہو گئیں، تو اب صفتِ غصب سے صفتِ عفو میں آنے میں کچھ دیر لگے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی شان سن لو کہ جس لمحہ اور جس سیکنڈ میں اگر اللہ تعالیٰ غصب اور اظہار قدرت کا ارادہ کر لیں تو اسی لمحہ اور سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ اظہار قدرتِ عذاب کو اظہار کرم و عفو میں منتقل کرنے پر قادر ہیں، ان کی صفتِ غصب و انتقام کو صفتِ عفو و کرم میں تبدل ہونے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تاثر و انفعال سے پاک ہے۔ وہ فاعل تو ہے منفعل نہیں ہو سکتا، وہ منوثر ہے متاثر نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کر ہمارا بیڑہ پار کر دیا کہ میرا اُمتی اگر یہ دعا پڑھ لے تو حق تعالیٰ کی صفتِ تعزیب اور صفتِ غصب سیکنڈوں میں نہیں اس سے بھی زیادہ جلدی اور تیزی سے صفتِ عفو و کرم میں تبدل ہو جائے گی کیونکہ سیکنڈ ہمارا بینا یا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سیکنڈ سے بھی بے نیاز ہے، وہ سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز کام کر سکتا ہے جس کا احاطہ اعداد و شمار نہیں کر سکتے۔ پس آپ عذاب دینے کی قدرت کو عذاب نہ دینے کی قدرت میں تبدل کر کے ہمارا بیڑہ پار کر دیجئے اور یہ ہم آپ سے بحق رابطہ مانگتے ہیں کہ آپ مولاۓ رحمۃ للعالمین ہیں اور اس نبی رحمت کی یہ شان ہے جنہوں نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف فرمایا تو آپ کی شانِ ارحم الراحمین کا کیا عالم ہوگا۔ پس اپنی رحمت کے صدقہ میں آپ اپنے غصب اور عذاب دینے کی قدرت کو عذاب نہ دینے کی قدرت میں تبدل فرمادیجئے کیونکہ جتنی قدرت عذاب دینے کی ہے آپ کو ہے اتنی ہی قدرت عذاب نہ دینے کی بھی ہے دونوں میں ذرا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔

حق تعالیٰ کی شانِ رحمت شانِ غصب سے زیادہ ہے

بلکہ ایک بات مزید یہ ہے کہ عذاب دینے کی جتنی قدرت آپ کو ہے عذاب نہ دینے کی قدرت بعده رحمت و کرم اس سے بھی زیادہ ہے، آپ کی رحمت آپ کے غصب سے زیادہ ہے۔ یہ اداۓ الہیت بزبانِ نبوت اختر پیش کر رہا ہے، یہ اداۓ خواہِ عبید کامل کی زبان سے اختر پیش کر رہا ہے جس سے بڑا کوئی کامل بندہ نہیں ہے۔ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اور غصب کی صفت میں دوڑ ہوئی، مسابقه ہوا توحیدیث قدسی ہے:

﴿سَبَقَتْ رَحْمَتُ رَغْصِيُّ﴾

(صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول الله بل هو قرآن مجید، ج: ۲، ص: ۱۱۲)

اللہ کی صفتِ رحمت غصب سے آگے بڑھ گئی جس سے بندوں کا پیر ہ پار ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی وَ لَا تُعَذِّبْنِي اور ہمیں آپ عذاب نہ دیجئے فَإِنَّكَ عَلَىٰ قَادِرٌ كَوْنَكَ آپ کو تو ہم پر پوری قدرت ہے، ہم تو آپ کے تحت القدرة ہیں جو چاہیں آپ ہمیں کر دیں، کتاب بنا دیں، سور بنا دیں، زمین پھاڑ کر دھنادیں، عذاب کی جتنی قسمیں ساری امتوں پر آئی ہیں، آپ سب کی سب اجتماعی طور پر اس گنہگار پر نازل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن آپ ہم کو عذاب دینے کی تمام قدرتوں میں سے ایک قدرت کا بھی ظہور نہ کیجئے، عذاب دینے کی جتنی قدرت آپ کو حاصل ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی نافذ نہ کیجئے بلکہ عذاب نہ دینے والی قدرت میں ایک ذرہ نہ چھوڑیے۔ آہ! سوچو تو سہی کیا یہ حق تعالیٰ کا کرم اور علم عظیم نہیں ہے کہ عذاب دینے کی جو قدرت آپ کو ہے اس میں سے ایک ذرہ، ایک اعشار یہ ظاہر نہ ہونے دیجئے اور عذاب نہ دینے کی جو آپ کو قدرت ہے وہ سب کی سب ہم پر ڈال دیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ غصب کا سارا ظہور ختم اور ساری رحمت ہم پر تمام کر دیجئے، بھر رحمتِ ذخارِ غیر محدود کو ہم پر اُنڈیل دیجئے، اپنی رحمت کی بارش فرمادیجئے کہ آپ کی رحمت کا تماشہ دلکھ کر ساری دنیا حیرت زدہ ہو جائے کہ ارے اس کو تو ہم معمولی سمجھتے تھے، یہ کیا سے کیا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی تاریخ بدلتا ہے تو سارا عالم حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی تاریخِ ذلت کو بدلتا ہے اور عزت کی تاریخِ ذلتا ہے تو سارے مورخین عالم اور مورخین کائنات اگلشت بدنداں، حواس باختہ اور حیران و ششدروہ جاتے ہیں۔ بس اب لغت ختم، دنیاۓ لغت سرگوں ہے۔ اللہ اللہ ہے، ہماری کوئی لغت ان کے کمالات کی تعبیر و تفسیر کرنے سے قاصر ہے۔ اب دنیاۓ لغت سرگوں و عاجز ہے اس لیے بس گفتنِ امکان نیست خامش و السلام

ایسے موقع پر مولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ادا کر رہا ہوں کہ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لہذا اب میں خاموش ہوتا ہوں اور اللہ کے سپرد اختر اپنے کو بھی کرتا ہے اور آپ سب کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب پر اپنی خاص نوازش فرمادیں، آمین۔ (یارِ حمد الرحمٰن مولائے رحمۃ اللعلیمین، صفحہ: ۲۸-۳۳)

حدیث نمبر ۳۸

﴿إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونُ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَ مَا وَالَّهُ وَعَالَمُ أَوْ مُتَعَلِّمٌ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب ماجاء فی هوان الدنيا علی الله، ج: ۲، ص: ۵۸)

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے (اللہ کی رحمت سے دور ہے) مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو اور عالم اور طالب علم۔

فائده: اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو چیزیں معین ہوں مثلاً کھانا پینا لباس اور زندگی کے تمام اسباب ضروریہ سب ذکر کے قریب ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب سے تمام عبادتیں اس میں شامل ہیں اور دونوں صورتوں میں علم ان میں خود داخل ہے اس وجہ سے کہ علم ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قریب لے جاتا ہے بغیر علم کے خدا کو پہچاننا ممکن نہیں لیکن علم کی اتنی ضرورت اور اہمیت کے باوجود عالم اور طالب علم کو علیحدہ اہتمام کی وجہ سے بیان فرمایا کہ امت کو معلوم ہو کہ علم دین بہت بڑی دولت ہے (اصل علم علم دین ہے اور اس کے علاوہ تمام علوم فنون ہیں) ایک حدیث میں ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے اور علم کا یاد کرنا شیعج ہے۔ تحقیقات علمیہ کے لیے بحث کرنا جہاد ہے اور پڑھنا صدقہ ہے اور اس کا اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے اس لیے کہ علم جائز ناجائز کے پہچاننے کی علامت ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے کا سامان ہے اور سفر کا ساتھی ہے (سفر میں کتاب کا مطالعہ) تہائی کا ایک ہمکلام دوست ہے۔ خوشی اور رنج میں دلیل ہے، دشمنوں پر تھیار ہے۔ دوستوں کے لیے حق تعالیٰ شانہ اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کو بلند مرتبہ کرتا ہے کہ وہ خیر کی طرف بُلانے والے ہوتے ہیں اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشانِ قدم پر چلا جائے اور ان کے افعال کی اتباع کی جائے۔ ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جائے، فرشتے اُن سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو (برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر) ان پر ملتے ہیں اور ہر توڑھ کیز دنیا کی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے اور چوپائے اور زہر یلے جانور (سانپ وغیرہ تک) بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں اور یہ سب اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے، علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر

ہے، اسی سے رشتہ جوڑے جاتے ہیں اور اسی سے حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ علم کا امام ہے اور عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بدجنت اس سے محروم رہتے ہیں۔ (روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ: ۱۲۸-۱۳۰)

حدیث نمبر ۳۹

﴿اللَّهُمَّ افْتَحْ أَقْفَالَ قُلُوبِنَا بِذِكْرِكَ﴾

(عمل الیوم والليلة لابن السنی، باب کیف مسئللة الوسیلة، ص: ۵۰)

ترجمہ: اے اللہ! ہمارے دلوں کے تالوں کو کھوں دے اپنے ذکر کے ذریعہ۔

اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر دراصل ایک کنجی ہے جس سے دل کا قفل کھلتا ہے اور طاعت و فرماد برداری میں بھی لگتا ہے اور اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کنجی کے دندانے کو بھی درست رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ دل کا قفل آسانی سے کھلے کوئی مشکل اور دشواری پیش نہ آئے۔ اور ذکر کی کنجی کے دندانے کو درست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر و فکر اور توہبہ کو خشوع و خضوع کے ساتھ کیا جائے۔ ایسے ہی ذکر کے خاطر خواہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

ذکر کی کنجی کی جو بات میں نے کہی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے، ارشاد ہے ﴿اللَّهُمَّ افْتَحْ أَقْفَالَ قُلُوبِنَا بِذِكْرِكَ﴾ یعنی اے اللہ! ہمارے دلوں کے تالوں کو کھوں دے اپنے ذکر کے ذریعہ ذکر میں صرف کمیت یعنی مقدار و تعداد مطلوب نہیں ہے بلکہ کیفیت بھی مقصود ہے، یعنی اللہ کا خیال اور دھیان جس قدر ذکر میں جمایا جائے گا اسی قدر ذاکر کو نقش اور فائدہ ہوگا۔ اور اتنی ہی اس کے اندر طاقت و قوت پیدا ہوگی۔ دیکھئے! عمری کس قدر بزدل اور ڈرپوک ہے لیکن شیراً اگر اس کی پشت پر ہاتھ پھیر دے اور یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس وقت ل عمری چیتے کا جگہ بھی نکال سکتی ہے اور اس کے لیے اس کے اندر بہت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ذاکر کے ساتھ اللہ کی مد و نصرت ہوتی ہے اور کسی حال میں تھائی محسوس نہیں کرتا بلکہ نور ذکر کی برکت سے ذاکر اپنے قلب میں حق تعالیٰ کا خاص تعلق محسوس کرتا ہے جس کو مشائخ معیت خاصہ کہتے ہیں معيت عاملہ توہر مسلمان کو حاصل ہے۔

(روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ: ۲۸۱-۲۸۲)

حدیث نمبر ۵۰

﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلِيُؤْلِقْ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الادب، باب اذا عطس کیف یشمت، ج: ۲، ص: ۹۱۹)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمد للہ (تمام

تعریفیں اللہ کے لیے ہیں) لوگوں نے اس موقع پر الحمد للہ کی تعلیم دیئے جانے کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں لیکن ایک حکمت ان سب میں نرالی ہے۔ شاید آپ نے یہ حکمت نہ کسی کتاب میں پڑھی ہونے کسی سے سنی ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے مگر جب اس کو چھینک آتی ہے تو اس وقت اس کی شکل بگڑ جاتی ہے چونکہ چھینک کے بعد شکل اپنی حالت پر عود کر آتی ہے اور اس کا بگار ختم ہو جاتا ہے اس لیے حکم دیا گیا کہ الحمد للہ کہو، تاکہ اللہ کی عظیم نعمت جو تم سے خواہ ایک آن کے لیے ہی سہی، مگر چھین لی گئی تھی، اور اب واپس دے دی گئی ہے۔ اس پر تمہاری طرف سے شکردا ہو سکے۔

سوچنے! چھینک کے بعد الحمد للہ کہنا بظاہر تکنی معمولی بات ہے، لیکن اس میں کتنی بڑی حقیقت پوشیدہ ہے۔ شریعت کی ہر تعلیم میں اس طرح کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ خواہ ہمیں ان کا ادراک ہو سکے یا نہیں تاہم، ہم ہر تعلیم پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ یہی پابندی ایک بندہ کو خدا کا بندہ بنادیتی ہے۔ یہ حکمت الحمد للہ کہنے کی حضرت مولانا نگنو ہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی جس کو احقر نے اپنے شیخ مرشد حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنایا ہے۔ (روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، حصہ اول، صفحہ: ۲۹۵-۲۹۶)

حدیث نمبر ۱۵

﴿مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفِعَهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ وَ مَنْ تَكَبَّرَ وَ ضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلِبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ﴾
(مشکوكة المصایب، کتاب الاداب، باب الغضب والکبر، ص: ۳۳۳)

ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں بس وہ اپنے نفس میں حقیر ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں عظیم ہو جاتا ہے اور جس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتے ہیں اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتا ہے اور اپنی نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خزری سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات الاحکام میں حضرت امام ہبھی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اپنے نفس کو مٹایا۔ رَفِعَهُ اللَّهُ اللَّهُ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ بس وہ اپنے نفس میں حقیر ہوتا ہے تواضع کی وجہ سے اپنے دل میں تو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اس فتاویٰ کی برکت سے اللہ اس کو لوگوں کی نظر میں عظیم کر دیتا ہے، عزت دیتا ہے تمام مخلوق میں اس کی عظمت اور بڑائی ڈال دیتا ہے وَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ اپنے نفس میں تو اپنے کو حقیر

سمجھا مگر اس تواضع کا کیا انعام ملا؟ تمام لوگوں میں اس کو عظمت عطا ہو گئی ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عظمت دیتے ہیں۔

وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ أَوْ جَوَابِنَے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گردیتے ہیں اور جس کو خدا گرانے اس کو کون اٹھائے؟ ہے کسی میں دم کہ جس کو خدا گرادے پوری کائنات میں اس کو کوئی اٹھادے، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو پوری کائنات میں کوئی عزت نہیں دے سکتا کیونکہ جو بندہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے حقیقت میں وہ بڑا نہیں ہے جس کا مادہ تخلیق باپ کی منی اور ماں کا حیض ہو وہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے وَمَنْ تَكَبَّرَ فَرَمَايَا۔ تکبر با بِ تَفْعُل سے ہے جس میں خاصیت تکلف کی ہوتی ہے یعنی وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بڑا نہیں ہے بِ تکلف بڑا بن رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو گردیتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ صفت آتی ہے تو وہاں اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہے الْعَزِيزُ الْجَبارُ الْمُتَكَبِّرُ، عزیز معنی طاقت والا، جبار کے معنی ظالم کے نہیں ہیں جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بڑا ظالم جابر ہے، جبار کے معنی ہیں ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا اور اپنے بندوں کی بگڑی بنانے والا (روح المعانی، پ: ۲۸، ج: ۲۳)، الَّذِي يُصْلِحُ أَحْوَالَ خَلْقِهِ بِقُدْرَتِهِ الْقَاهِرَةِ جو اپنے بندوں کی ہر حالت کو بنانے پر قادر ہو۔ انتہائی خراب حالت کسی بندہ کی ہو تو اس کی منتها ہے تباہی اور منتها ہے تخریب کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ تعمیر کا نقطہ آغاز کافی ہے، بس وہ ارادہ فرمائیں کہ مجھے اپنے اس بندہ کو سنوارنا ہے وہ اسی وقت اللہ والا بن جائے گا۔

علام آلوسی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیتِ مبارکہ میں متكبر کے معنی صاحب عظمت کے ہیں اگرچہ یہ با بِ تَفْعُل ہے لیکن تکلف کی خاصیت جو کہ عموماً با بِ تَفْعُل کا خاصہ ہے یہاں ہرگز جائز نہیں ہو گی بلکہ یہاں نسبت الی الماخذ ہے یعنی صاحبِ عظمت (روح المعانی، پ: ۲۸، ج: ۲۳) اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں الہذا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ متكبر کا ترجمہ ہمیشہ صاحبِ عظمت کیا جائے گا کیونکہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے سوائے اللہ کے کوئی بڑا نہیں ہے اور جو بندہ اپنے کو بڑا بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو گردادیں گے۔ کبر جب دل میں ہوتا ہے تو اس کی چال، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں اس کا تکبر شامل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتا ہے ہیں کہ متكبر انسان لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا فہمُ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرًا تمام دنیا کے انسانوں میں اللہ اس کو بہا کا چھوٹا اور حقیر کر دیتا ہے، لوگ ہر طرف اسے کہتے ہیں کہ بہت ہی نالائق ہے، بڑا متكبر ہے، اینٹھ کے چلتا ہے، وَ فِي نَفْسِهِ كَيْرًا مگر اپنے دل میں وہ اپنے کو خوب بڑا سمجھتا ہے کہ میری عظمتوں سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ میری عظمتوں کی

اُوگ قدر نہیں کرتے، میرے علم و عمل کو نہیں پہچانتے، اس قسم کی باتیں شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے سمجھتا ہے کہ بُس ہم چنیں ماد گیرے نیست مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں، ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ جو کہتا ہے کہ ہم چنیں ماد گیرے نیست وہ دراصل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم چنیں ڈنگرے نیست کہ مجھ جیسا کئی ڈنگر یعنی جانور نہیں ہے۔

تو حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے پس وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور اپنے دل میں کبیر ہوتا ہے، یعنی اپنے دل میں وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے لیکن ساری دنیا کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے، حتیٰ لَهُو أَهُونُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خَنْزِيرٍ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں میں کتنے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتا ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے یہ تکبر، اس کو سوچئے کہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، بڑی عزت والا ہوں، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں کتنے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔

اس لیے متكبر کے ساتھ تکبر صدقہ ہے، یعنی متكبر کے سامنے زیادہ تواضع اور خاکساری مت دکھائیے، دل میں تو اس کی تحقیر نہ ہو بلکہ اس وقت بھی دل میں اپنی ہی حقارت پیش نظر ہو لیکن بظاہر اس کا زیادہ اکرام نہ کجھے اگر اس کا زیادہ اکرام کیا جائے گا تو اس کا مرض تکبر اور بڑھ جائے گا۔

یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور اس کے علاج کے لیے خانقاہوں کی ضرورت ہے، بڑے بڑے علماء اہل اللہ سے تعلق جوڑا کہ ہمارا نفس مٹ جائے اور مٹنے سے جو پھر ان کو مقبولیت عطا ہوئی، ایسی شہرت و عزت اللہ نے دی کے قیامت ان کا نام زندہ رہے گا۔ تکبر سے عزت نہیں ملتی اور تکبر کا مقصد عزت حاصل کرنا ہی تو ہے لیکن اس راستے سے خدا عزت نہیں دیتا بلکہ گردن مروڑ دیتا ہے اگر کسی کو عزت ہی لینی ہے تو اپنے کو مٹائے پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کسی عزت دیتا ہے لیکن یہ مٹانا عزت کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو۔ من تواضع کے بعد اللہ فرمایا اس کے بعد رَفَعَهُ اللَّهُ ہے۔ معلوم ہوا کہ تواضع پر رفت و عزت اُس وقت ملے گی جب یہ تواضع اللہ کے لیے ہو جس نے اللہ کے لیے اپنے کو گردایا اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ نعمت صوفیاء کے اندر خاص ہوتی ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ (علام برہمنی: ۱۶۔ ۱۷)

حدیث نمبر ۵۲

﴿إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجِلٍ مُسَمَّى﴾

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ یعدب الميت بعض، ج: ۱، ص: ۱۷۱)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے واپس لے لیا اور اسی کی ملکیت ہے جو کچھ اس نے عطا کیا اور

ہر شے کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو بہت لوگوں نے تعزیت کی لیکن ایک بدوسی (دیہاتی) بزرگ آئے اور انہوں نے ایسی تعزیت کی جس سے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت تسلی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اے عبد اللہ ابن عباس تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کے لیے تم زیادہ بہتر ہو یا عباس کا اللہ زیادہ بہتر ہے اور عباس کی وفات سے جو تمہیں غم پہنچا اور اس مصیبت پر صبر کے بعد میں جو تمہیں اجر و ثواب ملا بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ مل گیا تو یہ بتاؤ کہ یہ انعام عظیم تمہارے لیے کیا عباس سے بہتر نہیں ہے۔ سبحان اللہ کیا عنوان ہے دیہات کے تھے وہ، لیکن اللہ جس کو چاہے مضمون عطا فرماتا ہے۔ (تسلیم درضا، صفحہ: ۲۲-۲۳)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَ لَهُ مَا أَعْطَى اللَّهُ جوْ جِزِّ هُم سے لیتا ہے وہ ہماری نہیں اللہ ہی کی ہے، اس کا مالک اللہ ہے جو چیز اس نے لے لی ہے وہ اسی نے عطا فرمائی تھی۔ اگر کوئی اپنی امانت واپس لے لے تو آپ اس پر زیادہ غم نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کی چیز نہیں تھی جس کی تھی اس نے لے لی، وہ اس کا مالک ہے۔ ہم کو جو حد سے زیادہ غم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ غلطی سے اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ الفاظِ نبوت یہ ہیں إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ جوْ كَجْهَ اللَّهَ نَمَّ تَمَّ سَلَّمَ لے لیا، جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا وہ اللہ ہی کا، تھا اسے تم کیوں اپنا سمجھتے ہو؟ اگر آپ کو کوئی شخص اپنی گھری دے دے کہ آپ دو مہینے اس کو استعمال کر لیجئے پھر دو مہینے کے بعد وہ آپ سے گھری مانگے کہ میری گھری واپس کر دیجئے تو آپ روئیں گے نہیں، آپ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے صاحب لیجئے یا آپ کی گھری ہے بلکہ آپ کا شکریہ کہ اتنے دن تک آپ نے اپنی گھری مجھے دی تھی۔ تو آپ بھی شکر کریں کہ ہماری والدہ کو اللہ نے اتنی زندگی دی ورنہ اس سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا سکتے تھے، بچپن ہی میں آپ کو چھوٹا سا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اٹھا سکتے تھے، یہ ان کا احسان ہے کہ آپ لوگ بڑے ہو گئے، ماشاء اللہ بال بچے دار ہو گئے تب بلا یا، اتنے روز تک آپ کے پاس رکھا لہذا شکر ادا کیجئے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری والدہ کو اتنے عرصہ ہمیں دے رکھا جیسے وہ شخص کہتا ہے جس کو آپ نے گھری دی کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اتنے عرصہ تک اپنی گھری آپ نے ہمیں دی ہوئی تھی جو کچھ لے لیا وہ بھی اللہ کا وَ لَهُ مَا أَعْطَى اور جو کچھ عطا فرمایا وہ بھی اللہ ہی کا ہے جو چیزیں دی ہیں ان کا بھی شکر ادا کیجئے، ان کا شکر کیا ہے کہ یا اللہ! آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میرے والد کا سایہ میرے سر پر عطا فرمایا ہوا ہے اور کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ میری اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، مکان ہے، ہزاروں نعمتیں دی ہوئی ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کا شکر ادا کیجئے کہ اے

اللہ آپ کی بے شمار نعمتوں کا بے شمار زبانوں سے شکر ادا کرتا ہوں وَ كُلٌ عِنْدُهُ بِأَجْلٍ مُسَمًّى اور اللہ تعالیٰ کے بیہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو کچھ اللہ لیتا ہے اور جو کچھ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے بیہاں پہلے ہی سے مقدر ہے بیہاں تک کہ برتوں کا وقت بھی مقرر ہے مثلاً آپ مدینہ شریف سے ایک گلاس لائے لیکن اچانک کسی بچے سے وہ گر گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا یہی وقت مقرر تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ برتوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے اس لیے اپنے بچوں کی بے طرح پٹائی نہ کرو کہ نالائق تو نے مدینہ شریف کا گلاس کیوں توڑ دیا۔ مار پٹائی کر رہے ہیں گھر میں ایک شور مچا ہوا ہے اکثر اس معاملہ میں بچوں پر زیادتی کر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے زمی سے سمجھا دو کہ بیٹے گلاس کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑا کرو لیکن زیادہ پٹائی نہ کرو بلکہ کہو إِنَّ اللَّهَ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا تھا اور اس کا یہی وقت مقرر تھا۔

جس کے گھر میں کوئی غمی ہو جائے تو ایسے وقت میں اس کے ذمہ دو کام ہیں ایک تو یہ کہ جانے والے کے لیے ثواب پہنچائیے کیونکہ جو چلا گیا اب وہ بے عمل ہو گیا، اس کی عمل کی فیلڈ ختم ہو گئی اب وہ خود کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے اس کو صبح و شام ثواب کا پارسل پہنچانا چاہیے یعنی زیادہ سے زیادہ ایصالِ ثواب کیجئے، بدنبال عبادت اور مالی عبادت دونوں کا ثواب پہنچانا چاہیے۔ بدنبال ثواب تو اس طرح سے کہ تلاوت کر لی مثلاً سورۃ الحسین پڑھ کر بخش دیا یا تین مرتبہ قل ہو واللہ پڑھ کر ہمیشہ صبح و شام بخش دیا، تین بار قل ہو واللہ پڑھنے سے ایک قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، اللہ سے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچا دیجئے، اس طرح روز کار و صبح و شام آپ کی طرف سے ثواب کا پارسل پہنچتا رہے گا۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ مرنے والے پوچھتے ہیں کہ اللہ میاں یہ ہماری نیکیاں کہاں سے بڑھ رہی ہیں، ہم تو مر گئے ہیں اب عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہیں ثواب بھیج رہی ہے۔ دیکھئے زمین پر دوسروں کا عمل اور آخرت میں مرنے والوں کے اعمال نامہ میں لکھا جا رہا ہے اس طرح ان کے عمل کا میسٹر چل رہا ہے۔ کیونکہ اب وہ عمل نہیں کر سکتے ہے اس کا پارسلوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں کچھ بھیجے۔

حدیث شریف میں ہے کہ یہ ثواب کا تحفہ ان کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ الہذا اس کا معمول بنایجئے کہ روزانہ ہمیشہ کچھ پڑھ کر اپنے اعزاء و اقرباء کو جو مر گئے ہیں بخش دیا کریں کم از کم صبح و شام تین مرتبہ قل ہو اللہ شریف تین مرتبہ قل اعوذ بر رب الفلق تین مرتبہ قل اعوذ بر رب الناس پڑھ کر بخش دیا اور اس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ مخلوق کے ہر شر سے حفاظت رہے گی، کسی قسم کا کالا جادو یا جنات یا شیطان کوئی پڑھوں اور کوئی حاسد آپ کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ الفاظ نبوت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے:

﴿تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾

(مشکوکة المصایب، کتاب فضائل القرآن، ص: ۱۸۸)

یعنی یہ تینوں سورتیں ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ نبی کی بات کو اللہ نہیں مالتا کیونکہ نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کہلاتا ہے، نبی اپنی طبیعت سے کوئی بات کہتا ہی نہیں۔ صحیح کو پڑھ لیا تو شام تک حفاظت ہو گئی اور شام کو پڑھ لیا تو رات بھر حفاظت رہے گی۔

اگر کوئی حاسد جادو یا سفلی عمل کرے گا تو اس عمل کی برکت سے الٹا اسی پر پڑھ جائے گا۔ کوئی دشمن آپ کے خلاف اسکیم بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دیں گے۔ اس لیے صحیح و شام یہ تینوں سورتیں آپ بھی پڑھئے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیے اور اسی کو اپنی والدہ کو بخشن دیجئے ان کو ثواب بھی پہنچ جائے گا اور آپ لوگ حاسد دین اور شیاطین کے شر سے اور جنات اور کالا عمل کرانے والوں کے شر سے غرض ساری مخلوق کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ آج کل تو بس ذرا ذرا سی دشمنی پر جادو اور کالا عمل کرادیتے ہیں پھر ہم لوگ عاملوں کی طرف دوڑتے ہیں تو عاملوں کے پاس جانے کی بجائے ہم یہ عمل کیوں نہ کر لیں جو ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے جس کے بعد کسی عامل کے پاس جانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آج کل ننانوے فیصد عامل بھگ بیٹھے ہیں۔ (تلہیم و رضا، صفحہ: ۲۲-۲۳)

حدیث نمبر ۵۳

﴿النِّكَاحُ مِنْ سُنْنَتِي﴾

(سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب ماجاء فی فضل النکاح، ص: ۱۳۳)

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو نکاح کی سنت ادا نہ کرے، میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح کیا ہے؟ اگر کوئی مجبور ہے، اس کے کچھ حالات خاص ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی حال غالب ہو گیا، شادی کی ذمہ داریاں قبول نہیں کر سکتا، بیوی بچوں کے حقوق کا حقہ ادا نہیں کر سکتا تو یہ اعراض نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے بلکہ سنت سے اعراض کرتا ہے تب وہ اس وعید کا مستحق ہے الہذا بدگمانی نہ کیجئے کیونکہ بعض بڑے علماء اور اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کیں۔ چنانچہ حضرت بشرخانی رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف کی شرح لکھنے والے علامہ مجی الدین ابو زکریانو وی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تقی تازانی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کی بھی شادیاں نہیں ہوئیں۔

حدیث میں آتا ہے کہ شوہر اگر ناراض سوجائے تو عورت کا کوئی عمل قبول نہیں چاہے ساری رات

تستحق کھلکھلاتی رہے۔ بیویوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے شوہروں کا درجہ اتنا بلند کیا ہے کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو شوہروں کو جائز ہوتا لیکن جائز نہیں ہے اس لیے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ سجدہ کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو اور ماں باپ پر بھی فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے رہیں کہ شوہر کی طرف سے اگر کچھ کڑواہٹ بھی آجائے تو برداشت کرو اس کے ہاتھوں سے تمہیں نعمتیں بھی تول رہی ہیں۔ (خوشنگوار ازاد وابی زندگی، صفحہ: ۱۸)

سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے برکت والا نکاح ہے ایسَرُهُ مَعْوَنَةً جس میں کم خرچ ہو۔ ولیمہ بھی بالکل سادہ کیجئے۔ اپنی حیثیت کے موافق دس بیس کو بلا لیجئے بس کافی ہے کوئی دس ہزار کا ولیمہ واجب نہیں ہے۔ ڈیکوریشن کوئی ضروری نہیں، اپنے کمرے میں ہی کھلا دیں، میرج ہال میں پیسے ضائع کرنا کیا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے کہ یہی پیسے بچا کر اپنی بیٹی کو دے دیجئے۔ داما دکودے دیجئے۔ یا اپنے لیے ہی رکھ لیجئے۔

مدینہ پاک میں ایک صحابی نے شادی کی۔ اتنے غریب تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت ولیمہ نہ دی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تم نے شادی کر لی۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (ترمذی، بح: ۱، ص: ۲۰۸) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر نہیں کی کہ تم نے مجھ کو کیوں نہیں پوچھا۔ آج تو خاندان والے لڑتے ہیں تم نے ہمیں نہیں پوچھا۔ چلو اب آئندہ ہم تمہاری کسی خوشی میں شریک ہی نہیں ہوں گے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ غرض جتنا کم خرچ والا نکاح ہو گا سمجھ لو برکت والا ہوگا۔

خرچ پر یاد آیا کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیویوں کا ایک اور حق لکھا ہے۔ ملفوظات کمالاتِ اشرفیہ میں ہے کہ بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ ہر ماہ اس کو کچھ جیب خرچ دے دواو پھر اس کا حساب بھی نہ لو کیونکہ وہ مجبور ہے، آپ کی دستِ نگر ہے، کما نہیں سکتی۔ اب اس کا بھائی آیا ہے یا چھوٹے چھوٹے بھائیجے بھتیجے آئے ہیں اس کا جی چاہتا ہے کہ ان کو کچھ تنفس ہدیہ دے دوں۔ کہاں سے دے گی۔ لہذا اپنی حیثیت کے موافق کچھ رقم اپنی بیویوں کو ایسی دے دیجئے کہ بعد میں اس کا کوئی حساب نہ لیا جائے اور اس سے کہہ بھی دیں کہ یہ رقم تمہارے لیے ہے جہاں جی چاہے خرچ کرو۔ (خوشنگوار ازاد وابی زندگی، صفحہ: ۲۵-۲۳)

حضرت حوالیہ السلام کی تاریخ

عبداللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب

جنت سے نکلا اور حضرت آدم علیہ السلام تنہا جنت میں رہ گئے تو کوئی نہ رہا جس سے اُنس حاصل کرتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرمادیا اور ایک پسلی بائیں طرف سے نکالی اور اس کی جگہ گوشہ رکھ دیا۔ اور اسی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ لپس جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ان کو بیٹھے ہوئے پایا۔ اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ کہا میں عورت ہوں۔ پوچھا کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون اور تسلی حاصل کریں۔

پھر ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ عورت ہے۔ دریافت کیا کہ ان کا نام امراء کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ خُلِقَتْ مِنَ الْمَرْءِ مرد سے پیدا کی گئی ہے۔ دریافت کیا ان کا نام کیا ہے فرمایا حواء۔ پوچھا کہ نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا لَا نَهَا خُلِقَتْ مِنْ شَيْءٍ حَتّیٰ کیونکہ وہ زندہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ (روح المعلان، ج: ۱، ص: ۲۳۳)

بخاری شریف کی حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے:

﴿الْمَرْأَةُ كَالضَّلَعِ إِنْ أَقْمَتَهَا كَسَرَتْهَا وَ إِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَ فِيهَا عِوَجٌ﴾
(صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب المداراة مع النساء، ج: ۲، ص: ۷۷۹)

عورت مثل پسلی کے ہے، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اسی حالت میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن رہے گا۔

اس حدیث کو امام بخاری باب المداراة مع النساء کے ذیل میں لائے ہیں جس سے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق ملتا ہے اور ان کی برا خلائقوں پر صبر و تحمل کی تعلیم بھی ملتی ہے۔

دوسری حدیث میں تصریح ہے کہ پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے:

﴿وَاسْتُوْصُوْبَا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلَعٍ﴾
(صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الوصاة بالنساء، ج: ۲، ص: ۷۷۹)

عورتوں کے ساتھ بھلانی کی وصیت کرو کیونکہ ان کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ (شکولی معرفت، صفحہ: ۱۲۹-۱۳۰)

حدیث نمبر ۵۲

﴿الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب المسلم من سلم المسلمين، ج: ۱، ص: ۶)

ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوں۔

حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل اور پاک مسلمان، اللہ کا بہت پیار مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں پر علامہ بدر الدین یعنی

رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی اشکال قائم کیا ہے کہ کیا پاؤں سے مارنے کی اجازت ہے کیونکہ حدیث میں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ زبان سے تکلیف نہ دو اور ہاتھ سے تکلیف نہ دو۔ اس کا جواب یہ ہے یہیں کہ جو اعضاء تکلیف پہنچانے میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں وہ صرف دو ہیں زبان اور ہاتھ۔ لات کی نوبت تو بہت کم آتی ہے۔ تو جب کثیر الاستعمال (زیادہ استعمال ہونے والے) اعضاء کو تکلیف پہنچانے سے حفاظت کی مشق ہو جائے گی تو پاؤں سے مارنے کی تو بہت کم نوبت آتی ہے، اس کا قابو میں کرنا تو بہت آسان ہو جائے گا۔

ایک ہندو نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحنفی صاحب سے پوچھا تھا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی ایذا رسانی سے صرف مسلمان بچ رہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ غیر مسلموں یعنی ہندوؤں اور کافروں کو خوب ایذا پہنچائی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں! کیونکہ مسلمان کا واسطہ کثرت سے مسلمانوں ہی سے پڑتا ہے تو جب اکثر آپس میں ساتھ رہنے والے اپنے رہن میں ایک دوسرے کو اذیت سے بچالیں گے تو ہندوؤں سے ملاقات اور لین دین تو کبھی کبھی ہوتا ہے ان کو بدرجہ اولیٰ مسلمانوں سے سلامتی رہے گی۔ جیسے دو برتن جو ساتھ رہتے ہیں جب ان میں کھٹ پٹ نہیں ہوتی تو جو برتن دور رہتے ہیں ان سے کیسے اڑائی ہوگی۔ البتہ حالتِ جہادِ مستثنی ہے لیکن عام حالات میں جب غیر مسلم صلح کر لیں یا مسلمانوں کو نہ ستائیں تو بدرجہ اولیٰ مسلمانوں کے زبان و ہاتھ سے امن میں رہیں گے کیونکہ ان سے زیادہ معاملہ نہیں پڑتا۔ یہ جواب شیخ نے دیا جو مجھ سے نقل فرمایا۔

ایک علمی اشکال علامہ یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے اور فرمایا کہ یہ بتائے کہ کیا زبان سے کوئی تکلیف دے سکتا ہے۔ زبان میں تو ہڈی بھی نہیں، گوشت کا ایک نرم سا ٹکڑا ہے۔ زبان سے اگر کوئی کسی کو مارے تو کیا چوٹ لگے گی یا زبان کے الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا **الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْفَاظِ لِسَانِهِ** یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے الفاظ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ بعض وقت بغیر الفاظ کے بھی زبان سے لوگ تکلیف دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کو مکال بلاغت دیا گیا تھا اس لیے آپ نے **مِنْ الْفَاظِ لِسَانِهِ** نہیں فرمایا تاکہ اس حدیث میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں مَنْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ اسْتَهْزَأَ جو کسی کا مذاق اڑانے کے لیے زبان کو نکال کر ہلا دیتے ہیں۔ اس وقت وہ شخص زبان سے بالکل کوئی الفاظ نہیں نکلتا صرف زبان کو نکالا اور چڑانے کے لیے ذرا سا ہلا کر بھاگ گیا۔ اکثر بچے ایسا کرتے رہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ پٹائی ہو رہی ہے اور بدلنہیں لے سکتے تو ایسا کر کے بھاگ جاتے ہیں کبھی بعضے بڑے بھی کر جاتے ہیں کہ

زبان کو باہر نکالا اور دائیں بائیں کو ہلا دیا۔ اور اس طرح مذاق اُڑا دیتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے۔ دیکھئے کلام نبوت کی کیا بِلَاغَتٌ ہے **الْمُسِّلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ** فرمایا کہ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے جو صرف زبان سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں اگرچہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتے۔ اگر مِنَ الْفَاظِ لِسَانِهِ ہوتا تو زبان سے تکلیف پہنچانے والے اس حدیث میں شامل نہ ہوتے۔ یہ کلام نبوت کی بِلَاغَتٌ کا اعجاز ہے۔ (حقوق النساء، صفحہ: ۹۔ ۱۱)

حدیث نمبر ۵۵

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثْرَيْنِ قَطْرَةً دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةً دَمٍ تُهْرَافُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.....

(سنن الترمذی، کتاب فضل الجہاد عن رسول اللہ ﷺ، ج: ۱، ص: ۲۹۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں۔ ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہوا دروس اخون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔

گڑگڑا کر معافی مانگنے والوں کے لیے علامہ آلوتی تفسیر روح المعانی پارہ ۳۰ سورہ انزالنا کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو زبان نبوت سے نکلے مگر نبی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گڑگڑا کر معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے آپ مجھ کو معاف کر دیجئے، قبر میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا تو اس کا یہ گڑگڑا نا اننا اللہ کو پسند ہے کہ اس کے گڑگڑا نے کی اس آواز کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی سمجھان اللہ کی تسبیحات سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب حدیث قدسی کے الفاظ بھی سن لیجئے۔ اہل علم حضرات تفسیر روح المعانی پارہ ۳۰ سورہ انزالنا کے ذیل میں اس حدیث کو دیکھ لیں۔ سورہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں:

لَا يُنِيبُ الْمُذَنبِينَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسیع المثانی، سورۃ القدر، ج: ۳۰، ص: ۱۹۶)

گنہگاروں کا رونا، آہ کرنا، گڑگڑا ناجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سمجھان اللہ سمجھان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور بانی دیوبند مولانا قاسم صاحب نانو توی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب بات فرمائی جس کو میں نے اپنے شیخ و مرشد اول شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بارہ سنا جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے اور حضرت مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے

معاصرین میں سے تھے۔ یہ دونوں بزرگ یعنی میرے مرشد شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جون پور میں ساتھ پڑھاتے تھے۔ اسی لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ حضرت آپ خالی میرے پیر بھائی نہیں ہیں، آپ کو میں اپنے استاد کے درجہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ میرے استاد مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھاتے تھے۔

مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس ملک میں بادشاہ کوئی چیز باہر سے منگاتا ہے کسی دوسرے ملک سے درآمد یعنی امپورٹ کرتا ہے اس کی زیادہ عزت و قدر کرتا ہے کیونکہ بادشاہ کے ملک میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالتِ شان کی جو بارگاہ ہے وہاں آنسو نہیں ہیں اس لیے وہ ہمارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں کیونکہ آنسو تو گنہگار بندوں کے نکتے ہیں، فرشتے رونہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس ندامت تو ہم گنہگاروں کو حاصل ہے۔ ان کو قربِ عبادت حاصل ہے قربِ ندامت حاصل نہیں۔ قربِ ندامت تو ہم گنہگاروں کو حاصل ہے۔ اس لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعترافِ قصور ہے
ہے ملک کو نہیں جس کی خبر وہ حضور میرا حضور ہے

اللہ والوں کو ندامت کا جو حضور ہے فرشتوں کو یہ نعمت حاصل نہیں کیونکہ ان سے خطائیں نہیں ہوتیں وہ بے چارے ندامت کیا جائیں، وہ تو مقدس مخلوق ہیں ہر وقت سبحان اللہ پڑھر ہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی کہ جس کی ندامت کو دیکھیں یعنی بعض بندے باوجود عزم علی التقویٰ کے کبھی تقاضائے بشری سے مغلوب ہو کر خطا کر دیں گے تو اس غم سے کہ ہائے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، ان کا دل خون ہو جائے گا اور وہ ندامت سے آہ وزاری کر کے معافی مانگ کر ہم کو راضی کریں گے اور ہم اس ندامت کی راہ سے ان کو اپنا قربِ عطا فرمائیں گے۔ (حقوق النساء)

حدیث نمبر ۵۶

﴿وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ظُنُوا بِالْمُؤْمِنِ خَيْرًا﴾

(تفسیر کبیر، ج: ۱۲، ص: ۱۳۲)

ترجمہ: بندہ مؤمن سے نیک گمان رکھو۔

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مؤمن کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ اس

حدیث کی شرح میں علماء ربانيین فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے اندر نانوے دلائل ہوں بدگمانی کے لیکن ایک راستہ ہو سین طن کا تو عافیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن طن کے اس ایک راستے کو اختیار کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اڈل فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقدمہ دائر فرمائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بدگمانی کے تمہارے پاس کیا دلائل تھے اور نیک گمان پر بلا دلیل انعام عطا فرمائیں گے۔ حسن طن پر بغیر دلیل کے ثواب ملتا ہے کیونکہ امر ہے ظُفُوا بالْمُؤْمِنِ خَيْرًا لِهُذَا مقدمہ میں جان پھنسانا بے وقوفی، حماقت اور نادانی ہے۔ حضرت نہس کر فرماتے تھے کہ احمد ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب لینے کے بجائے اپنی گردان پر مقدمات قائم کرنے کے انتظامات کر رہا ہے اور اپنے لیے مصیبیں تیار کر رہا ہے۔ نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لو اور بدگمانی کر کے دلائل پیش کرنے کے مقدمات میں اپنی جان کو نہ پھنساؤ۔

حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتراض کا منشاء دو ہوتا ہے۔ قلت محبت اور قلت علم یعنی اعتراض عموماً دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے یا تو اس کے اندر محبت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر نہایت درجہ کا جاہل ہوتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث اور فقہ کے اصول اس کے سامنے نہیں ہوتے اس لیے جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے اور فرمایا کہ ہماری خانقاہ میں دو ہی قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا تو انہی کی درجہ کا فقیہ ہو کہ میرے ہر عمل کو سمجھ جائے کہ یہاں فقہ کا فلاں قانون لا گو ہو سکتا ہے یا پھر انہی کی درجہ کا عاشق ہو جس کو سوائے بھلانیوں کے کچھ نظر ہی نہ آئے کیونکہ عاشق کو تو محظوظ کی ہر ادا پسند آتی ہے اور اگر نہ اس میں محبت کامل ہے نہ علم کامل ہے تو ایسے لوگ پھر محروم ہی رہتے ہیں پس دینی خدّام پر اعتراض اور ان کے فیوض و برکات سے محرومی کے یہ دو ہی سبب ہیں یا محبت کی کمی یا علم کی کمی۔

دیکھئے تھا نہ بھون جیسا قصبہ جہاں اپنے زمانہ کا مجد دموجود تھا، جب دور دور سے بڑے بڑے علماء اور بزرگ آتے تھے تو قریب کے رہنے والے یعنی قصبہ کے بعض لوگ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کلکتہ سے، مدراس سے، بمبئی سے، اعظم گڑھ سے، جوں پور سے چلے آ رہے ہیں، کیسے بے وقوف لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی خاص بات ان بڑے میاں میں نظر نہیں آتی لہذا دور دور کے لوگ کامیاب ہو گئے اور قریب کے لوگ جنہوں نے قدر نہ کی محروم رہ گئے۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حاجی صاحب! آپ تو کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہیں پھر ان علماء کو کیا ہو گیا کہ مولا نا گنگوہی جیسا عالم مولانا قاسم نانوتوی جیسا عالم اور

حضرت حکیم الامت جیسا عالم آپ سے مرید ہو گیا ہے مجھے تو اس بات پر سخت صدمہ اور تعجب ہے کہ یہ علماء کیوں آپ سے بیعت ہو گئے۔ اب حاجی صاحب کا جواب سن لیجئے فرمایا کہ جتنا آپ کو تعجب ہے اس سے زیادہ مجھے تعجب ہے کہ یہ علماء اور علماء بھی ایسے کہ علم کے سمندر نہ جانے مجھے جیسے کے ہاتھ پر کیوں بیعت ہو گئے۔ یہ حاجی صاحب کا کمال توضیح تھا لیکن یہ بدگمانی اور اعتراض کرنے والا کوئی بہت ہی محروم شخص تھا۔ اس کے برعکس ان حضرات کے اندر کتنا ادب تھا۔ حاجی امداد صاحب نے ایک رسالہ لکھا اور مولانا قاسم نانو توی کو دیا اصلاح کے لیے۔ اس میں علمی لحاظ سے کوئی لفظ مسودہ میں غلط ہو گیا تو مولانا قاسم صاحب نے اس مقام پر یہ نہیں لکھا کہ حضرت آپ سے یہاں غلطی ہوئی ہے بلکہ وہاں دائرہ بنائی کریں لکھ دیا کہ حضرت یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اللہ کیا ادب تھا! نقش کی نسبت شیخ کی طرف نہیں کی، اپنی سمجھ کی طرف کر دی۔ (بدگمانی اور اس کا علاج، صفحہ ۲-۳)

حدیث نمبر ۷۵

﴿سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي كَرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذِي كَرَاتُ﴾

(صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعا، باب الحث على ذكر الله تعالى، ج: ۲، ص: ۳۲۱)

ترجمہ: مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کوں لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔

حدیث میں آتا ہے سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ مفردون یعنی عاشقون بازی لے گئے، وہ لوگ جو عاشقانہ ذکر کرتے ہیں۔ الْمُفَرِّدُونَ کا ترجمہ عاشقوں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ پھر میں نے ملا علی قاری کی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ دیکھی کہ الْمُفَرِّدُونَ کی انہوں نے کیا شرح کی ہے ملکی قاری فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ لَا لَذَّةَ لَهُمُ الْأَيْدِيْرُ وَلَا نَعْمَةَ لَهُمُ الْأَيْشُكُرُه﴾

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الدعوات، باب ذکر الله عز وجل ج: ۵، ص: ۳۲)

مفردون سے مراد اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا وہ طبقہ ہے جن کو دنیا میں کہیں مزہ نہ آئے سوائے اللہ کے نام کے۔ یہوی بچ، کھانا پینا، تجارت مکان انہیں جب اچھا معلوم ہوتا ہے جب پہلے اللہ کا نام لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے بعد ان کو دنیاوی نعمت میں لذت ملتی ہے اور کوئی نعمت انہیں نعمت نہیں معلوم ہوتی مگر جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔

شیخ محمد الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے

ایک دوسری روایت نقل کی ہے کہ مفردون کے معنی ہیں کہ جو حالت ذکر میں وجد میں آ جائیں الَّذِينَ اهْتَرُوا فی ذِكْرِ اللَّهِ صفحہ جلدہ کتاب الذکر) اہتہراز کے کیا معنی ہیں؟ جب بارش ہوتی ہے تو زمین پھولتی ہے، حرکت میں آ جاتی ہے تو معنی یہ ہوئے کہ یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نام سے ان میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جھوم جاتے ہیں ایسی لھجاؤا بہ لیتی خدا پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ میں جب ہر دوئی گیا تو حضرت مولانا شاہ ابرا الحق صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں بہت مزہ آیا۔ اللہ والوں کی معیت بہت پر کیف ہوتی ہے۔ میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت کی خدمت میں بہت مزہ آ رہا ہے کیوں کہ اس چوکھٹ سے بڑھ کر کس کا دروازہ ہو سکتا ہے جس سے اللہ مل جائے۔ (منازل سلوک، صفحہ: ۲۰-۱۹)

حدیث نمبر ۵۸

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

کلمہ طیبہ کے معانی

اج لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ لا إِلَهَ کے معنی غیر اللہ سے دل کو نہیں لگانا۔ جتنے باطل خدا ہیں خواہ وہ جاہ کے ہوں خواہ باہ کے ہوں یا حسن کے ہوں، ان باطل خداوں سے قلب کو پاک کر لوتب لا إِلَهَ ملے گا۔ ایک فوج کے افسر نے مجھ سے پوچھا کہ لا إِلَهَ کیسے مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے کہا جتنا لا إِلَهَ مضبوط ہو گا تاہی لا إِلَهَ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر باطل خداوں سے قلب پاک نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گندم لگائے لیکن وہیں دوسرے گھاس پودے پیدا ہو جائیں تو گندم کی کھاد اور پانی کو دوسری گھاس اور پودے لے لیں گے اور گندم کمزور رہ جائے گا۔ غیر اللہ دل میں ہو گا تو لا إِلَهَ کی صحیح کیفیت محسوس بھی نہ ہوگی۔ دس ہزارو پے والا عطر عود ایک شخص نے لگایا مگر ملی کا پاخانہ بھی لگا لیا اور ایک مہینے سے غسل بھی نہیں کیا تھا۔ پسینے کی بد بواری ہے۔ بتائیے عطر عود کی خوبی محسوس ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لا إِلَهَ سے گویا قلب و روح کو دنیا کی بد بوار پسینے اور غیر اللہ کی آلاش سے پاک فرمایا پھر لا إِلَهَ کا عطر عطا فرمایا۔ غیر اللہ کی نفعی کو مقدم کیا۔ کلمہ کا یہ پہلا جز ہے۔ لیکن غیر اللہ سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا کس طرح سے ہو گا۔ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ سنت سے اللہ ملے گا اور طریقہ سنت پر چلنے والے کون ہیں؟ اللہ والے تبعین سنت عارفین ہیں ان سے ہی سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ پوچھنا پڑے گا:

﴿الرَّحْمَنُ فَاسْتَلْ بِهِ خَيْرًا﴾

سورة الفرقان، آیہ: ۵۹

رحمٰن کی شان کو باخبر لوگوں سے یعنی اللہ والوں سے پوچھو، علامہ آلوی السيد محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ خبیرا سے مراد عارفین ہیں۔ دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے محبت ہوتی ہے کسی کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ (تمکیل معرفت، صفحہ: ۷-۹)

بعض لوگوں کو رزق اور عمدہ غذاوں کا شوق ہے۔ یہ لا إله کی تفسیر ہو رہی ہے۔ مال کی نفی ہو چکی۔ اب نمبر آرہا ہے اچھی اچھی غذاوں کا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کھانے کے اتنے حریص ہیں کہ دعوت اگر مل جائے تو جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ افطار کا وقت ہے، وہی بڑے ٹھونستے چلے جا رہے ہیں۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے مگر وہی بڑا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ میں پہلے نکلوں گا حلق سے۔ کیوں کتم نے یہاں تک ٹھونسا ہوا ہے۔ اول تو جماعت کی نماز چھوڑنا جرم، پھر اتنا ٹھونسنہ کا حلق سے غذاباً ہرنے لگے یہ بھی جائز نہیں۔ صحت کے لیے مضر ہے اتنا کھانا کیسے جائز ہو گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جن کو اپنے اچھے کھانے کا شوق ہے تو بے شک رزق اچھا مل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مگر رزاق کی محبت پر رزق غالب نہ آئے، نعمت کی محبت جب نعمت دینے والے کی محبت پر غالب ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ شخص ناشکرا ہے۔ اس لیے علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو مقدم فرما لیا شکر پر فاذ کرُونی اذْكُرْكُمْ تُمْ يَاذْكُرْ وَ مُجَھَّهُ اطاعَتْ سے۔ یہ تفسیر بیان القرآن میں ہے کہ تم یاد کرو مجھے اطاعت سے میں تمہیں یاد کروں گا اپنی عنایت سے وَاشْكُرُوا لِي علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ شکر کو اللہ تعالیٰ نے موخر بیان کیا ذکر کو مقدم فرمایا اس میں کیا حکمت ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان حاصلَ الْذِكْرِ الْأَشْتِغَالِ بِالْمُنْعِمِ ذکر کرنے والا نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہے وَإِنَّ حَاصِلَ الشُّكْرِ الْأَشْتِغَالِ بِالنِّعَمَةِ جو شکر کر رہا ہے وہ نعمت میں مشغول ہے۔ فَإِلَا شَيْغَالِ بِالْمُنْعِمِ أَفْضَلُ مِنَ الْأَشْتِغَالِ بِالنِّعَمَةِ ایک نعمت میں غرق ہے اور ایک نعمت دینے والے میں ڈوبا ہوا ہے یعنی اللہ کی یاد میں غرق ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کی یاد میں مشغول ہے اس کا درجہ بڑا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو مقدم فرمایا کہ اگر تم نے ہماری یاد نہ کی تو نعمتیں تم پر غالب ہو جائیں گی، تم رزق کے غلام بن جاؤ گے، عبد الرزاق کے بجائے عبد الرزق ہو جاؤ گے۔ نعمتوں کے پیچھے اتنا لگو گے کہ نعمت دینے والے کو فراموش کر دو گے لہذا ہماری یاد میں زیادہ لگوتا کہ نعمتوں پر ہماری محبت غالب رہے اور ان نعمتوں کا انجام بھی تو سوچو کہ کیا ہے۔ رات کو بریانی کھاتے ہو لیکن صبح کو بیت الخلاء میں کیا نکالتے ہو۔ امپورٹ کیسی اور ایکسپورٹ کیسی۔ لہذا

نعمت پر شکر تو کرو لیکن دل نہ لگاؤ۔ یہ ہو گیا دوسرا اللہ۔ پھر اللہ مال تھا، دوسرا خدا ہم نے کیا بنا یا ہوا ہے؟ رزق اور عمدہ غذا کیں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَ هَوَّاً﴾

(سورة الحجۃ، آیہ: ۲۳)

اے محمد! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا آپ نے نہیں دیکھا کہ بعض لوگوں نے اپنے نفس کی خواہش کو اپناخدا بنا یا ہوا ہے۔ لہذا لا إلهَ كُلُّ نَفْيٍ، تَوْحِيدٌ كَامِلٌ اس شخص کو حاصل نہیں ہے جو جاہ کا اور مال کا اور حسن کا غلام بنا ہوا ہے۔ زبان سے کتنا ہی توحید تو حید کہتا رہے لیکن توحید عملی یہ ہے کہ جاہ کی نفی کرو، باہ کی نفی کرو، مال کی نفی کرو۔ یعنی ما سوا اللہ پر اللہ کی محبت کو غالب رکھو۔ اسی طرح رزق کے معاملہ میں پلاو، بریانی، کباب بے شک حلال اور جائز ہے لیکن اتنا نہ ہو کہ جس کی محبت میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں۔ دو چیزوں کی نفی ہو گئی۔ مال کی اور رزق کی۔

تیسرا اللہ باطل حب جاہ ہے

نمبر تین ہے حب جاہ، ایک انسان کو اگر سارا الہ ہو رسلام کرے اور کہ کہ جناب آپ بہت معزز آدمی ہیں تو اس کی عزت میں ایک اعشار یا اضافہ نہیں ہو گا۔ ہاں اس بندے سے جس کو سارا الہ ہو رسلام کر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوش ہو جائیں تب سمجھلو کہ اب اس کی قیمت ہے۔ غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے، غلاموں کی قیمت غلام اگر لگاتے ہیں تو میزان میں کیا آئے گا؟ غلام! غلام ثابت ایک لاکھ غلام تو میزان اور ٹوٹل غلام ہی تو ہو گا اور اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن راضی ہو جائیں تب سمجھو کہ اب ہماری قیمت ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا جزاۓ عظیم دے۔ اس حقیقت پر کیا عمدہ شعر فرمایا ہے کہ اے دنیا والو! اپنی قیمت پہلے سے مت لگاؤ، اپنے کوفنا کر کے رہو، مت کر رہو، نہ نماز پر ناز کرو نہ روزہ پر، نہ حج پر نہ زکوٰۃ پر۔ بس کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ یہ سوچو کہ قیامت کے دن نہ معلوم ہماری کیا قیمت لگے گی۔ اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبر سے بچاتا ہے کیوں کہ ہمیشہ ایک عظیم غم میرے سامنے ہے کہ قیامت کے دن نہ جانے اشرف علی کا کیا حال ہو گا۔ اولئکَ ابائیُّ فِجُنْتُمْ بِمِثْلِهِمْ۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہ کے علاج کے لیے ایک شعر کافی ہے۔

ہم ایسے رہے یاں کہ ویسے رہے

وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

دوسٹو! سوچو کہ اس میں کوئی لغت فارسی، عربی نہیں ہے۔ مگر یہ شعر کبر کے علاج کے لیے عجیب و غریب ہے۔

فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے علماء ہو گئے، اتنے بڑے تاجر ہو گئے تمام دنیا تعریف کر رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہماری کیا قیمت لگتی ہے۔ اگر اس دن اللہ ہم سے راضی ہو گیا تب ہماری قیمت ہے ورنہ دنیا کی جاہ و عزت و تعریف کسی کام کی نہیں۔

لہذا حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی قیمت نہ لگاؤ۔ اگر دنیا میں اپنی قیمت لگاؤ گے تو یہ انٹریشنل، بین الاقوامی حماقت ہو گی۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ کبر کا مرض ہمیشہ بے وقوف میں ہوتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ نتیجہ یعنی رزلٹ نکلنے سے پہلے کوئی طالب علم ناز و خرے کرے تو بے وقوف ہے یا نہیں۔ لہذا حب جاہ کا علاج ہو گیا۔

سب سے بڑا اللہ باطل حسنِ مجازی ہے

اب آئیے ایک مرض اور شدید ہے۔ وہ ہے حسنِ پرستی، اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے ”روح کی بیماریاں اور ان کا علاج“، شاید یہاں بھی مل جائے گی۔ اگر آپ اپنے نوجوان بچوں کو طلبائے کرام کو پڑھا دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ حسن کے ڈاکوؤں سے ان کی جوانی محفوظ رہے گی۔ میرے شیخ حضرت مولانا ابراہم حق صاحب دامت برکاتہم نے اس کتاب کی زبردست قدر فرمائی اور ایک صاحب کو خط میں لکھا کہ جس کا دل غیر اللہ سے لگ گیا ہوا ختر کی کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج اس کو سناؤ۔ (تمکیل معرفت، صفحہ ۱۲-۱۳)

تقاضا نے گناہ، گناہ نہیں ہے۔ تقاضے پر عمل کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ جیسے روزہ میں سو دفعہ دل چاہے کہ ٹھہڈا پانی پی لویکن جو شخص مجاہدہ کرتا ہے اور پانی نہیں پیتا تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ لہذا اگر تقاضا نے گناہ کو برداشت کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا تو یہ شخص بہت بڑا ولی اللہ ہو گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کیوں کہ اس کا مجاہدہ شدید ہے تو اس کا مشاہدہ بھی شدید ہو گا۔ جتنا زیادہ مجاہدہ ہو گا اتنا ہی زیادہ مشاہدہ ہو گا۔

نوِ تقویٰ لا الہ کے منفی اور لا اللہ کے ثابت تاریخ سے پیدا ہوتا ہے

یہ تقاضے گناہ کے ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، تقویٰ کی بنیاد اسی پر ہے کہ تقاضا ہو پھر ہم اس پر عمل نہ کریں۔ ثابت و منفی دو تاریخ ہیں۔ گناہ کا تقاضا ہوا یہ منفی تاریخ ہے۔ ہم نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچایا یہ ثابت تاریخ ہے۔ آج سائنس دانوں کی تحقیق ہے کہ دو تاروں سے دنیا کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ نے دونوں تاریخیں دے دیئے۔ لا الہ کا منفی تارا اور لا اللہ کا ثابت تار دنوں تاریخ سے ایمان اور تقویٰ کا نور اور ولایت کا نور ملتا ہے۔ لہذا آپ تقاضوں سے گھبرا کیں نہیں۔ جتنا زیادہ شدید تقاضا ہو سمجھ لو کہ ہمیں خداۓ تعالیٰ اپنا بہت بڑا ولی بنانا چاہتے ہیں بشرط توفیق تقویٰ۔ لیکن یہ توفیق اور ہمت ملتی ہے اہل ہمت کی صحبت سے

حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تین کام کرو تو تقویٰ والے بن جاؤ گے:
 نمبر۱۔ خود ہمت کرو۔
 نمبر۲۔ ہمت کی خدا سے دعا کرو۔

نمبر۳۔ اہل ہمت کی صحبت میں رہو اور ان سے عطا یہ ہمت اور استعمال ہمت کی دعا کراؤ۔
 اگر ہم نے ان پر عمل کر لیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ سو فیصد ہم سب ولی اللہ ہو جائیں گے:

نمبر۴۔ کسی اللہ والے سے جس سے مناسبت ہو تعلق قائم کرنا یعنی صحبت اہل اللہ کا اہتمام۔

نمبر۵۔ اس سے پوچھ کر ذکر کا دوام۔ اب تیسری چیز رہ گئی گناہوں سے بچنے کا التزام اور گناہ سے بچنا موقوف ہے اہل اللہ کی صحبت پر۔ کتنا ہی انسان پڑھ لے، پڑھاے امامت کر لے، چلے لگا لے مگر تقویٰ جب ہی ملے گا جب اہل تقویٰ کی صحبت نصیب ہوگی۔ جس پر آیت کو نُوْ اَمَّعَ الصَّادِقِينَ دلالت کرتی ہے یعنی کو نُوْ اَمَّعَ الْمُتَّقِينَ اور صادق اور متقدی ایک ہی چیز ہے جس کی دلیل یہ آیت ہے:
 ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

(سورة البقرة، آیہ: ۲۷)

(تکمیل معرفت)

حدیث نمبر ۵۹

﴿مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأَذَارِ فِي النَّارِ﴾

(صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب ما اسفل من الكعبین ففي النار، ج: ۲، ص: ۸۲۱)

ترجمہ: ٹھنڈے کاجتنا حصہ ازار سے چھپے گا جہنم میں جائے گا۔

اسباب ازار کی وعید

بخاری شریف کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأَذَارِ فِي النَّارِ اے ایمان والو! جتنا تمہارا ٹھنڈے چھپے گا، چاہے جب ہو، چاہے کرتا ہو، ازار ہو، توب ہو، اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ بذل الجھو دشراج ابو داؤد میں لکھتے ہیں کہ اس لباس سے مراد وہ لباس ہے جو اوپر سے آرہا ہے۔ اگر نیچے سے آرہا ہے جیسے موزہ پہن لے اور ٹھنڈے چھپ جائے تو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں۔ بلکہ ٹھنڈک میں اپنے پیروں کو چھپالو، اجر بھی ہے۔ تو اوپر سے جو

لباس آرہا ہے اس سے ٹخنے کو چھپا نہیں سکتے۔

ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر دس کتاب اللباس میں فرماتے ہیں

کہ چار وجہ سے ٹخنوں کا چھپانا حرام ہے:

نمبر۱۔ مِنْ جِهَةِ التَّشَبِّهِ بِالنِّسَاءِ عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے۔

نمبر۲۔ مِنْ جِهَةِ التَّلُوُّثِ بِالنَّجَاسَةِ لٹکا ہوا پائچا جامہ نجاست سے ملوث ہوتا ہے۔

نمبر۳۔ مِنْ جِهَةِ التَّشَبِّهِ بِوَضْعِ الْمُتَكَبِّرِينَ متكبرین کی وضع سے مشابہ ہے۔

نمبر۴۔ مِنْ جِهَةِ الْإِسْرَافِ فضول خرچی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آدھے اچھے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کا قانون سارے عالم کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر ہے۔ اگر نوے کروڑ مسلمان ہیں تو نوے کروڑ اچھے ضائع ہو گیا۔ اس کا فٹ بناؤ، گز بناؤ، اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کپڑا ضائع ہوا۔

اور سن لو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا تو صرف منافقین ازارت کانے لگے تھے۔ کسی صحابی کے بارے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کا پائچا جامہ سے ٹخنے چھپا ہو۔ یہاں تک کہ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ افی حَمْشُ السَّاقِيْنَ میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں، بیماری ہو گئی ہے، مجھے مستشئ کر دیجئے کہ میں ٹخنے چھپا لوں تاکہ میر اعیب چھپ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شخص بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے نافرمانی تیری طرف سے ہو گی اماماً لَكَ فِي أُسْوَةٍ كَيَا مِيرَے اندر تیرے لیے نمونہ نہیں کہ میری لگنگی کتنی اوپنجی رہتی ہے۔

جو آدمی اس بیان ازارت کرتا ہے، ٹخنے چھپا تا ہے، اس پر چار عذاب ہوں گے:

۱۔ لَا يَكِلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ تَعَالَى قِيمَتُهُ دُونَ شَفَقَتٍ سَبَبَتْ بَاتُ نَهْيَنِ كَرِيسَ گے۔

۲۔ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتَ كَيْ نَظَرَ سَبَبَتْ بَاتُ نَهْيَنِ دِيَكِيسَ گے۔

۳۔ وَ لَا يُزَكِّيْهِمُ انْ كَوْتَفِيقِ اصْلَاحٍ نَهْيَنِ دَعَےَ گے۔ اور

۴۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْأَيْمَمِ در دنا ک عذاب ہو گا۔

مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان لَمْ يَتُبْ يَه عذاب جب ہو گا اگر توبہ نہ کرے اور اگر توبہ کر لی تو سب ختم، معافی ہو گئی۔ لہذا دوستو! ذرا اس کا خیال رکھو۔ آسمان ہی کی طرف نظر مت کرو زمین کی طرف بھی دیکھتے رہو کہ میرا ٹخنے چھپ تو نہیں رہا، یہ ذکر ذکر منفی ہے۔ اللہ کی عظمت کا حق ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ حکم قرآن میں تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ میرا بی جو تم کو حکم دے دے اس کو قرآن کا حکم سمجھو:

﴿وَمَا أَنْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

(سورة الحشر، آية: ۷)

میرانی جس بات کا حکم کرے اس کو رواہ جس سے منع کرے اس سے رُک جاؤ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، لہذا حدیث کو ماننا عین قرآن کو ماننا ہے اور حدیث کی نافرمانی قرآن پاک کی نافرمانی ہے۔ (محلہ ذکر صفحہ: ۳۲۵-۳۲۶)

یہ بخاری شریف کی حدیث ہے مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأَزَارِ فِي النَّارِ جس کا مذکونہ اوپر سے آنے والے لباس مثلاً شلوار، پاجامہ، لگنگی وغیرہ سے چھپا رہے گا اتنا حصہ جہنم میں جلنے گا، دوسرا حدیث میں ہے کہ جو تکبر سے ایسا کرے گا، اس حدیث کو لے کر آج لوگ خوب ہوشیار یاں اور چالاکیاں دکھار رہے ہیں کہ صاحب میراٹخنہ تکبر کی وجہ سے نہیں ڈھک رہا ہے حالانکہ بھی کسی صحابی نے مذکونہ نہیں ڈھکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ نکلا ہوا تھا اس لیے آپ کا پاجامہ لٹک جاتا تھا لیکن آپ ہر وقت اُس کو اہتمام سے اوپ کرتے رہتے تھے اور وحی الہی سے سرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس بات کا اعلان ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق تکبر سے پاک ہیں، آج کے زمانہ میں کس کو سرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستحق فرمایا؟ کس کے لیے وحی نازل ہوئی؟ لہذا جو لوگ مذکونہ ڈھک رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ایک لاکھ حدیثیں بمع راویوں کے ناموں کے زبانی یاد تھیں وہ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر ۶ میں تمام حدیثیں سامنے رکھ کر فیصلہ لکھتے ہیں فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيْثِ يَدْلُلُ عَلَى تَحْرِيْمِ الْأُسْبَابِ یعنی چاہے تکبر ہو یا نہ ہو ہر حال میں مذکونہ چھپانا حرام ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی حافظ الحدیث ہیں جنہیں ایک لاکھ حدیثیں مع اسناد کے زبانی یاد تھیں اور جنہوں نے بخاری شریف کی ۱۲ جلدیوں میں شرح لکھی ہے ان سے بڑھ کر آج کوئی کیا حدیث بیان کرے گا، آج تو چند کتابیں پڑھ لیں اور علامہ بن گنے، یہ لوگ علامہ نہیں ضلاً مہ ہیں۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی تمام مجموعہ احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيْثِ يَدْلُلُ عَلَى تَحْرِيْمِ الْأُسْبَابِ تمام احادیث دلالت کرتی ہیں کہ مذکونہ چھپانا حرام ہے۔

حدیث نمبر ۲۰

﴿لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِّيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ﴾

عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

(صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعا، باب فضل الاجتماع على ثلاثة القرآن، ج: ۲، ص: ۳۲۵)

ترجمہ: کوئی قوم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ

لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کی جماعت میں جو اس کے پاس ہوتی ہے۔

پہلی فضیلت

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں کچھ اللہ کے بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو فرشتوں کی ملاقات سے ہم پر اچھا اثر نہیں آئے گا؟ کیا وہ نیک صحبت نہیں ہے؟ لہذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیجئے۔ (مجلس ذکر، صفحہ: ۸۰)

عقل میں جو آجائے وہ خدا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ عقل محدود ہے، محدود میں غیر محدود کیسے آئے گا؟ اگر کسی کے عقل میں آجائے کہ خدا یہ ہے تو ہرگز وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ غیر محدود ہے وہ محدود عقل میں کیسے آئے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمادیا کہ خبردار مخلوق میں تو غور و فکر کرو مگر اللہ کی ذات میں مت سوچو، تمہاری قوتِ عقلیہ اور فکریہ محدود ہے، بھلا ایک گلاس میں مٹکے کا پانی آ سکتا ہے اور مٹکے میں حوض، حوض میں دریا آئے گا؟ دریا میں سمندر بھر سکتے ہو؟ جب چھوٹے محدود میں بڑا محدود نہیں آ سکتا تو محدود میں غیر محدود کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یاد کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں یَدُكُرُونَ اللَّهَ فَرَمَا يَادُكَرُو بُسْ اس یاد سے وہ دل میں آ جائیں گے تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں اور غور و فکر مخلوق میں کیا کرو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وَیَتَفَکَّرُونَ فیْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ فکر برائے مخلوق ہے اور ذکر برائے خالق ہے، اگر اس کے خلاف چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو ذکر اللہ کا ایک فائدہ بیان ہو گیا۔ لہذا جب ذکر کی مجلس آئیں تو یہ نیت بھی کر لیں کہ چلو فرشتوں کی ملاقات بھی کر لیں۔

دوسری فضیلت

وَغَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ اللَّهُ تعالِيٰ اپنی رحمت میں اپنے یاد کرنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں کس طرح ڈھانپتے ہیں؟ دیکھئے اس جملہ میں بڑا پیار ہے۔ اس کو محبت کے انداز میں سمجھئے۔ ماں جب اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے تو کس طرح لیتی ہے لے کر چپکا لیتی ہے اس کے بعد وہ پڑھ سے چھپا لیتی ہے پھر ٹھڈی بھی اس کے سر پر کھو دیتی ہے۔ یہی مفہوم ہے غشیَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ کا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔

نورِ او درِ یسر و یمن و تخت و فوق
بر سرم بر گردنم مانند طوق

اس کا نور ہمارے دائیں بائیں اور پر نیچے گھیر لیتا ہے۔ سر سے گردن ہر جگہ مانند طوق اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیتے ہیں۔ تو ذکر کی مجلس میں اس نیت سے آؤ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے اور پیار کر لے۔

تیسری فضیلت

وَنَزَّلْتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةً هُمْ أَنَّ كَدِلْرَ سَكِينَةً نَازِلَ كَرْتَهُ ہیں۔ علامہ سید محمود آلوی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں سکینہ کی تفسیر فرماتے ہیں فَإِنَّ السَّكِينَةَ هِيَ نُورٌ يَسْتَقْرُ فِي الْقَلْبِ سکینہ ایک نور ہے جو دل میں ٹھہر جاتا ہے۔ یہ دنیا کے نہیں کہ بس مسجد میں تو اللہ والے ہیں اور جہاں مارکیٹ میں گئے مار پیٹ شروع کر دی۔ ہر جگہ وہ نور ساتھ ہوتا ہے۔ وَيَثْبُتُ بِهِ التَّوْجِهُ إِلَى الْحَقِّ جس کو سکینہ کا نور ملتا ہے پھر وہ ہر وقت باخدار ہتا ہے۔ چاہے وہ دنیا کا بھی کام کر رہا ہو لیکن وہ خدا کو فراموش نہیں کرتا۔

چوتھی فضیلت

وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ چوتھی فضیلت ذکر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس والوں میں یاد کرتے ہیں۔ اگر تم ہم کو تہبا یاد کرو گے تو ہم بھی تہبا میں تھمہیں یاد کریں گے اور اگر تم مجتمع میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی تم کو فرشتوں کے مجتمع میں اور نبیوں کے مجتمع میں یاد کریں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی قبر جنت المعلی میں ہے اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حاضرین کی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں اور عنده سے مراد ہے عِنْدَ أَرْوَاحِ الْمُرْسَلِينَ وَعِنْدَ الْمُلَائِكَةِ الْمُفَرَّقَيْنَ عام مراد بھی ہے کہ فرشتوں کے مجتمع میں ذکر کریں گے مگر محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزاۓ خیر دے کہ انہوں نے شرح فرمائی کہ پیغمبروں اور رسولوں کی روحوں کو بھی حاضر کر لیتے ہیں اور ہاں ذکر کرنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ (محلی ذکر، صفحہ ۳۲-۳۳)

شرح حدیث بعنوانِ دگر

مسئلہ یاد کر لو کہ جب دین کی بات ہو رہی ہو تو نفل مت پڑھو، اجتماعی ثواب حاصل کرو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ دین کی کوئی بات سن لو گے تو ایک ہزار رکعت سے زیادہ ثواب ناما اعمال میں چڑھ جائے گا۔ اس حدیث کے ساتھ بے پرواہی اور مذاق اور ناشکری مت کرو۔ اس فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکر یہ ہے کہ جب کوئی دینی اجتماع ہو تو نفل کے بجائے اس اجتماع میں شریک ہو جاؤ اور اس کے چار فائدے الگ مترا ملیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے:

﴿لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلِئَكَةُ وَغَشِّيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ﴾

جب کوئی قوم اجتماعی ذکر میں مشغول رہتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں یعنی فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔

تو دائرہ رحمت سے ایگزٹ (Exit) کیوں کر رہے ہو، دائرة رحمت سے خروج کیوں کر رہے ہو۔ جس کے پاس حسن ظن سے آتے ہواں کی بات ماننا چاہیے اور تیسرا فائدہ ہے:

﴿وَنَزَّلْتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ﴾

اس اجتماع کی برکت سے ان کے قلب پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اور جب سکینہ نازل ہو گا تو ہر وقت اللہ کی طرف آپ کا قلب متوجہ رہے گا کیونکہ:

﴿إِنَّ السَّكِينَةَ هِيَ نُورٌ يُنْجِبُ بِهِ التَّوْجِهَ إِلَى الْحَقِّ وَيَتَحَلَّصُ عَنِ الطَّيْشِ﴾

جس کے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے اس کی توجہ اللہ کی طرف قائم رہتی ہے۔ اور وہ انتشارِ ذہنی اور ڈپریشن سے بلا آپریشن محفوظ رہتا ہے ان شاء اللہ۔ اور چوتھا فائدہ ہے:

﴿وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ﴾

(صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعای، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، ج: ۲، ص: ۳۲۵)

اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں کے سامنے یعنی ملائکہ مقریبین اور ارواح انبیاء والمرسلین کے سامنے ان بندوں کا تذکرہ بطور افتخار کے فرماتے ہیں۔ ملائکی قاری کی عبارت یہ ہے:

﴿أَيُّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقْرَبِينَ وَأَرْوَاحِ الْأَنْبِيَا وَالْمُرْسَلِينَ﴾

(المرقاۃ المفاتیح، کتاب الدعوات، باب ذکر الله عز وجل والتقدیب اليه، ج: ۵، ص: ۳۳)

اسی حدیث سے اجتماعی ذکر کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ حضرت حکیم الامت مجدد المحدثین مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التشرف فی احادیث التتصوف میں لکھا ہے۔ میں نے التشرف کے اس صفحہ کا فوٹو لیا اور اپنے شیخ کو دکھایا تو حضرت نے ہر دوئی میں فوراً اجتماعی ذکر شروع کر دادیا۔
(مقام اولیاء صدقین اور اس کا طریقہ حصول صفحہ ۶۷)

حدیث نمبر ۶۱

﴿مَنْ لَزِمَ الْاسْتِغْفارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَحْرَجاً وَمَنْ كُلِّ هِمٍ فَرَجاً وَرَزَقَهُ مِنْ حَبْثٍ لَا يَحْتَسِبُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ بَنْيِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَابُونَ﴾

(مشکوہ المصایب، کتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبۃ، ص: ۲۰۲)

ترجمہ: جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دیں گے اور ہر غم سے کشادگی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جس کا اسے گمان بھی نہ ہو گا اور

آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام ابن آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار کثرت سے استغفار کرنے والے ہیں۔

بہترین خطا کار

حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو! تم سب کے سب خطا کار ہو لیکن تم بہترین خطا کار بن جاؤ۔ بہترین خطا کار کیسے بنے؟ جو توہ کر لے وہ بہترین خطا کار ہے۔

اس پر میرے شاگردوں نے پوچھا کہ خطا تو شر ہے خیر کیسے لگا دیا؟ اس کا جواب میں نے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ کی کمیکل میں یہ کرامت ہے جیسے شراب میں سرکہ ڈال دو تو ساری شراب سرکہ بن جائے گی اور قلب ماہیت سے حلال ہو جائے گی۔ تو خطا تو شر ہے لیکن توبہ کی برکت سے بہترین خطا کار ہو جائے گا۔ شرکو اللہ تعالیٰ خیر بنادیں گے۔

پھر ایک سوال اور پیدا ہوا کہ خیر الخطا میں میں خطا میں بھی مٹا دیتے خالی خیر رکھتے۔ خطا کار کی نسبت سے تو شرم آ رہی ہے میں نے کہا کہ خطا میں عربی ترکیب میں مضاف الیہ ہے اور عبارت میں مقصود مضاف ہوتا ہے جیسے جاء غلام زید کا غلام آیا۔ اس میں غلام کا آنا مقصود ہے تو یہاں مراد خیر ہی خیر ہے لیکن خطا میں کو اس لیے باقی رکھا تاکہ توبہ کی کرامت معلوم ہو کہ تم تھے تو خطا کار لیکن توبہ کی برکت سے بہترین خطا کار ہو گئے۔

فوائدِ استغفار

دوسری حدیث پڑھی تھی استغفار و توبہ کے متعلق اور بہتر یہ ہے کہ دور کعut پڑھ کر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور یہ کہے کہ اے اللہ! تیری رحمت میرے گناہوں سے بہت بڑھی ہوئی ہے، ایک کروڑ گناہ بھی معاف کرنا تیرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرے گا تو:

۱۔ ہر مصیبۃ سے اللہ اس کو نکال دے گا۔

۲۔ غم سے نجات دے گا اور

۳۔ ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو گا۔

انعاماتِ تقویٰ

دوستو! استغفار کے یہ تین انعامات زبان نبوت نے بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات گناہوں کے چھوڑنے اور تقویٰ اختیار کرنے کے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص تقویٰ

اختیار کرے گا ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے سب کام آسان کر دیں گے۔ آپ کا کوئی دوست روزانہ آپ کے پاس آ کر آپ کا دل بہلاتا ہوا اور پھر وہ کسی مصیبت میں پھنس جانے کی وجہ سے نہ آئے تو اگر آپ واقعی دوست ہیں تو فوراً اس کی مصیبت کو ظال نے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ پھر آتار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے کی آہ وزاری، اس کی مناجات اور اس کا اللہ اللہ کرنا محبوب ہے۔ جب وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تاکہ میرابندہ پھر میرے حضور میں آئے جلدی سے مصیبت ٹالنے کا راز یہ ہے۔ رازِ دوستی ہے۔ تو اللہ تقویٰ کی برکت سے اپنے دوستوں کا کام آسان کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے پر اس کو مصیبت سے مخرج (Exit) دیتے ہیں۔ جدہ میں لکھاڑ ہتا ہے ایک طرف مخرج اور ایک طرف (Exit) یعنی ہر مصیبت سے نجات دیتے ہیں اور ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اگر تم گناہ چھوڑ دو تو تم کو ہم ایک نور عطا کریں گے جس سے تمہیں بھلائی اور برائی میں تعمیر پیدا ہوگی اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ پر یہ سارے انعامات تو ہم دیں گے ہی، سب سے بڑا انعام یہ دیں گے کہ تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیں گے۔ یعنی تم کو ولی اللہ بنادیں گے۔ اس سے بڑھ کر تقویٰ کا کیا انعام ہو سکتا ہے۔ (راوی مختار، صفحہ: ۳۵-۳۸)

توبہ و استغفار پر بھی تقویٰ کے انعامات

اب دیکھئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم کہ قرآن پاک میں متقيوں کے لیے جو فضیلیتیں بیان کی گئی ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کے لیے بھی وہ فضیلیتیں بیان کیں۔ توبہ کرنے والوں کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو یہ کرو تمہیں بھی وہ نعمتیں ملیں گی جو متقيوں کو ملتی ہیں، مخرج یعنی نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے نجات مل جائے گی اور تمہیں رزق ایسی جگہ سے دیں گے وہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پر جو نعمتیں بیان فرمائیں میں رحمۃ اللعلیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گناہوں سے استغفار و توبہ کرنے والوں کو بھی وہی نعمتیں دلدادیں۔

ملاعی قاری نے حدیث کی شرح میں لکھ دیا کہ إِنَّ الْمُسْتَغْفِرِينَ نُزِّلُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُتَّقِيِّينَ یعنی معافی مانگنے والے اللہ کے اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ﴾

(سورة البقرة، آیہ: ۲۲۲)

یعنی اے گنجہگارو! تم توبہ کرو ہم تمہیں صرف معافی ہی نہیں دیں گے بلکہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنالیں گے۔ دیکھو فرمائے ہیں کروڑوں کروڑوں گناہ کرلو، اگر ایک دفعہ اشک ندامت گراؤ بس سمجھ لو کہ کام بن گیا،

معافی ہو گئی۔ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتے۔
کیا ہے رابطہ آہ و فغاں سے
زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے

اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا سیکھو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب گنہگار بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔ علامہ ابوی سورۃ انمازلنا کی تفسیر میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب گنہگار بندہ رورو کر معافی مانگتا ہے تو ہمیں اس کے رونے کی آواز سجحان اللہ کہنے والوں کی آوازوں سے زیادہ پسند آتی ہے۔ بتاؤ اور کیا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی فرماتے ہیں خبردار رحمت سے نا امید مت ہونا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جیسے کوئی ابا کہے کہ خبردار بیٹو! مجھ سے نا امید مت ہونا ورنہ ڈنڈے لگا دوں گا۔ تو یہ انتہائی کریم ابا ہو گا ورنہ ابا کہتا نا امید ہو گیا تو جا بھاگ یہاں سے دوسرے بیٹے کو دے دوں گا۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں خبردار اگر مجھ سے نا امید ہو گئے تو جہنم کے ڈنڈے لگا دوں گا۔ یہ انتہائی کرم ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾

(سورة الزمر، آیہ: ۵۳)

اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ایک سینئنڈ میں معاف کر دیتا ہے۔ (راہِ مغفرت، صفحہ: ۳۶-۳۹)

حدیث نمبر ۲۲

﴿يَا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ ثِبْتُ قَلْبِيْ عَلَى دِينِكَ﴾

(سنن الترمذی، کتاب القدر، باب ماجاء ان القلوب بین اصبعي الرحمن، ج: ۲، ص: ۳۶)

ترجمہ: اے دلوں کو پلنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔

دین پر ثباتِ قدیمی کی مسنون دعا

بہ روایت بخاری شریف، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا سکھادی کہ یوں کہو اللہ سے۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اے ہماری ماں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آپ کے یہاں ہوتی تھی تو کون سی دعا زیادہ پڑھتے تھے؟ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے یا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ ثِبْتُ قَلْبِيْ عَلَى دِينِكَ اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھئے۔ تو جو مانگئے گا اس کو دیں گے۔

جو اللہ سے گڑگڑا کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیتے ہیں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کی استقامت خطرے میں رہتی ہو یعنی کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی توبہ توڑتا ہے، چند دن تو مستقیم رہتا ہے بعد میں ٹیڑھارستہ گناہوں کا اختیار کر لیتا ہے، ایسے شخص کو کثرت سے یا حی یا یقوم پڑھنا چاہیے۔ اس میں اسمِ اعظم ہے کہ اے زین اور آسمانوں کو سنبھالنے والے میرا دل سنبھالنا آپ پر کیا مشکل ہے اور یہ بخاری شریف کی دعا یا مُقْلِبُ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِينِكَ کثرت سے پڑھتے رہیے، دل لگا کر پڑھیے، درد سے پڑھیے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معموم ہونے کے باوجود کثرت سے پڑھتے تھے تو ہم کو آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے لہذا کثرت سے پڑھتے رہیے یا مُقْلِبُ الْقُلُوبِ اے دلوں کے بدلنے والے ثبت قَلْبِيْ عَلَى دِينِكَ ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم فرم۔ (اہل اللہ اور صراطِ مستقیم، صفحہ: ۷-۹)

حدیث نمبر ۲۳

﴿أَشْرَافُ أُمَّتِيْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيلِ﴾

(مشکوٰۃ المصایب، کتاب الصلوٰۃ، باب التحریض علی قیام اللیل، ص: ۱۱۰)

ترجمہ: میری امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن ہیں اور رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں۔

حافظ قرآن اُمت کے بڑے لوگ ہیں

سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن ہیں یعنی جو بچے حافظ ہو گئے یہ اُمت کے بڑے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو بڑے لوگ فرمائیں آج ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے ایسے جملے کہتے ہیں کہ میاں حافظ قرآن ہو گئے، اب جمعرات کی روٹیوں کا انتظار کریں گے۔ ارے امریکہ کی ڈگری لے آتے تو کچھ ہو جاتے۔ لا حول ولا قوٰۃ الا باللہ۔ (عظمت حفاظت کرام، صفحہ: ۲۳)

حملہ القرآن اور اصحابُ اللیل کا رابط

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن ہیں۔ لیکن جہاں قرآن شریف رکھا جائے وہ جزو دان قیمتی ہو یا گند اور کٹا پھٹا ہو؟ وہ تو صاف سترہ ہونا چاہیے اور وہاں خوشبو بھی ہونی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے حافظوں کے جسم و روح کے لیے ایک قید لگا دی اور وہ ہے اصحابُ اللیل تاکہ جس سینہ میں قرآن پاک ہواں میں چار قسم کی خوشبو بھی ہوئی چاہیے اور یہ خوشبو کیسے آئے گی؟

حافظ قرآن پاک کے لیے تہجد کی اہمیت

حملۃ القرآن کے بعد فوراً اصحاب اللیل فرمانا ظاہر کر رہا ہے کہ حافظ قرآن راتوں کی نماز بھی پڑھتے ہوں۔ جو حافظ قرآن اصحاب اللیل ہوں گے ان میں چار قسم کی خوشبو آجائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

﴿عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ
وَمُكْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمُنْهَاةٌ عَنِ الْأَثْمِ﴾

(سنن ترمذی، ابواب الدعوات، جلد: ۲، ص: ۱۹۵)

اے میری امت کے لوگو! رات کی نماز مت چھوڑنا، اس کو لازم پکڑلو، علی لزوم کے لیے ہے۔ اور چار قسم کی خوشبو کیا ملیں گی؟

- ۱۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ تم سے پہلے تمام صالحین کا شیوہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے صالحین ہوئے تمہارا نام ان صالحین کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے گا اور دوسرا خوشبو کیا ہے؟
- ۲۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ تم اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقرب بن جاؤ گے۔ تیسرا خوشبو کیا ہے؟
- ۳۔ وَمُكْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ تمہاری خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور خوبصورت چار کیا ہے؟
- ۴۔ وَمُنْهَاةٌ عَنِ الْأَثْمِ گناہ سے بچنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔

سارے عالم کے اولیاء اللہ کی دعائیں لینے کا طریقہ

قیام اللیل سے ایک فائدہ یہ ملا کہ سارے عالم کے صالحین، اقطاب، ابدال، غوث، اولیاء اللہ چاہے بیت اللہ میں ہوں یا مدینہ پاک میں یا عالم کے کسی گوشہ میں ان کی دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ دلیل سنئے۔ سارے عالم میں جتنے مسلمان نمازی ہیں چاہے بیت اللہ میں ہوں یا روضۃ المبارک میں وہ التحیات میں وَعَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ پڑھیں گے یا نہیں؟ تو فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ سے جب آپ صالحین میں داخل ہو گئے تو سارے عالم کے مسلمانوں کی دعا آپ کو مفت میں بلا درخواست مل جائے گی۔ حدیث پاک کا یہ جملہ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ اور التحیات کا یہ جملہ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ دونوں جملوں کو ملاؤ تو یہ مطلب ہوا کہ جو صالحین میں شامل ہو جاتا ہے سارے عالم کے اولیاء کی دعائیں اسے خود بخوبی ملتی ہیں۔ یہ عظیم اللہ تعالیٰ نے اختر کو عطا فرمایا، یہ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا لیکن اللہ والوں کی جوتیوں کے صدقہ میں کیا ملتا ہے اس کو مولانا رومی نے بیان فرمایا ہے۔

بنی اندر خود علوم انبیاء

اگر تم اللہ والوں کی غلامی کر لوتوا پنے سینہ میں فیضانِ علومِ انبیاء پاؤ گے۔

قیامِ اللیل سے گناہوں سے بچنے کی ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے اور حدیث میں یہ قید نہیں ہے کہ تین بجے رات ہی کو پڑھنے سے یہ طاقت آئے گی، عشاء کے بعد ہی اگر پڑھ لوتوا ان شاء اللہ تعالیٰ چاروں فائدے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ دنیوی اطباء یونان کا نسخہ نہیں ہے جس میں خطرہ ہو سکتا ہے کہ فائدہ کرے یا نہ کرے۔ طبٰ یونانی میں احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوا فائدہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ کرے لیکن طبٰ ایمانی کا ہر نسخہ سو فیصد مفید ہے بشرطیکہ بد پر ہیزی نہ کرے اور بد پر ہیزی کیا ہے؟ اسبابِ گناہ سے قریب رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُلَكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا اسبابِ گناہ کے قریب نہ رہو، امروں کے قریب نہ رہو، اٹر کیوں کے قریب نہ رہو جو لا تَقْرَبُوا رہے گا اور جو تَقْرَبُوا رہے گا ایک دن تَفَعَّلُوا ہو جائے گا۔ مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ امت کے بڑے لوگ حافظِ قرآن اور اصحابِ اللیل یعنی تہجدگذار لوگ ہیں اور تہجد کے چاروں اندیشیں کہ ان کا شمار صالحین میں ہو جائے گا یعنی وہ برے اخلاق سے پاک ہو جائیں گے اور اللہ کے مقرب ہو جائیں گے، ان کی خطائیں معاف اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ پس حفاظ کرام کی عظیم الشان ولایت کا یہ نسخہ ہے کہ وہ سب تہجدگذار ہو جائیں۔ یہ نسخہ ان کی عظمت کا علمبردار ہے۔

(تقریبِ ختمِ قرآن مجید و بخاری شریف، صفحہ: ۵-۱۵)

تہجد کا آسان طریقہ

اب کوئی کہہ کہ تین چار بجے رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے۔ بارہ بجے رات تک تو ہماری دکان کھلی رہتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ سب سو فیصد تہجدگذار ہو جائیں اور رات کو تین بجے بھی کسی کو نہ اٹھنا پڑے۔ وہ ابھی بتاتا ہوں لیکن آپ لوگ زندگی بھر مجھے جزا کے اللہ خیراً کہنا۔

عشاء کے چار فرض اور دو سنت پڑھنے کے بعد وتر سے پہلے دور کعات بہ نیت تہجد یا بہ نیت قیامِ اللیل پڑھنا کیا مشکل ہے، ان ہی دور کعات تہجد میں صلوٰۃ توبہ، صلوٰۃ حاجت، صلوٰۃ استخارہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ دو ہی رکعات میں کئی نیت کر کے ثواب کے مختلف فتم کے لذوں میں سکتے ہیں۔ دور کعات تہجد کے بعد معافی مانگ لیجئے کیونکہ صلوٰۃ توبہ کی نیت کی تھی الہذا توبہ کر لیجئے کہ دن بھر میں جو کچھ نالائقیاں ہو گئی ہوں تو اے اللہ معاف فرمادیجئے خاص کر ری یونین میں بے پردگی عام ہے یہاں خطا کا زیادہ امکان ہے۔ صلوٰۃ حاجت کی نیت کی تھی، حاجت مانگ لیجئے۔

سونے سے پہلے نمازِ تہجد کی شرعی دلیل

عشاء کے چار فرض اور دو سنت پڑھ کر وتر سے پہلے چند نفل پڑھنے سے کیا ہم قائم اللیل ہو جائیں گے اور قیامت کے دن کیا ہم کو تہجد گزاروں کا درجہ جائے گا؟ علماء کو حق ہے کہ اس کا ثبوت اختر سے مانگ لیں۔ لہذا اب میں اس کا ثبوت یعنی شرعی دلیل پیش کرتا ہوں۔

دلیل نمبر ۱: از امداد الفتاویٰ: حکیم الامت مجدد الملک مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی امداد الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ جو عشاء کے بعد چند رکعات نفل بہ نیت تہجد پڑھ لے وہ بھی قیامت کے دن تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ تو امداد الفتاویٰ کی دلیل ہو گئی۔

دلیل نمبر ۲: از شامی: اب میں علامہ شامی کی کتاب جوفتنہ کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے اس کی جلد نمبر اسے حوالہ دیتا ہوں۔ علامہ شامی ابن عابدین لکھتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے دور کعت نفل پڑھ لے گا اس کی بھی سنت تہجد ادا ہو جائے گی۔ اب دلیل کے لیے عربی عبارت پیش کرتا ہوں تاکہ علماء حضرات کو تثنیٰ باقی نہ رہے۔

علامہ شامی سب سے پہلے حدیث نقل کرتے ہیں کیونکہ فتحہ تابع ہے حدیث کے۔ جس فتحہ کا سہارا حدیث پر نہ ہو وہ معترض نہیں۔

صلوٰۃ تہجد بعد عشاء کی دلیل بالحدیث

علامہ شامی جس حدیث سے اپنا مسئلہ پیش کر رہے ہیں اس کو نقل کرتے ہیں:

﴿وَ مَا كَانَ بَعْدَ صَلَوةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ﴾

(حاشیۃ رَدِّ المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الوتر والواویل، ج: ۲، ص: ۲۳)

ہر وہ نماز جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے گی قیام اللیل میں داخل ہے۔ اب ملا علی قاری کی وہ عبارت کہ لیس مِنَ الْكَامِلِينَ مَنْ لَا يَقُومُ اللَّيْلَ (مرقاۃ صفحہ ۱۸۷، جلد ۲) جورات کی نماز یعنی تہجد نہیں پڑھتا وہ کامل ہو ہی نہیں سکتا لہذا اب آپ آسانی سے کامل ہو سکتے ہیں کہ سونے سے پہلے رات ہی کو تہجد پڑھ لیں۔

اس حدیث پاک کی روشنی میں شامی کا فیصلہ یہ ہے کہ فَإِنْ سُنَّةَ التَّهَجُّدِ تَحْصُلُ بِالْتَّفْلِ بعد صلوٰۃ العشاء قبل النوم اس شخص کی سنت تہجد ادا ہو جائے گی جو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے چند رکعات نفل پڑھ لے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آدمی رات میں اٹھ کر پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ جو لوگ بریانی کھارے ہیں وہ کھاتے رہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بوجہ ضعف یا سستی کے بریانی نہیں ملتی وہ عشاء کے بعد کم از کم گوشت روٹی کھالیں۔ پھر اگر آخر رات میں آنکھ

کھل جائے تو اس وقت دوبارہ پڑھ لیں تو کس نے منع کیا ہے؟ بچوں کو بعد عشاء تہجد کی مشق

جو بچے حافظ قرآن ہو جائیں ان کو عشاء کے بعد وتر سے پہلے دور رکعت تہجد کی نیت سے پڑھوادیں تاکہ وہ اس حدیث کے پورے مصدق ہو جائیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن اور اصحابِ اللیل ہیں۔ دارالاقامہ میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ عشاء کے فرض اور سنت کے بعد دور رکعت پڑھوادی جائیں اس کے بعد وتر پڑھیں اور یہ حدیث سمجھادیں کہ دیکھو بیٹے تم حامل قرآن تو ہو گئے لیکن اب اصحابِ اللیل ہو جاؤ تاکہ اس حدیث پاک کے دونوں جز کے تم مصدق ہو جاؤ۔ (عقلمنٰت حافظ کرام، صفحہ: ۲۶-۲۷)

شرح حدیث بعنوانِ دگر

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اُشْرَافُ أَمْتَى حَمْلَةُ الْقُرْآنِ وَاصْحَابُ الْلِّيْلِ میری امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن اور تہجدگزار ہیں، حملۃ القرآن کے بعد اصحابِ اللیل فرماتے یہ بتا دیا کہ یہ شرافت مکمل جب ہوگی جب مقرب بالکلام، مقرب بصاحبِ الکلام یعنی مقرب بالمتکلم بھی ہو۔ مراد یہ ہے کہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کا مقرب بھی ہو مگر اس قرب خاص کے حصول کا ذریعہ تہجد کی نماز ہے۔ چنانچہ تہجد کے فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں بیان فرمائی ہیں۔ عَلَيْكُمْ بِصَيَامِ الْلِّيْلِ یعنی وجوب کے لیے نہیں ترغیب کے لیے ہے اور وجوب بھی اگر مانا جائے تو وجوب رابطہ کہا جاسکتا ہے شرعی اور ضابطہ کا وجوب مراد نہیں چنانچہ مفتی بقول یہی ہے کہ یہ نماز سنت موکدہ بھی نہیں نفل ہے جو موجب قرب ہے اور اس نماز کو اگر آخربش میں نہ پڑھ سکے تو وتر سے قبل دور رکعت ہی پڑھ لے بنیت صلوٰۃ اللیل اور دوسرا صورت یہ ہے کہ اشراق کے وقت قضا کر لے۔

وہ چار باتیں نافع نماز تہجد کی یہ ہیں: (۱) فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ جملہ صلحائے امت کا معمول ہے اور مشابہت بالجیوین والمقیو لین سببِ محبو بیت و مقبولیت ہے۔ (۲) وَقُرْبَةُ لَكُمُ الی رَبِّکُمْ یہ نماز مقرب بارگاہِ حق بناتی ہے الی استعمال میں کبھی غاییہ مغایا میں داخل ہوتی ہے جیسے ذہبُتُ الی مسجدِ تومراد یہ نہیں ہوتی کہ صرف مسجد کے دروازے سے واپس آگئے بلکہ اندر داخلہ مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح الی ربِکُمْ سے مراد بار خاص میں داخلہ ہے۔ (۳) وَمُكْفِرَةُ لِلْسَّيِّئَاتِ اور گناہ مٹا دینے کا ذریعہ ہے۔ (۴) وَمُنْهَاةٌ عَنِ الْأَثْمِ اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے یعنی سیناتِ ماضی کو فنا کر دے گی

اور مستقبل کے سینات سے تحفظ کا ذریعہ بنے گی۔

احقر نے یہ تقریبہ دوئی اشرف المدارس کے طلباء کرام کے اجتماع میں کی تھی۔ حضرت مرشدنا ہردوئی بھی تشریف رکھتے تھے۔ کچھ طلباء کرام کا حفظ کمکمل ہوا تھا اس کا جلسہ تھا۔ اسی سلسلہ میں عرض کیا تھا کہ آپ حضرات حاملین قرآن تو ہو گئے لیکن اشراف امت ہونے کے لیے حملۃ القرآن کے بعد فوراً اور اصحاب الیل فرمایا۔ اس ترتیب اور تقدم و تاخر میں یہ حکمت بھی ہے کہ جو لوگ محض حفظ کر کے اعمال اور اصلاح اخلاق اور حضوری مع الحق کی دولت سے غافل رہیں گے تو خلق بھی ان کو اشراف امت نہ سمجھے گی۔ چنانچہ آج لوگوں کی نظر میں اہل علم کی جو بے قدری ہے اس کا سبب حق تعالیٰ سے رابطہ کی کمزوری ہے اور اس کے نتیجے میں اعمال و اخلاق کی خرابی دیکھ کر عوام متوضّع ہوتے ہیں اور بجائے عزت کے ذات کی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے رس گلہ جس میں رس نہ ہواں کو جو کھائے گا تھوڑو کرے گا۔ رس گلہ اضافت مقلوبی ہے دراصل گولہ رس تھا، پھر رس گولہ ہوا اور بگڑتے بگڑتے رس گلہ ہو گیا۔ پہلے گولہ بنایا جاتا ہے پھر اس کوشکر کے قوام میں ڈالا جاتا ہے جس کے بعد وہ رس گلہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کوشکر کے قوام میں نہ ڈالا جائے تو خالی گولہ رہے گا اس میں رس نہ ہو گا، جو کھائے گا وہ ناقدری کرے گا کیونکہ گولہ محض ہے رس غائب ہے۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم کو مخلوق اللہ کے درِ محبت کا حامل سمجھتی ہے لیکن جب قریب سے سابقہ پڑتا ہے تو ہم کو خالی اور صفر پاتی ہے، ہمارے علم و عمل میں فاصلہ دیکھ کر حقیر سمجھتی ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم ظاہری تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر اہل اللہ کی محبت سے حق تعالیٰ کی محبت کا رس نہیں حاصل کرتے ورنہ اگر ہمارا دل حاملِ درِ محبت بھی ہو جائے تو جدھر سے ہم نکلیں گے اس کی خوبیوں کو مست کر دے گی، ہماری آنکھوں سے حق تعالیٰ کا تعلق جھکے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت جھکلے گی۔

تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاہ میں

ان کی جھلک بھی تھی مری چشم پُر آب میں

ایک شعر احقر کا اپنایا آیا۔

ہائے جس دل نے پیا خونِ تمنا برسوں

اس کی خوبیوں سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے

حدیث نمبر ۶۲

﴿وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْدَدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلُ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب تمنی الشہادۃ، ج، ۱، ص: ۳۹۲)

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے بہت زیاد محظوظ ہے یہ بات کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں شہید کیا جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں شہید کر دیا جاؤں۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمناۓ شہادت

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والوں لو! میں محظوظ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جان دے دوں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جان دے دوں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جان دوں تین چار دفعہ آپ نے فرمایا۔ اگر اللہ کے راستے میں جان دینا پیارا نہ ہوتا تو اللہ کا پیارا اس بات کا اعلان نہ کرتا۔

جنت میں شہداء کی دوبارہ شہید ہونے کی تمنا

جنت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے کیا تم لوگ دنیا میں جانا چاہتے ہو۔ سب لوگ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں جانے کی کوئی خواہش نہیں، جنت میں سب نعمتیں ہیں لیکن شہید کہیں گے کہ جنت میں ایک نعمت نہیں ہے اس کے لیے ہم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ وہ کیا نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہے۔ شہداء کہیں گے کہ جنت میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کے راستے میں کافروں سے لڑ کر اپنا خون پیش کرنا، جام شہادت نوش کرنا اور جان دینا۔

ہمارا اسلام خونِ نبوت اور خونِ صحابہ کا ممنونِ کرم ہے

احد کے دامن میں ایک ہی وقت میں ستر شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔ اس وقت ہر شہید کا جنازہ بربان حال یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

ان کے کوچہ سے لے چل جنازہ مرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے
بے خودی چاہیے بندگی کے لیے

چھوٹے چھوٹے بچوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم این ابی میرے ابا کہاں

ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو بننے لگے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے ابو شہید ہو گئے۔ اسلام ہمیں یوں ہی نہیں مل گیا۔ اس دین پرسرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہے۔ میدانِ احمد میں آپ سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے۔ اگر سرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون نبوت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خون شہادت نہ بہتا تو آج ہم سیتنا رام، رام پرشاد اور نہ جانے کیا کیا ہوتے۔ آج خون نبوت اور خونِ صحابہ کے صدقہ میں ہم تک اسلام آیا ہے۔ (تشکانِ جامِ شہادت، صفحہ: ۵۔ ۷)

حدیث نمبر ۲۵

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ الْعَمَلَ الَّذِي يُلْعَنِي حُبَّكَ﴾

﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَاهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی عقد التسبیح باليد، ج: ۲، ص: ۱۸۷)

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں اور ان اعمال کی توفیق مانگتا ہوں کہ جن سے آپ کی محبت بڑھ جائے اے اللہ! آپ کی محبت میرے قلب میں میری جان سے زیادہ اور میرے اہل و عیال سے زیادہ اور رکھنے پانی سے زیادہ ہو۔

مری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا
ترے عاشقوں میں جینا ترے عاشقوں میں مرا

یہ ذوق کہ اللہ والوں یعنی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں زندگی گذارنا سرو رِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد اور شوق نبوت اور ذوق نبوت ہے۔

انعامِ محبت

صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مرتبہ سے نوازا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج اس کے آرام کدہ اور گھر سے بے گھر کر کے حکم دے رہا ہے:

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَّيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾

(سورۃ الکھف، آیہ: ۲۸)

جو بندے میرے عاشق ہیں اور مجھے یاد کر رہے ہیں آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیے تاکہ آپ کی محبت کے صدقے میں انہیں نسبت قویہ عطا کر دوں اور آپ کی خوبیوں سے انہیں ایسا بادوں کہ جس طرف سے وہ گذریں آپ کی خوبیوں پھیل جائے اور ان کے ذریعہ سے قیامت تک میری محبت کی تاریخ قائم ہو جائے کسی

کے جہاد سے، کسی کی شہادت سے، کسی کی فراست سے، کسی کی عبادت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ یَدُعُونَ رَبَّهُمْ وَا لَيْ بھی لوگ ہیں پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔

نیت کا اثر

میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص سجان اللہ! سجان اللہ کہہ رہا ہے اور سڑک سے گزر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے اللہ والا سمجھ کر چندہ دیں، میری خوب خاطر ہو کے یہ بہت بڑا عاشق حق جارہا ہے تو اس کے ہر سجان اللہ کہنے پر گناہ اور وبال لکھا جارہا ہے کیونکہ اس کا ذکر اللہ، اللہ کے لیے نہیں ہے، پیٹ اور دنیا اپنیتھنے کے لیے ہے۔ اور ایک آدمی اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے امر و دنتیق رہا ہے اور وہ سڑک پر کہہ رہا ہے کہ لے امر و د، لے امر و د تو اس کو ہر لے امر و د کہنے پر سجان اللہ سے زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے کیونکہ سجان اللہ مستحب ہے، نفل ہے اور حلال کمائی فرض ہے:

﴿ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةُ بَعْدَ الفَرِيْضَةِ ﴾

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البیوع، باب الکسب و طلب الحلال، ص: ۲۳۲)

تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ تمہاری عاشقی ہم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یادوںی کرتا ہے جو عاشق ہوتا ہے:

﴿ مَنْ أَحَبَ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ ﴾

(مرقة المفاتیح، کتاب الفضائل والشماہل، باب فی اخلاقہ و شماہلہ)

جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ (عرفان محبت، صفحہ: ۷-۹)

جو لوگ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خاص اولاد ہیں اگر ان سے خطا ہو جاتی ہے تو چین سے نہیں رہتے۔ چائے نہیں پیتے، مکھن نہیں نگلتے، سمو سے نہیں اڑاتے۔ دور کعت تو بہ کی پڑھ کر سجدہ گاہ کو اپنے آنسوؤں سے تزکرتے ہیں۔ تڑپ کر مالک کو راضی کرتے ہیں اور اپنے بابا کی میراث رَبَّنَا ظَلَمَنَا اُنْفُسَنَا کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا کام اسی سے بناتا۔ آپ کو تاج خلافت اسی سے عطا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی خاص اولاد ہیں ان سے اگر خطا ہو جاتی ہے تو وہ بھی رَبَّنَا ظَلَمَنَا اُنْفُسَنَا کہہ کروتے ہیں اور جب تک ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز نہیں آ جاتی کہ

ہم نے معاف کر دیا اس وقت تک چائے اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، کباب بربیانی کو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، نعمتیں دینے والے کونا راض کر کے جو نعمتیں ٹھوںتا ہے وہ نالائق ہے، بے غیرت ہے۔ شرافت بندگی کا تقاضا ہے کہ گناہ کر کے پہلے توبہ کرو، اتنا روکر آسمان سے آواز بغیر حروف کے دل میں آجائے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آواز حروف کی محتاج نہیں ہے۔ بغیر حروف کے آواز آتی ہے، الہام ہوتا ہے، مضمون کے لیے حروف کی ضرورت نہیں۔ مفہوم آتا ہے پھر وہ اپنے ملفوظ میں پیش کرتا ہے۔

ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ میں پوچھا کہ گناہوں کی معافی کا طریقہ آپ نے آہ وزاری، اشکباری بتایا تھا، لیکن کتنا روؤں، کتنی توبہ کروں اور کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا؟ اس کی کوئی علامت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے آنسوؤں پر حرم فرمائیں گے تو شانِ رحمت کا احساس قلب کو ہو جائے گا، دل میں ٹھنڈک اور سکون آجائے گا۔ یہی علامت ہے کہ معافی ہو گئی۔ (عرفان مجتب صغیر ۱۲-۱۳)

اشد محبت مانگنے کا طریقہ حدیثِ پاک سے

اب اس کے بعد سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں اس اشد محبت کے مانگنے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر امت کو سکھایا کہ اس طرح مانگو۔ واه! کیا بات ہے۔ اتباع کی لذتِ الگ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی لذتِ الگ ہے۔ جب اُمتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو الفاظِ نبوت نورِ نبوت کے حامل ہوتے ہیں، اس کے مزہ کا کیا پوچھتے ہو؟ نبی کے الفاظ کی لذتِ الگ، نبی کے اتباع کی لذتِ الگ اور اللہ سے مانگنے کی لذتِ الگ۔

اہل اللہ سے محبت ذوقِ نبوت ہے

اور کیا مانگو گے اللہُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُجَّكَ اَے اللہ! مجھے آپ اپنی محبت دے دیجئے۔ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت دیجئے، آپ کے عاشقوں کی محبت بھی میں مانگتا ہوں۔ اب آپ تائیے کہ جو نظام یہ کہے کہ کتابوں سے میں اللہ والا بن جاؤں گا مجھے اللہ والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا یہ استغناء بخاری شریف کی اس حدیث کی روشنی میں جماقت ہے یا نہیں؟ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی محبت مانگ رہے ہیں تو کون ظالم اس سے مستغنى ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ یہ شخص کورا ہے۔ مرادِ نبوت اور ذوقِ نبوت سے نآشنا ہے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُبَلِّغُنِي حُجَّكَ اور اے اللہ ایسے اعمال کی محبت دے دے جن سے تیری محبت ملے۔

علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اعمال کی محبت کے درمیان میں اللہ والوں کی محبت کیوں مانگی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی محبت اور اعمال کی محبت کے درمیان رابطہ ہے۔ یعنی اللہ والوں کی محبت میں یہ خاصیت ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جاتی ہے اور اعمال کی محبت بھی مل جاتی ہے۔

دیکھو جگر صاحب کو ایک مرتبہ ایک اللہ والے بزرگ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب ہوئی کیسے اللہ والے بن گئے؟ شراب سے تو بہ کر لی۔ حج کر آئے، ڈاڑھی بھی رکھ لی اور ان شاء اللہ خاتمہ بالخیر بھی نصیب ہو گیا۔ ساری زندگی شراب پی۔ (عرفان محبت، صفحہ ۳۲-۳۳)

تو اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے الفاظ نبوت میں مانگو ان شاء اللہ ضرور قبول ہو گی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقبول ہیں، آپ کے الفاظ بھی مقبول ہیں، مقبول لغت نبوت میں مانگو گے تو آپ کی دعا نہیں ہو گی ان شاء اللہ یاد کرو۔ خالق حیات کی بتائیں پیش کرتا ہوں جن سے حیات برستی ہے۔ خالق حیات اپنے عاشقوں پر حیات اور نافرمانوں کے دلوں پر موت بر ساتا ہے۔ چہرہ دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ اس پر لعنت و پھٹکارہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھ کر جو بد نظری کر کے آیا تھا فرمایا کہ ما با اُ اقوامِ یَتَرَسَّحُ مِنْ أَعْيُّنِهِمُ الزِّنَا کیا حال ہے ایسی قوموں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت نہیں فرمائی؟ لَعْنَ اللَّهِ النَّاطِرِ جو بد نظری کرتا ہے اس پر لعنت ہو۔ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا ہے تو کیا لعنت کے اثرات چہرہ پر نہیں آئیں آئیں گے؟

اہل و عیال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت مطلوب ہے

اس کے بعد فرمایا وَمِنْ أَهْلِي اَءِ اللَّهَ أَهْلِي اَءِ اللَّهَ اپنی محبت مجھے میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ دے دے۔ یہ نہیں کہ بیوی نے کہا کہ ٹیلیویژن نہیں لا او گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی تو مارے ڈر کے لے آیا۔ بھائی ہرگز اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو، بیوی کی تمام ڈیماںڈ پوری کرو، اگر اچھے کپڑے کو کہے، لے آؤ، کو کا کولا لے آؤ، مریٹ امام نگے لا دو، سبیون اپ پلا دو اور شوگر والی ہے تو ڈائٹ سبیون اپ لے آؤ اور ٹھنڈی کر کے پلاو۔ حلال نعمتیں اس پر برساؤ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کو کہے کہ ننگی فلمیں لے آؤ تو کہہ دو کہ میری جان لے لو گرا بیان نہ لو، ایمان نہیں دے سکتا۔

جہاں گیر بادشاہ سے نور جہاں نے کہا کہ شیعہ ہو جاؤ۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ تم میرے عاشق ہو، عاشق کو چاہیے کہ معشوق کا نہ ہب اختیار کرے تو اس نے کہا کہ جاناں بہ تو جاں دادم نہ کہ ایمان دادم اے نور

جہاں میری مجبو بے تحفہ پر میں نے جان دی ہے ایمان نہیں دیا ہے۔

شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ کی محبت مطلوب ہے

تیسرا جملہ ہے وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اَعْلَمُ اللَّهُ! اپنی محبت مجھے اتنی دے دے کہ شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ۔ شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے رگ رگ میں جان آجائی ہے، جان میں سینکڑوں جان معلوم ہوتی ہے۔ اس شدید پیاس میں پانی جتنا پیارا ہوتا ہے اے اللہ اس سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہو جائیے۔ اپنی ایسی محبت میری جان کو عطا فرماد تھے۔ (عرفان محبت، صفحہ: ۳۷-۳۸)

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الشَّلْجِ كی الہامی تشریح

گناہوں سے دل پر دو قسم کے عذاب آتے ہیں ایک تو اندھیرا پیدا ہوتا ہے دوسرا دل میں جلن اور سوزش پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ گناہ کا تعلق دوزخ سے ہے۔ الہذا دل میں گرمی، جلن اور سوزش اور اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے سروردِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں استغفار کا عجیب مضمون عطا فرمایا ہے۔ **اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الشَّلْجِ** اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے برف کے پانی سے و البرد اور اولے کے پانی سے۔ میرے شیخ نے مجھے جب یہ حدیث پڑھائی تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو نپور سے عظیم گڑھ آئے ہوئے تھے اور مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ برف اور اولے کے پانی سے گناہوں کے دھلانے کی کیوں درخواست کی جاری ہے؟ حضرت کو جواب معلوم نہیں تھا۔ آنکھ بند کر کے سر کو جھکایا، چند سیکنڈ کے بعد فرمایا کہ آ گیا آ گیا جواب آ گیا۔ فرمایا کہ گناہ سے دو با تین پیدا ہوتی ہیں۔ ایک حرارت اور گرمی دوسری اندھیرے۔ گناہوں سے اندھیرے کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب اختر سے سن لو کہ چونکہ سورج کے ڈوبنے سے عالم میں اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے تو سورج کا پیدا کرنے والا جس سے منہ پھیر لے اس کے دل میں اندھیرا نہیں آئے گا؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ برف کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے ذریعہ گناہوں کے دھونے کی درخواست کی جا رہی ہے تاکہ گناہوں کی گرمی ٹھنڈک سے تبدیل ہو جائے اور اولے کا پانی چمکدار ہوتا ہے اس کے ذریعہ سے اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ (عرفان محبت)

حدیث نمبر ۲۶

﴿اللَّهُمَّ أَحِينِنِي مُسْكِنًا وَأَمْتُنِنِي مُسْكِنًا وَأَحْسِرُنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاءَ ان فقراء المهاجرین يدخلون الجنة، ج: ۲، ص: ۲۰)

ترجمہ: اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھئے اور مسکنت ہی میں موت دیجئے اور آخرت میں بھی مساکین کی

جماعت کے ساتھ میرا حشر ہو۔

بسمی میں ایک دن میرا بیان ہوا جس میں میں نے یہ حدیث پڑھی اللہمَ احْبِنِي مِسْكِينًا وَ أَمْسِنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ یعنی اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھئے اور مسکین ہی ماریجئے اور مسکینوں میں میرا حشر فرمائیے۔ میں نے اس کی شرح بیان کی جو ملابسی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ میں لکھی ہے کہ یہاں مسکین کے معنی یہ نہیں ہیں کہ امت غریب ہو جائے۔ مسکین کے معنی ہیں الْمِسْكِينُ مِنَ الْمُسْكَنَةِ وَهِيَ غَلَبَةُ التَّوَاضُعِ عَلَى وَجْهِ الْكَمالِ مسکنت کے معنی ہیں کہ غلبۃ تواضع ہو، کمال درجہ کی خاکساری ہو فقیر اور غریب ہو جانا مراد نہیں ہے۔ تو صاحب کہنے لگے کہ تین سال سے مارے ڈر کے میں یہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ کہیں غریب نہ ہو جاؤں تو مسجد مدرسہ میں کیسے مال دوں گا۔ آج اس کے معنی معلوم ہو گئے۔ آج سے پھر یہ دعا پڑھنا شروع کر دوں گا۔ کتنے صحابہ مالدار تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، صدقہ خیرات دیتے تھے اگر مسکین سے مفلس ہونا مراد ہوتا تو سارے صحابہ مفلس ہو جاتے۔ مراد یہ ہے کہ دل مسکین ہو۔ ہاتھ میں پیسہ ہو، جیب میں پیسہ ہو اور دل میں نہ ہو، مال خوب ہو، مال کا نشہ نہ ہو۔ (انعامات الہیہ صفحہ ۳۲-۳۳)

حدیث نمبر ۷

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلْوَةِ الْقَائِمَةِ اِتِّ مُحَمَّدًا الْوَسِيَّةَ وَالْفَضْيَّةَ وَابْعُثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب الدعاء عند النداء، ج: ۱، ص: ۸۲)

ترجمہ: اے اللہ! اے اس دعوت کاملہ اور صلوٰۃ دائرہ کے رب! محمد ﷺ کو بلند مرتبہ اور اس میں غیر منتہی ترقی عطا فرم اور ان کو مقام محمودتک پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا۔

اذان کے بعد کی دعا

اذان کے بعد کی دعا کو دعائے وسیلہ بھی کہتے ہیں۔ اذان کے کلمات کا جواب دے دیجئے پھر جب اذان ختم ہو آپ درود شریف پڑھ کر دعائے وسیلہ پڑھے اللہمَ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلْوَةِ الْقَائِمَةِ اِتِّ مُحَمَّدًا الْوَسِيَّةَ وَالْفَضْيَّةَ وَابْعُثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ یا آخری جملہ مندام یہتی میں ہے۔ اس دعا پر وعدہ ہے کہ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتُی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی اور جب اس دعا پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گی تو ملابسی

قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں فَفِیهِ اشارةٌ إِلی بَشارةٍ حُسْنٍ الْخاتِمَةِ (المرقاۃ، ج: ۲، ص: ۱۶۳)، باٹ الاذان) اس میں حسن خاتمہ کی بشارت موجود ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافر کو نہیں مل سکتی۔ (قرآن و حدیث کے انمول خزانے، صفحہ ۲۷)

دعا بعد از اذان

اذان کے بعد درود شریف پڑھنا لازم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا پڑھنے والے کے حق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت و احباب ہو جائے گی۔ یہ دعا اپنی بیویوں کو بھی سکھا دو اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ اے اللہ آپ اس دعوت کاملہ کے رب ہیں۔ ملا علی قاری نے مشکوٰۃ شریف کی شرح میں دعوت تامہ کا ترجمہ دعوت کاملہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ناقص نہیں ہو سکتی اس لیے یہ دعوت کاملہ ہے اور رب کیوں فرمایا کہ آپ اس دعوت کاملہ کے رب ہیں، کلماتِ اذان کے لیے رب کا لفظ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میں تمہاری جسمانی پرورش کرتا ہوں جب تم نماز پڑھو گے تو میں تمہاری روحانی پرورش بھی کروں گا لہذا آؤ مسجد میں تمہارا رب بلا رہا ہے اور رب جب بلا رہا ہے تو کوئی چیز کھلاتا پلاتا ہے کیونکہ پانے والا ہے۔ پس میں تمہیں روحانی ناشتہ کراؤں گا اس لیے یہاں رب نازل فرمایا کہ آپ اس دعوت کاملہ کے رب ہیں جس سے آپ ہماری روحانی پرورش فرمائیں گے، مسجد میں نماز پڑھنے کی حالت میں ہمارا ایمان و یقین بڑھے گا اور روحانی تربیت ہوگی ہماری روح زندہ ہوگی، ہمیں حیات پر حیات ملے گی، زندگی میں زندگی ملے گی۔ وَالصَّلُوةُ الْقَائِمَةُ اور آپ اس نمازو کی طرف بلا رہے ہیں جو قائم ہے۔ ملا علی قاری نے قائمہ کا ترجمہ کیا ہے دائماً یعنی یہ نمازو ہے جو دائماً ہے اور دائم کیوں ہے؟ کیونکہ لا تنسِخها مِلَّةٌ وَ لَا تُغَيِّرُهَا شَرِيعَةٌ اب کوئی شریعت و مذہب دوسرا نہیں آئے گا جو اس نماز کے اركان کو بدلتے اس لیے فرمایا کہ وَالصَّلُوةُ الْقَائِمَةُ أَعْلَى الصَّلُوةِ الدَّائِمَةِ کہ یہ نماز قیامت تک قائم رہے گی جب تک اسلام رہے گا، اب کوئی اس کو بدلتے نہیں سکتا، اس نماز کے اركان دائم رہیں گے۔ اب کوئی ملت اور شریعت اس میں تبدلی نہیں کرے گی کیونکہ ملت اسلامیہ ہی اب قیامت تک رہے گی، کوئی اور مذہب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے ات مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةُ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان مرتبہ عطا فرم۔ و سیله کے معنی ہیں عظیم الشان مرتبہ و الفضیلۃ لیکن مرتبہ غیرتناہی ہواں کی کوئی حد نہ ہو، جو بڑھتا ہی رہے فضیلۃ کے معنی ہیں غیر متناہی اور والدَرَجَةُ الرَّفِيْعَةُ پڑھنا جائز نہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے وَابْعَثُهُ مَقَاماً

مَحْمُودًا اور مقامِ محمود پر ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبیوث فرمائیے الَّذِي وَعَدْنَاهُ جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے انکَ لَا تَحِلُّفُ الْمِيَعَادَ آپ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتے تو محمد عظیم ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اپنے محبوب اور پیارے نبی کو مقامِ محمود یعنی مقام شفاعت عطا کریں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں مقامِ محمود کے مانگنے کا حکم دیا ہے اس میں کیا راز ہے، جب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ تو دے ہی دے گا تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم اس لیے دیا کہ جو میرے لیے مقامِ محمود یعنی مقام شفاعت مانگے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ راز ہے اتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا کا کہے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام شفاعت عطا فرمائے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو شفاعت کا حق یقیناً ملے ہی گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن فائدہ ہمارا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کا مقام مانگنے والے کا فائدہ ہے کہ اس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔

آج میں نے کلماتِ اذان کا ترجمہ بتا دیا اور باقاعدہ مدلل۔ یہ انٹری ترجمہ نہیں ہے نہ کہاڑی ہے بلکہ معیاری ہے یعنی مستند بالشرح المشکوٰۃ انسسی بالمرقاۃ اور دوسرا بڑی کتابوں سے ہے جب کہ سب کو علم ہے کہ میں کتاب دیکھتا بھی نہیں ہوں، اتنی کمزوری ہے۔ کئی برس سے مجھے مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا مولا نا مظہر میاں! مگر میرا پہلا دیکھا ہوا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یاد رہتا ہے۔
اللہ نے میری کیسی آبرو کھی کر آج وہ مضمون بیان کیا جو زندگی میں کبھی بیان نہیں کیا تھا۔

(تقریث قرآن مجید و بخاری شریف، صفحہ ۵۸۔۲۷)

حدیث نمبر ۶۸

۱۴ جمادی الثانی ۱۴۳۱ھ مطابق ۲۰ اکتوبر ۱۹۹۲ء بروز اتوار

حدیث اللہمَّ اَلْهِمْنِيُّ.....اللَّغْ کی إِلَهَامِی تشریع

﴿اللَّهُمَّ اَلْهِمْنِيُّ رُشْدِيُّ وَ اَعِدْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي﴾

(سنن الترمذی، کتاب الدعوات عن رسول الله، باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي ﷺ)

آج میں رشد کی تعریف بیان کروں گا، ان شاء اللہ علماً کو وجد آجائے گا۔ رشد کے چار مفہوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، بخاری شریف کی تمام شرودحات مثلاً فتح الباری، عمدۃ القاری وغیرہ

دیکھ لو پھر اختر کی شرح دیکھو تب معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اختر کی زبان سے کیا کام لیا ہے۔ **اللَّهُمَّ
الْهَمْنِيُّ رُشِدِيُّ اے خدا ہم کورا شدون میں داخل فرمائیے یعنی صاحب رشد بنایئے اور صاحب رشد
(یعنی راہ راست پر) کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:**

﴿حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ زَيْنَةً فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفَرُ وَ الْفُسُوقُ وَ الْعِصْيَانُ
أُولَئِنَّكُ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾

(سورة الحجرات، آیت: ۷)

اور یہی راشدون کی تعریف ہے۔ تو صاحب رشد وہ ہیں جن کے قلب میں ایمان محبوب ہو جائے و
زَيْنَةً اور مزین ہو جائے یعنی اس کی تخلیق دل میں لذیذ اور مرغوب ہو جائے اور دل کے ذرے ذرے میں
رچ جائے، راخ ہو جائے۔ محبوب ہونا اور مزین ہونا یہ دو عتیق ہیں **حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ زَيْنَةً فِي
قُلُوبِكُمْ** یعنی اللہ تعالیٰ دل میں ایمان کو پیارا بنا دے اور اسے مزین کر دے یعنی قلب میں مرغوب ولذیذ
کر دے۔ پس جب ایمان محبوب ہو گیا اور اتنا مرغوب ہو گیا کہ اس کی لذت دل کے ذرے ذرے میں
داخل ہو گئی تو محبوب کی لذت مستزاد کا نام تزئین ہے، مزین ہونا ہے یعنی اسے اتنا مزہ آنے لگے کہ **كَرَّهَ
إِلَيْكُمُ الْكُفَرُ** کفر سے کراہت پیدا ہو جائے وَ الْفُسُوقُ گناہ کبیرہ سے کراہت پیدا ہو جائے وَ الْعِصْيَانَ
اور گناہ صغیرہ سے بھی نفرت ہو جائے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی ہر نافرمانی سے سخت نفرت ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے **حَبَّ** سے ایمان کی محبوبیت اور تزئین کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ
تمہیں تمہاری محتتوں، تقویٰ اور اور مجاہدات سے یہ مقام ملابکہ فرمایا **حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اللَّهُ نَمْحُوبُ
كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفَرُ** کر دیا تمہارے دلوں میں ایمان کو وَ زَيْنَةً اور ایمان کی محبوبیت کے ساتھ تم کو لذتِ مستزاد بھی عطا فرمائی،
محبوبیت میں جمالِ مستزاد پیدا کر دیا اور اتنی لذتِ مستزاد عطا فرمائی کہ تم کو کفر سے، فسوق سے اور عصيان
سے نفرت شدیدہ ہو گئی، **أُولَئِنَّكُ هُمُ الرَّاشِدُونَ** یہی لوگ صاحب رشد ہیں یعنی راہ راست پر ہیں۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث **اللَّهُمَّ الْهَمْنِيُّ رُشِدِيُّ** میں رشد ہی کی درخواست کی ہے کہ اے اللہ آپ
اپنی طرف سے ہمارے قلب میں رشد الہام فرمائیے کیونکہ آپ نے قرآن پاک میں ان نعمتوں یعنی ایمان
کی محبوبیت اور اس کی مرغوبیت (لذتِ مستزاد) کی نسبت اپنی طرف کی ہے لہذا ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں
کہ آپ آسمان سے زمین والوں کے قلب پر یہ نعمتیں الہام فرمائیے، اے عرش والے فرش والوں کو نہ
بھولیے، ہماری نالائقیوں کی وجہ سے ہم کو اس نعمتِ رشد سے محروم نہ فرمائیے، ہمارے قلب میں ایمان کو
محبوب فرمادیجیے اور لذتِ مستزاد عطا فرماء کر مزین بھی فرمائیے اور کفر، فسوق اور عصيان سے کراہت عطا

فرمایئے۔ مفسرین نے فسوق کی تفسیر گناہِ کبیرہ سے اور عصيان کی تفسیر گناہِ صغیرہ سے کی ہے یعنی کوئی لمحہ آپ کی نافرمانی میں نہ گذرے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اولیاء کا اتنا بڑا مقام عطا فرمادیجیے تاکہ ہم راشدون بن جائیں۔

تو اس دعاَ اللَّهُمَّ إِلَهِ الْهُمَّ رُشْدِيٌّ میں اتنی نعمتوں کی درخواست شامل ہے۔ اور أَللَّهُمَّ امرِہ
اور امر بنتا ہے مضارع سے جس میں تجدید استمراری کی شان ہے یعنی ایک ہی مرتبہ ہم کو یہ مرتبہ دے کرو ہیں نہ
ٹھہرائے رکھیے، بار بار ترقی دیتے رہیے، ہر آن ہم کو اپنی نئی شان عطا فرماتے رہیے۔ قرآن پاک میں ہے:

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ﴾

(سورة الرحمن، آیت: ۲۹)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یوم کے معنی دن نہیں ہیں ایسی
فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مِنَ الْلَّحْظَاتِ وَ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ مِنَ الْلَّمْحَاتِ
آنتَ فِي شَانٍ اے خدا! ہر لمحہ تیری نئی شان ہے۔ اسی لیے اللہ والوں پر ہر وقت اللہ کی نئی شان متحلبی رہتی
ہے۔ ادھر ہر لمحہ اگر ادائے خواجگی کی نئی شان ہوتی ہے تو ادھر ادائے بندگی کی بھی نئی شان ہوتی ہے۔

یہ ایک جز کی شرح ہو گئی۔ اب اس شرح کے بعد آپ علماء حضرات بخاری شریف کی شرح فتح
الباری اور عمدة القاری کو دیکھئے پھر آپ کو قدر ہو گئی کہ اس غلام اہن جھر اور غلام بدر الدین یعنی اختر کو اس
فرش پر وہ عرش والا مولیٰ کیا دے رہا ہے۔ ان محدثین کرام سے اختر کو کوئی نسبت نہیں، ان کا غلام کھلانے
کے بھی قابل نہیں لیکن اللہ چاہے تو کبھی ذرے کو بھی آفتاب کرتا ہے۔

آگے ہے وَ أَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي، أَعِذْنِي امر ہے اور سب اہل علم جانتے ہیں کہ امر
مضارع سے بنتا ہے یعنی اے خدا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے میرے نفس کے شر کے حوالہ کر دیں، اے اللہ
رُشد کا ہر لمحہ اختر محتاج ہے اور آپ کی حفاظت از شر و نفس کا بھی محتاج ہے اور دنیا کے سب بندے محتاج ہیں۔
توَاللَّهُمَّ إِلَهِ الْهُمَّ رُشْدِيٌّ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا یہ مضمون سکھایا کہ رُشد
ما نگو، راشدون کو جو کچھ ملتا ہے وہ ما نگو یعنی ایمان کی محبوبیت، اس کی تزئین اور کفر اور گناہوں سے کراہت بھی
ما نگو مگر آگے فرمایا وَ أَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي کہ نفس کے شر سے پناہ بھی ما نگو کیونکہ بعض لوگوں کو ہدایت تو
ہو گئی، کفر اور گناہوں سے کراہت بھی ہو گئی مگر کبھی نفس غالب آگیا اور گناہ کرادیا اگرچہ نفس کی لذتِ حرام کی
پرانی عادت کی وجہ سے خوفزدہ اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ گناہ کیا حالانکہ ذکر کی اور اہل اللہ کی صحبت کی
برکت سے اس کے دل میں خطرہ کا الارمنج رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے نالائق! خبیث! یہ تو کیا کر رہا ہے، اللہ

والوں سے تعلق بھی رکھتا ہے اور اللہ اللہ بھی کرتا ہے مگر جب نفس غالب ہو گیا تو دھڑ کتے ہوئے خوفزدہ قلب کے ساتھ بھی گناہ میں ملوث ہو گیا مگر ذکر کی برکت سے ایسے لوگوں کو گناہ کو پورا مزہ نہیں ملتا۔

ذکر کا ایک انعام حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بتایا کہ ذکر کرنے والوں کو گناہ کا پورا مزہ نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے والوں سے بھی گناہ ہو سکتا ہے اور غافل لوگوں سے بھی گناہ ہوتا ہے مگر ذکر کے گناہ میں اور غافل کے گناہ میں کیا فرق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ ذکر سے غافل ہیں جب وہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی لذت میں بھر پورا ڈوب جاتے ہیں اور اگر اللہ اللہ کرنے والوں سے بھی گناہ ہو گا تو خوفِ خدا کے استحضار کی وجہ سے دھڑ کتے ہوئے قلب سے انہیں گناہ کا پورا مزہ نہیں آئے گا جس سے انہیں توفیق توبہ جلد ہوتی ہے کیونکہ جسے گناہ کا پورا مزہ آ جاتا ہے پھر اس کے لیے توبہ کرنی مشکل ہو جاتی ہے جیسے دل دل میں پورا ڈوب جائے تو نکلا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ اہل ذکر سے اگر گناہ ہو گا تو توبہ کی جلد توفیق ہو جائے گی اور اہل غفلت سے جب گناہ ہو گا تو اس کو توبہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو مجدد زمانہ نے ذا کرین اور غافلین کے گناہ کا فرق بتادیا۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہُمَّ اْهْمِنِي رُشْدِي کے بعد ہمیں اعِدْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي سکھایا تاکہ تم اللہ کی پناہ مانگوںفس کے شر سے۔ ملاعی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے شر سے بچنے کے لیے إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي فرمایا کہ جس پر میری رحمت کا سایہ ہو گا، ہی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے تمہاری ذاتی طاقت کچھ کام نہ دے گی، کتنے ہی ہاتھ پیر ما رو جب تک مالک کی رحمت نہیں ہو گی ترکِ معصیت کی توفیق نہیں ہو گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھادی کہ اعِدْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي اے اللہ نفس کے شر سے ہم کو بچائیے تاکہ ہم آپ کے سایہ رحمت میں رہیں۔ ایک دعا سکھادی، اب دوسرا دعا سکھاتا ہوں:

﴿اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمُعَاصِي وَ لَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ﴾

اے اللہ! ہم پر وہ رحمت نازل فرمائیے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں تو معلوم ہوا کہ جو گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، لعنت کے سائے سے نکل کر سایہ رحمت خداوندی میں آ گیا، یہ اللہُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمُعَاصِي کا ترجحہ ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو رکھئے اور گناہ کی لعنت کے سائے سے بچائیے۔ معلوم ہوا کہ جس کو خدا گناہ چھوڑنے کی توفیق دے وہ اللہ کی رحمت پا گیا اور جو گناہ نہیں چھوڑتا تو چاہے لاکھ بڑی بلڈنگ میں رہتا ہو، مرسڈیز کار میں بیٹھا ہو، پاپڑ سمو سے اڑاتا ہوا سے اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہے اور جو گناہ چھوڑ دے وہ چٹائی پر، بوریے پر، تالاب کے

کنارے، جنگلوں میں ہر جگہ اللہ کی رحمت کے سامنے میں ہے اور مر سڈیز اور بڑی بڑی بلڈنگ والے سے افضل ہے کیونکہ وہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور یہ اللہ کو یاد کر کے اللہ کی رحمت کے سامنے میں ہے، دریاؤں کے کنارے اور جنگلوں میں سلطنت کا مزہ لیتا ہے کیونکہ جوتا ج سلطنت اور تخت سلطنت دیتا ہے یہ اُس خالق کو دل میں لیے ہوئے ہے اور جس کے دل میں وہ خالق سلطنت آتا ہے بغیر تخت و تاج کے وہ نہ سلطنت میں مست رہتا ہے کیونکہ تاج سلطنت اور تخت سلطنت دینے والا اس کے قلب میں ہے۔ بتائیے! تاج و تخت کا مزہ زیادہ ہے یا سلطنت دینے والے کا مزہ زیادہ ہے؟ اسی لیے اللہ والے تاج و تخت والوں سے زیادہ مزے میں ہیں کیونکہ ان کے تخت و تاج بدلتے رہتے ہیں، جو آج تخت پر ہیں وہ کل تخت پر ہوتے ہیں، ہزاروں اپوزیشن کے خوف سے ان کی نیندیں حرام ہیں، ولیم فائیو کھار ہے ہیں اور اللہ والوں کے پاس صرف دو اپوزیشن ہیں، ایک نفس ایک شیطان، اور شیطان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا مکروہ کید بہت کمزور ہے، جب یہ بہکائے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس سے لڑو مت کیونکہ یہ میرا کتا ہے، جیسے تم کسی کے گھر جاتے ہو تو اس کا کتا بھونکتا ہے مگر کتے کے بھونکے پر آپ کتے سے نہیں لڑتے بلکہ ھٹتی جبا کر مالک مکان کو بلا تے ہیں، وہ خاص الفاظ کہتا ہے جس سے کتابم دبا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ شیطان اللہ کا کتا ہے، دنیاوی اعتبار سے جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا کتا پاتا ہے تو اللہ سب سے بڑا ہے لہذا اس کا کتا بھی سب سے بڑا کتا ہے، تم اس سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے جب وہ بھونکے تو تم کہوا اعوذ باللہ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، شیطان سے جنگ کا حکم نہیں ہے، اگر لڑنے کا حکم ہوتا تو اللہ سے پناہ کیوں مانگتے۔ تو اعوذ باللہ سے ایک اپوزیشن کا علاج ہو گیا۔ اب نفس کا کیا علاج ہے؟

یا حی یا قیوم بر حمتک استغیث۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نفس کے شر سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے الا ما رَحْمَ رَبِّیْ جب تک تمہارے رب کی رحمت کا تم پر سایہ نہ ہو گا تو یا اللہ نفس بے شک امارہ بالسوء ہے لیکن یہ نفس امارہ بالسوء بھی آپ ہی کی مخلوق ہے اور الا ما رَحْمَ رَبِّیْ کا اشتبہ بھی آپ کا ہے اور آپ خالق نفس امارہ ہیں تو اس رحمت کو مانگنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا:

﴿يَا حَسْنِي یا قِیَوْمُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغْیِثُ أَصْلِحْ لِي شَانِیْ كُلَّهُ وَ لَا تَكْلِنِی إِلَى نَفْسِی طُرْفَةَ عَيْنِ﴾
(سنن البخاری للنسائي)

اے اللہ آپ ہمیں اس نفس کے حوالے نہ کیجیے، ہمیں ما رَحْمَ کا اشتبہ دے دیجیے۔ تو دونوں اپوزیشن یعنی نفس اور شیطان کا علاج ہو گیا، اللہ نے ہمیں اپوزیشن کے پیچھے پڑنے کے لیے نہیں بنایا، دنیا کے بادشاہوں کو تو اپوزیشن سے دن رات لڑنا پڑتا ہے اور اللہ میاں نے ہمیں ایسی اپوزیشن دیں کہ ہمیں ان کا محتاج نہیں

بنایا بلکہ یہ فرمایا کہ ہم ہی سے درخواست کرو، ہم خود تمہاری اپوزیشن کو ٹھیک کر دیں گے، ان کی ساری پوزیشن فال (Fall) کر دیں گے۔ تو ایک اپوزیشن سے حفاظت کے لیے تو اعوذ باللہ سکھادی جس سے شیطان کی اپوزیشن ماری گئی اور دوسری اپوزیشن یعنی نفس لا تکلُنِی إلَى نَفْسِي سے مارا گیا کہ اے خدا ہمیں اس نفس کے حوالہ نہ کیجیے، ہمیں اپنے اس سایہِ رحمت میں رکھیے جس کی نشان دہی آپ نے إلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي میں فرمائی ہے کہ میری رحمت کے بغیر تم اپنے آپ کو اس نفسِ امارہ سے مستثنی نہیں کر سکتے کیونکہ إلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي میرا مستثنی ہے، یہ خالق نفسِ امارہ کا مستثنی ہے۔

تو اللہ نے دونوں اپوزیشن کا ایسا علاج رکھا ہے کہ تم رہا ہی ربا کرتے رہو جیسے جوابا ہوشیار ہوتا ہے وہ اپنے لڑکوں کو تھوڑا تھوڑا خرچ دیتا ہے تاکہ جب ختم ہو جائے تو پھر ابا کوفون کرے کہ ابا خرچ ختم ہو گیا، بس کا کرا یہ بھی نہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تھوڑا تھوڑا رزق دیتے ہیں ورنہ قادرِ مطلق ہیں چاہتے تو سارے رزق ایک دم دے دیتے مثلاً اگر اسی سال زندگی دینا ہے تو اسی سال کی روزی ایک ہی دفعہ دے دیتے تو پھر کون ان کو یاد کرتا، آج کل کے مادرن لڑکوں کو دیکھ لو کہ اگر ابا ایک دم سارے رخچ دے دے تو کوئی ابا کو سلام بھی نہیں کرے گا اور لندن کی ٹیڈی یوں پر ریڈی رہے گا۔

تو اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ہمیں جو دو اپوزیشن دی ہیں ان کے لیے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم ان کے پیچے پڑو یا ان سے لڑو بلکہ یہ فرمایا کہ ہم سے فریاد کرو، ہم تمہیں توفیق دیں گے پھر تم ان پر غالب آجائے گے۔

اور اس کے بعد ایک دعا اور بھی ہے وَ لَا تُشْقِنْ بِمَعْصِيَتِكَ اے اللہ اپنی نافرمانی سے مجھ کو بد نصیب نہ کیجیے، معلوم ہوا کہ گناہ میں خاصیت ہے بد قسمت کرنے کی بشرط عدم توبہ، اگر توبہ کی توفیق مل گئی تو توبہ کا کیمیکل ایسا ہے کہ شر کو خیر بنادیتا ہے جیسے سر کہ ثراب میں ڈال دو تو ثراب سر کہ بن جاتی ہے اور سر کہ بن کر حلال ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

﴿كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَأٌ وَّ خَيْرُ الْخَاطَّائِينَ التَّوَّابُونَ﴾

(سنن ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب ذکر التوبۃ)

سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کاروہ ہے جو توبہ کر لے۔

ماعلیٰ قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہاں کُلُّ بَنِي آدَمَ سے امت مراد ہے انبیاء مراد نہیں ہیں، انبیاء مستثنی ہیں کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، مگر خَيْرُ الْخَاطَّائِينَ یعنی بہترین خطا کار کوں ہے؟ التَّوَّابُونَ۔ جو توبہ کر لے تو جب خَطَأٌ ہو تو تَوَّابُونَ بنو، کیشرا الخطا ہو تو کیشرا التوبہ بنو، جیسا مرض ویسی

دوا، اگر بخار تیز ہے تو دو ابھی تیز والی دی جائے گی۔ اور سو رعایم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھئے کہ خطاً کو بھی خیر فرماء ہے ہیں، **خَيْرُ الْخَاطَّائِينَ** یعنی جب توبہ کر لی تو خیر ہو گیا اور جب خیر ہو گیا تو پھر اس کو کیوں کہتے ہو کہ تم بڑے شر ہو، اب اس کو گناہ کا طعنہ دینا جائز نہیں، ہر شخص سے یہ گمان رکھو کہ اس نے توبہ کر لی ہو گی۔ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب توبہ کے کیمیکل میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ہمارے شر کو خیر بنا دے تو **خَيْرُ الْخَاطَّائِينَ** میں جو مضامیہ خطاً ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی حذف فرمادیتے تو ہم خیر ہی خیر ہو جاتے، یہ مضامیہ تو نشان دہی کر رہا ہے کہ یہ پہلے شر تھا اب توبہ کی برکت سے خیر ہوا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں عطا فرمایا کہ ترکیب اضافی میں مقصود مضامیہ ہوتا ہے، تو مقصود یہی ہے کہ تم خیر ہو چکے ہو مگر مضامیہ اس لیے قائم رکھا ہے تاکہ تم کو توبہ کی کرامت اور توبہ کا مجرہ معلوم ہو کہ توبہ میں یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاً کو خیر بنا دیتا ہے۔ اگر یہ مضامیہ ہو تو آپ کی خطاؤں کا پتہ ہی نہ چلتا اور توبہ کی کرامت کا ظہور نہ ہوتا کہ توبے نے کیا کام کیا ہے۔ اب رہ گیا یہ اشکال کہ خطاً کی نسبت ہمارے ساتھ کیوں لگی تو یہ نسبت گویا کہ نہیں ہے کیونکہ ترکیب اضافی میں مقصود مضامیہ ہوتا ہے جیسے جائے غلام زید میں غلام مقصود ہے زید یہاں مقصود نہیں تو خطاً مقصود کلام نہیں ہے بلکہ صرف توبہ کی کرامت ظاہر کرنے کے لیے ہے ورنہ مقصود یہی ہے کہ توبہ کی برکت سے تم سراپا خیر بن چکے ہو۔

بناً علماً حضرات! اس وقت کا یہ مضمون اللہ کی رحمت ہے، مالک کا کرم ہے، بزرگوں کی جو تیار اٹھانے کا یہ انعام ہوتا ہے، میرے پاس یہاں کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی شرح نہیں دیکھی لیکن آج علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو اس شرح کو سن کر وجد کرتے کہ کہاں سے کہاں اقتباس کیا۔ حدیث **اللَّهُمَّ إِلَهِنَا رُشْدِيُّ** کی شرح قرآن پاک کی آیت اولیٰ کے نام میں اتنا مزہ آئے کہ گناہوں سے نفرت و کراہت ہو جائے۔ **اللَّهُمَّ إِلَهِنَا رُشْدِيُّ** میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رشد مانگا ہے۔

(جامع عرض کرتا ہے کہ حضرت والا نے جو شرح بیان فرمائی بالکل الہامی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ مسدر ک حاکم کی حدیث **حَبَّبُ إِلَيْنَا إِيمَانُ الْخَلِيلِ** حضرت والا کی کبھی نظر سے نہیں گذری تھی لیکن حضرت والا نے آیت مبارکہ کی جو تفسیر بیان فرمائی وہ بعد نہ حدیث پاک کے مطابق ہے۔ مسدر ک حاکم کی حدیث یہاں نقل کی جاتی ہے:

اللَّهُمَّ حِبْبُ إِلَيْنَا إِيمَانُ وَ زَيْنَةٌ فِي قُلُوبِنَا وَ كَرَهَةُ إِلَيْنَا الْكُفْرُ وَ الْفُسُوقُ وَ الْعِصْيَانُ
وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ ﴿١﴾

(المستدرک للحاکم)

حدیث بالا کی مزید تشریح

اللَّهُمَّ أَهْمُنِي رُشْدِي وَ أَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي ﴿٢﴾

(سنن الترمذی، کتاب الدعوات عن رسول الله، باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي ﷺ)

اے اللہ! میرے دل میں ہدایت کے راستوں کا الہام کر دے یعنی میرے دل میں ایسی باتیں ڈال دیجیے جن پر چلنے سے آپ راضی ہو جائیں، جن پر عمل کرنے سے آپ مل جائیں، الہمنی امر ہے جو مضراع سے بنتا ہے اور مضراع میں دوزمانے ہوتے ہیں حال اور استقبال یعنی موجودہ زمانے میں بھی اچھی اچھی باتیں جن سے آپ راضی ہوں میرے دل میں ڈال دیجیے اور آئندہ بھی ڈالتے رہیے، اپنی رضا کے ارادے الہام فرمادیجیے یعنی سیدھے راستے کے طریقے دل میں ڈال دیجیے اور گمراہی سے بچا دیجیے۔ رُشد میں دونوں باتیں ہیں کہ جن باتوں سے آپ راضی ہوتے ہوں وہ ہمارے دل میں ڈال دیجیے اور جن باتوں سے آپ ناراضی ہوتے ہیں ان سے نفرت اور کراہت ہمارے دل میں ڈال دیجیے۔

رُشد کے متعلق علم عظیم

رُشد کے معنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت سے میرے دل میں عطا فرمائے ہیں:

حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ زَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَهَةُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَ الْفُسُوقُ وَ الْعِصْيَانَ

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٣﴾

(سورۃ الحجرات، آیت: ۷)

اے صحابہ! ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا اور اس کو مزین کر دیا اور کفر و فسق و عصيان یعنی کفر کو اور بڑے گناہوں کو اور چھوٹے گناہوں کو تمہارے دلوں میں مکروہ کر دیا۔ حبَّ اور كَرَهَہ کا فاعل اللہ ہے یعنی یہ بتادیا کہ ایمان جو تمہارے دلوں میں محبوب ہو گیا اور کفر و فسق و عصيان جو تم کو مکروہ ہو گیا تو یہ اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ ہمارا فضل ہے، ہمارا احسان ہے، حبَّ کا فاعل میں ہوں، اور كَرَهَہ کا فاعل بھی میں ہوں، میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور میں نے ہی کفر و عصيان کو مکروہ کر دیا ہے۔ اُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اور جن کو یہ دونوں باتیں حاصل ہو گئیں وہی راشد ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ علومِ نبوت علوم قرآن سے مقتبس ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللَّهُمَّ أَهْمُنِي رُشْدِي کہ اے اللہ! جو باتیں آپ کو محبوب ہیں، جن باتوں سے آپ راضی ہوتے ہیں وہ آپ ہمارے دل میں حاًل

بھی ڈالتے رہیے اور استقبالاً یعنی آئندہ بھی ڈالتے رہیے اور جو باتیں آپ کے نزدیک مکروہ ہیں، جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے نفرت و کراہت ہمارے دلوں میں ڈالتے رہیے اور ہمیں ان سے بچاتے رہیے۔

آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں وَ أَعِذُّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي بعض وقت ہدایت کی بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ یہ بات بری ہے، بری بات سمجھ کر برا کام کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ عورتوں کوتا کنا جھانکنا گناہ ہے مگر پھر بھی تاک جھانک کرتا ہے۔ إِلَهَمٌ هُدَايَتٌ تُوْ ہو گیا لیکن اس کے باوجود نفس غالب آگیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَ أَعِذُّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي میرے نفس کے شر سے مجھے بچا لیجیے کہ میرا نفس مجھ پر غالب نہ ہو جائے، بعض وقت ہدایت کا راستہ دل میں آ جاتا ہے مگر نفس غالب ہو جاتا ہے اس لیے مجھے نفس کے شر سے بچا لیجیے کہ آپ کی ناراضگی کے راستہ پر قدم نہ رکھوں، میں آپ کی حفاظت میں اپنے نفس کو سونپتا ہوں۔ جو یہ دعا مانگتا رہے گا نفس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذُعُونُتُ اسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اگر کوئی باپ کہے کہ بیٹا مجھ سے مانگو میں تھہیں دوں گا پھر اس میں جوشک کرے وہ بیٹا نالائق ہے۔ اسی طرح لاک بندے وہ ہیں جو اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ پس اس دعا کا معمول بنالیجیے کہ اے اللہ! ہدایت کی باتیں میرے دل میں ڈالتے رہیے اور میرا نفس مجھ پر غالب نہ ہونے پائے تاکہ میں آپ کو راضی رکھنے والی باتوں پر عمل کرتا رہوں اور آپ کو ناراض کرنے والی باتوں سے بچتا رہوں۔ اسی لیے نکالی کو دیکھونے گوری کو دیکھو کیونکہ عورت چاہے کالی کلوٹی ہواں کے پاس بل تو ہے، شہوت سوار ہو گئی تو کالے بل میں ہی گھس جاؤ گے۔ اس لیے۔

نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو

اُسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا

یہ میرا شعر میدان سا تھا افریقہ ہے جو میں آپ کو دینی میں سنار ہا ہوں۔ (پردیں میں تذکرہ وطن، ص: ۱۰)

حدیث بالا کی تشریح بعنوانِ دگر

گناہوں سے بچانے والی مسنون دعا

بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتلا یے تو ایک دعا سن
لیجئے اللہُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدًا وَأَعِذُّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي یہ دعا بخاری شریف میں موجود ہے اس کا ترجمہ

یہ ہے کہ اے اللہ جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ میرے دل میں ڈال دیجئے، ہدایت کے راستوں کو میرے دل میں ڈال دیجئے اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچائیے۔

رُشدِ معنی ہدایت کے ہیں اور ہدایت کے معنی ہیں اللہ کی رضا کا راستہ اے اللہ جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں آپ ان باتوں کو میرے دل میں ڈال دیجئے، الہام کر دیجئے وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي لیکن نفس کے شر سے مجھے بچائیے، نفس جانتا ہے کہ عورتوں کو دیکھنا گناہ ہے، جن اڑکوں کے ڈاڑھی مونچھ نہیں آئی ان کو دیکھنا گناہ ہے، جانتا ہے کہ حرام ہے لیکن مانتا نہیں۔ نفس کی شرارت ہے یا نہیں؟ لہذا نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ مانگو وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي اور مجھ کو میرے نفس کے شر سے بچائیے کیونکہ بعض دفعہ الہام رُشد ہو جاتا ہے، ہدایت کا علم ہو جاتا ہے لیکن نفس کے شرکی وجہ سے عمل نہیں کرتا۔ اس لیے اے اللہ جو علم آپ نے دیا اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے نفس کے شرکی وجہ سے علم پر عمل نہ کروں، جانتے ہوئے بھی آپ کی رضا کے راستہ پر نہ چلوں، اے اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ (آرام دو جہاں کا طریقہ حصول، ص: ۳۳)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَيْ بِرَكَتِ

ایک تو اس دعا اللہُمَّ اَلْهِمْنِيالخ کا معمول بنالیں اور دوسرا ہر نماز کے بعد لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سات مرتبہ پڑھ لیجئے۔ حدیث میں وعدہ ہے کہ اس سے نیک کام کرنے کی اور بُرے کام سے بچنے کی توفیق کا خزانہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ لہذا ہر نماز کے بعد سات مرتبہ اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اے خدا اس کی برکت سے نیک کام کرنے کی توفیق اور بُرے کام سے بچنے کی توفیق کا خزانہ بخشش کر دیجئے۔ تو گناہ سے بچنے کے دعویں ہو گئے۔

موت کا مراقبہ

اور تیسرا عمل ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر موت کا اس طرح مراقبہ کیجئے کہ میں مر گیا ہوں، نہلا کر کر فن میں لپیٹا جا رہا ہوں اور جنازہ قبر میں اُتارا جا رہا ہے، قبر میں لٹادیا گیا، اب تختہ لگائے جا رہے ہیں اور لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، کئی من مٹی ڈال کر چلے گئے اور اب اکیلا پڑا ہوں۔ جن آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو دیکھتے تھے اب ان آنکھوں کا تماشا دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، بہت سے کیڑے آنکھوں کو نکال کر کر کٹ کھیل رہے ہیں یعنی آنکھوں کو لے کر بھاگ رہے ہیں، قبروں میں ہماری آنکھوں کا کر کٹ میچ ہونے والا ہے۔ آنکھیں قبر میں ادھر ادھر جا رہی ہیں۔ ان گالوں پر کیڑوں کا حملہ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جلدی ان پر سنت کا باغ لگا کر اللہ سے انعام لے لو۔ یہ گال سلامت رہنے والے نہیں ہیں۔ مُلَا علی قاری

رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ شریف میں لکھا ہے کہ سر دیوں میں تین دن کے بعد اور گرمیوں میں چوبیس گھنٹے کے بعد مردہ کا جسم سڑ جاتا ہے۔ قبر کھود کے دیکھ لیں تو نظر آئے گا کہ گالوں کو کیڑے لے کر بھاگ رہے ہیں، آنکھوں کی جگہ بجائے آنکھوں کے حلقوں میں کیڑے گھسے ہوئے ہیں، کوئی کیڑا آنکھ لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی گال لے کر بھاگ رہا ہے کوئی بال لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی ہونٹ لے کر بھاگ رہا ہے اور یہ مراقبہ کرو کہ دوزخ سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیں کہ اس نالائق کو دوزخ میں ڈال دو کیونکہ یہ عورتوں کو بُری نگاہ سے دیکھتا تھا، اب اس کا علاج دوزخ ہے۔ یہ مراقبہ کرو یہ علاج ہے گناہوں سے بچنے کا۔ دو وظیفہ، تیسرا مراقبہ اور چوتھا یہ ہے کہ ہمت کرلو یعنی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرو۔ اگر آپ ارادہ نہ کریں تو اس مسجد سے گھر جاسکتے ہیں؟ اگر آپ ارادہ نہیں کریں گے تو نہیں جاسکتے۔ ارادہ اور ہمت سے کام ہوتا ہے۔ لہذا آپ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں، ہمت کریں تب گناہ چھوٹیں گے۔ یہ مفہومات کمالات اشرفیہ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حکیم الامت کے الفاظ ہیں کہ گناہ چھوڑنے کی خود ہمت کرو کہ آج سے کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھیں گے۔ (آرام دہباہ کا طریقہ حصول، صفحہ: ۳۵-۳۳)

کفارہ غیبت

اور جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ میں نے فلاں کی غیبت کی ہے اور ان کو میری غیبت کرنے کی اطلاع بھی ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگیں۔ غیبت کی معافی جب واجب ہوتی ہے جب اس کو اطلاع بھی ہو جائے جس کی غیبت کی ہے۔ اگر اس کو خبر نہیں تو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں، آپ اس کو ثواب بخش دیں اور جس مجلس میں غیبت کی ہے اس میں تردید کر دیں کہ فلاں کی جو میں نے بُرائی کی تھی وہ میری حماقت اور نادانی تھی۔

حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ غیبت کی معافی مانگنا تب واجب ہے جب اس کو پتہ چل جائے، جب اس کو خبر ہی نہیں پہنچی تو خواہ مخواہ کیوں اس کا دل خراب کرنے جا رہے ہو کہ صاحب آپ کے پاس معافی مانگنے آیا ہوں، معاف کرنا، میں نے آپ کی غیبت کی ہے۔ اس سے اچھا بھلا دل خراب ہو جاتا ہے اور نفرت ہو جاتی ہے کہ تم تو اس کو دوست سمجھتے تھے یہ بھی مخالف لکلا لہذا جس کی غیبت کی ہے جب تک اس کو اطلاع نہ ہوا سے معافی مانگنا ضروری نہیں بلکہ نہیں مانگنا چاہیے اور جو طریقہ ابھی بتایا ہے اس طرح بتلانی کریں یعنی دور کعات صلوٰۃ توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور جن لوگوں سے غیبت کی ہے ان سے تردید کریں اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور کچھ ثواب بخش دیں اور کچھ خیرات کر دیں مثلاً سور و پیغی یا سوڑک کسی غریب کو دے دے اور اللہ سے کہہ دیا کہ یا اللہ اس کا ثواب ان کو

دے دیجئے جن کو میں نے کبھی ستایا ہو یا میرا بھلا کہہ دیا ہو۔ تو اس طرح اس کو ثواب بخش دو۔ اس کے بعد دو رکعات صلوٰۃ الحاجت پڑھو۔ صلوٰۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، جس وقت بندہ کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اس وقت ساری کائنات اس کے ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے۔ دعا مانگنے والے کا ہاتھ اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور ساتوں آسمان و زمین سب نیچے ہو جاتے ہیں۔ دیکھئے جس کا ہاتھ خدا کے سامنے ہے تو ساری مخلوق اس کے سامنے نیچے ہے، ساری کائنات سارے عالم، زمین و آسمان اس کے ہاتھوں کے نیچے ہیں۔ دعا مانگنے سے اتنا اوپر مقام ملتا ہے۔ (آرام دو جہاں کا طریقہ حصول، صفحہ: ۳۹-۴۰)

حدیث نمبر ۶۹

﴿إِنْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَا كَوَا﴾

(سنن ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ۳۰۹)

ترجمہ: رو اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو۔

توبہ کے آنسوؤں کی اقسام

۱۔ مصنوعی گریہ:

توبہ کے لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے جو اختیاری مضمون نہیں ہے کمپلسری (Compulsory) یعنی لازمی کر دیا کہ ابکوار وہ تاکہ تم نے جو حرام مزہ گناہوں سے اڑایا ہے آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعہ تمہاری حرام لذتوں کا مال دوبارہ اللہ کی سرکار میں جمع ہو جائے جس طرح چور چوری کا مال تھانہ میں جمع کر دے اور وعدہ کرے کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا تو سرکار اس کو معاف کر دیتی ہے۔ إِنْكُوا امر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں إِنْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَا كَوَا رو اگر رونا نہ آئے، کبھی دل میں گناہوں کی وجہ سے سختی آ جاتی ہے، یہ گناہ ہمارے دل کی تراوٹ کو چوں لیتے ہیں، دل بے کیف ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا تم مایوس ہو جاؤ گے؟ کیا تم ارحم الراحمین کے بندے نہیں ہو، رحمۃ للعلمین کے امتی نہیں ہو۔ ہم ایسے خشک دل والوں کو بھی جن کے آنسو نہ نکل سکیں محروم نہیں ہونے دیں گے۔ میں رحمۃ للعلمین ہوں، سید الانبیاء ہوں، پیغمبر ہوں، حق تعالیٰ کا ترجمان ہوں، سفیر ہوں ارحم الراحمین کا، ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کا سفیر ہوتا ہے اور سفیر کی زبان اپنے ملک کے سلطان کی ترجمان ہوتی ہے۔ لہذا میرے الفاظ کو، میرے ارشاد کو، میری زبان کو ترجمان سمجھو ارحم الراحمین کا۔ میں رحمۃ للعلمین ہونے کی حیثیت سے ارحم الراحمین کی سفارت کا حق ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ مخدوم ہو، جس کے آنسو نہیں نکل رہے وہ بھی کیوں محروم ہو۔ لہذا اگھر اؤمٰت، میں رحمۃ للعلمین ہوں اور

ارحم الراحمين کی ترجیحی کر رہا ہوں کہ فَإِنْ لَمْ تَبُكُوا فَتَبَاكُوا أَكْرَتْهُمْ بَرَاءَ آنسو نہیں نکلتے تو تم روئے والوں کی شکل بنالو، شکل بنانا تو تمہارے اختیار میں ہے، میں تمہارا شماروں نے والوں میں کردوں گا اور مصنوعی گریہ کا حکم دے کر اس کو قبول کرنا یہ کمال رحمت حق ہے اور یہ روئے کی پہلی قسم ہے جو اکثر بیان کرتا ہوں۔

۲۔ موسلا دھار ابر کے مانند روئے والی آنکھیں:

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ حق تعالیٰ شانہ میں عرض کرتے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَيْنِ هَطَالَتِينِ تَشْفِيَانِ الْقُلْبَ بِدُرُوفِ الدُّمُوعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدُّمُوعُ دَمًا وَ الْأَسْرَاسُ جَمْرًا﴾

(الجامع الصغير للسيوطی، ج: ۱، ص: ۵۹)

(وفی روایةٍ تسقیان القلب بدروف الدمع کما فی المناجات المقبول)

اے اللہ! مجھے ایسی آنکھیں عطا فرم اجو موسلا دھار ابر کی مانند برسنے والی ہوں، جو خشیت کے آنسوؤں سے دل کو سیراب کر دیں۔ **تَشْفِيَانِ الْقُلْبَ بِدُرُوفِ الدُّمُوعِ** جو آنسوؤں سے دل کو شفادینے والی ہوں قبْلَ اَنْ تَكُونَ الدُّمُوعُ دَمًا قبل اس کے کہ (عذابِ دوزخ سے) آنسو خون ہو جائیں اور ڈاڑھیں انگارے بن جائیں۔ معلوم ہوا کہ ہر آنسو دل کو سیراب نہیں کرتا صرف وہی آنسو دل کو سیراب کرتے ہیں، دل کی شفا کا ذریعہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت یا محبت سے نکلتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ور نماند آب آبم ده ز عین

ہچھو عینین نبی هطالتین

اگر ہمارے آنسو خنک ہو گئے تو آنکھوں کو روئے کے لیے آنسو عطا فرمائیے کیونکہ آپ کے خوف و خشیت سے روئے والی آنکھیں مراد نبوت ہیں، مطلوب نبوت ہیں اور یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ یہ قلب کو سیراب کرنے والے ہیں۔

۳۔ مکھی کے سر کے برابر آنسو کی فضیلت:

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

﴿مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَ إِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الْذَبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرًّ وَ جَهَهٍ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ﴾

(سنن ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ص: ۳۰۹)

یعنی کسی بندہ موم کی آنکھوں سے بوجہ خشیتِ الہی آنسو نکل آئے خواہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوا اور اس کے

چہرہ پر تھوڑا سا بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر کبھی کمکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اس کو پورے چہرہ پر پھیلا لو۔ میں نے بارہا اپنے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب پھوپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہمیشہ آنسوؤں کو تھیلی سے ملا اور پھر پورے چہرہ اور ڈاٹھی پر پھیر لیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ ایسے ہی کرتے دیکھا کہ جب اللہ کے خوف سے یا محبت سے آنسو نکلے تو تھیلی سے مل کر ان کو پورے چہرے پر پھیلا لیا کیونکہ روایت میں ہے کہ اللہ کے خوف یا محبت سے نکلے ہوئے آنسو جہاں جہاں لگ جائیں گے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی چاہے وہ آنسو کمکھی کے سر کے برابر ہوتی بھی کام بن جائے گا، مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث میں دموع کا لفظ آیا ہے جو جمع ہے دمع کی جس کے معنی آنسو کے ہیں اور عربی میں جمع تین سے کم کا نہیں ہوتا۔ اس لیے کم سے کم زندگی میں تین آنسو تو روتوتا کہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ ملاعی قاری فرماتے ہیں کہ جو آنسو نکلیں وہ کم از کم تین ہوں اگرچنان کی مقدار کمکھی کے سر کے برابر ہو اور فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھوں سے رونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آنکھ پتھر کی بنی ہو کیونکہ بعض آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو پتھر کی بنا لیتے ہیں، تو پتھر کی آنکھ سے آنسو کیسے نکلے گا اس لیے فرمایا اُو مِنْ أَحَدِهِمَا دِيْكُھُو المرقاۃ شرح مشکوٰۃ عبارت ملاعی قاری کی ہے، حدیث کی نہیں ہے۔ حدیث میں تو دونوں آنکھوں سے رونا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جزاً خیر دے ان محدثین کو جنہوں نے مرادِ بُوت کو سمجھا کہ اگر ایک آنکھ سے بھی روتو تو بھی کام بن جائے گا کیونکہ دوسرا آنکھ مجبور ہے۔

ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں
رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر

جب مجبور ہے تو معدور ہے اور جب معدور ہے تو ماجور ہے یعنی اجر کی مستحق ہے، اس کو دونوں آنکھوں سے رو نے کا اجر ملے گا۔ یہ رو نے کا تیرسا طریقہ ہو گیا۔

۳۔ تنهائی میں زمین پر گرنے والے آنسو:

اب چوتھا طریقہ سن لو۔ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ چوتھا طریقہ اللہ کی یاد میں رو نے کا کیا ہے؟ تمہارے آنسو زمین پر گر پڑیں تا کہ یہ زمین قیامت کے دن تمہارے رو نے کی گواہی دے۔ حاکم کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے:

﴿مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّىٰ يُصِيبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوعِهِ﴾

لَمْ يَعْدِبْهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(المستدرک للحاکم، کتاب التوبۃ والاتابۃ، باب من ذکر الله ففاضت عیناه)

یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں یہاں تک کہ کچھ آنسو ز میں پر گر جائیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب نہ دیں گے۔

اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو قالین بچھی ہوئی ہے، زمین کہاں ہے تو سنگ مر رجھی مٹی کے حکم میں داخل ہے۔ جس چیز سے تمیم ہو سکتا ہے وہ خانق ارض کے یہاں مٹی ہی کے زمرہ میں ہے۔ لہذا فرش پر چلے جاؤ جہاں قالین نہیں ہے یا ہمارے ساتھ سندھ بلوچ چلوہم آپ کو رونے کے لیے زمین ہی زمین دیں گے مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ پلاٹ الٹ کر دیں گے، صرف زمین دیں گے رونے کے لیے۔ آپ جس کی زمین پر دور کعت پڑھ کے رویں مجھے امید ہے کہ زمین کا مالک آپ کو کچھ نہیں کہے گا بلکہ دوڑ کے آئے گا اور دعا کی درخواست کرے گا کہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا مولوی صاحب! تو رونے کی یہ چار قسمیں ہو گئیں۔

۵۔ گنہگاروں کی آواز گریہ کی محبوبیت:

آج ایک نیا علم عظیم پیش کرتا ہوں جو گریدہ وزاری کی پانچویں قسم ہے۔ توبہ کی تینوں قسموں سے اور رونے کی چار قسموں سے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں گے، حبیب ہو جائیں گے مگر آج ایک علم عظیم اللہ نے عطا فرمایا۔ جس سے آپ صرف محبوب ہی نہیں احباب ہو جائیں گے۔ ایک ہے حبیب اور ایک ہے احباب یعنی سب سے زیادہ پیارا، مبالغہ کا صیغہ ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ پیار مل جائے۔ تمام محبوبوں میں، اللہ کے تمام پیاروں میں سب سے بڑا پیار ابتنے کا سخا آج اختر پیش کرے گا۔

اللہ کے پیاروں میں پیار ابتنے کا سخا

تین طریقے توبہ کے بیان کرتا رہا ہوں اور إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ کے ذیل میں چار طریقے رونے کے بھی بیان کیے ہیں لیکن آج اپنی پچھتر سالہ زندگی میں پہلی دفعہ میں آپ کو توابین میں محبوبیت کے ساتھ ساتھ ایک نعمت مسترزاد اور ایکسٹرا پیش کر رہا ہوں کہ آپ احباب اکبیو بین ہو جائیں، اللہ کے تمام محبوب بندوں میں احباب ہو جائیں اور اس میں بھی ایک نہیں بے شمار ہو سکتے ہیں، سب کے سب احباب ہو جائیں اتنا آسان سخا ہے اور اس کے بھی دو طریقہ بتاؤں گا ایک اختیاری ایک غیر اختیاری۔ وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی کی کیا تعریف ہے؟ هُو الْكَلَامُ الْدِيْ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ بِلِفْظِهِ وَيُنَسِّبُ إِلَى رَبِّهِ وَهُوَ كَلَامُ نُبُوتٍ جس کو زبان نبوت ادا کرے اور نبی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسی حدیثوں کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی میں ہے:

﴿لَا يُنِيبُ الْمُدْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَجُلِ الْمُسَبِّحِينَ﴾

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، سورۃ القدر، ج: ۳۰، ص: ۱۹۶۲)

ترجمہ: گنہگار بندوں کا رونا مجھے زیادہ پسند ہے تسبیح پڑھنے والوں کی سجان اللہ سے۔

جو گنہگار اپنی استغفار اور توبہ میں اپنے رونے کی آہ وزاری کی آواز میں شامل کر دیتے ہیں وہ اس نعمتِ متزاد کے مستحق ہیں۔ ایک آدمی چپکے چپکے توبہ کر رہا ہے، چپکے چپکے استغفار کر رہا ہے وہ مستغفر بھی ہے، تائب بھی ہے مگر **أَنِّيْنُ الْمُدْنِيْنَ** کا شرف اسے حاصل نہیں۔ انین کے معنی آہ وزاری اور نالہ کے ہیں جس میں کچھ آواز بھی ہو یعنی تھوڑی سے بلند آواز کم سے کم خود سن لے یہ انین ہے جس کا نام اردو میں سکنی ہے۔ جب تک آواز نہ نکلے عربی لغت میں وہ انین نہیں، انین میں ہلکی سی آواز ہونا ضروری ہے لیکن اتنی زور سے بھی نہ چیخنے کے سارا محلہ گھبرا جائے اس میں اعتدال رہے۔ تو رحمۃ للعلیمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت ترجیحان ارحم الراحمین کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا **أَنِّيْنُ الْمُدْنِيْنَ أَحَبُ إِلَيْيِ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِيْنَ** کہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں وہ سب میرے محبوب ہیں، مقبول ہیں مگر سب میں زیادہ احباب وہ ہے جو گناہوں پر ندامت کے ساتھ آہ وزاری کر رہا ہو اور سکیاں لے رہا ہو اور رونے کی ہلکی آواز بلند ہو رہی ہو۔ اسی مضمون کو ایک اللہ والے شاعر نے یوں پیش کیا ہے۔

اے جلیل اشک گنہگار کے اک قظرے کو

ہے فضیلت تری تسبیح کے سو دانوں پر

اللہ سننے والا ہے تو گنہگاروں کا آہ و نالہ اور اللہ سے معافی مانگتے وقت تھوڑی سی آواز نکل جانا، ہلکی سی آہ نکل جانا یہ اللہ تعالیٰ کو احباب ہے تو جن کی انین احباب ہے وہ احباب نہ ہوں گے؟ گناہوں پر نادم ہو کر آہ کیجئے تو آپ بھی احباب ہو جائیں گے۔ **أَنِّيْنُ الْمُدْنِيْنَ** سے **مُدْنِيْنَ أَحَبُ الْمَحْبُوبِيْنَ** ہو جائیں گے۔ دو دوست ہیں ایک سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اور ایک اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ کچھ آہ و فغاں کر رہا ہے تو میرا ذوق یہ ہے کہ میں اسی کے پاس بیٹھوں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کا احباب ہے اور اس کے پاس جا کر میں بھی آہ و فغاں کروں گا، تو بے استغفار کروں گا کہ اے اللہ اس رونے والے کی برکت سے میری بھی بگڑی بنادے کہ یہاں وقت آپ کا احباب ہو رہا ہے۔

انین غیر اختیاری اور انین اختیاری

اب دو چیزیں ہیں۔ ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ انین یعنی آہ و نالہ تو غیر اختیاری ہے کہ معافی مانگتے خود بخود رونا آ جاتا ہے اور آہ و نالہ کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جیسے ملتزم پر میں نے دیکھا ہے کہ شاید ہی کوئی معافی مانگنے والا ایسا ہو جس کی آواز خود بخود نہ نکل جاتی ہو۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کے سہارے پر حاجی بے اختیار رونے لگتا ہے خواہ کتنا ہی سنگدل ہو وہاں آنسو نکل آتے ہیں اور سکیوں کی کچھ آوازیں بھی آتی ہیں لیکن یہ غیر اختیاری ہے۔ بعض وقت ہو سکتا ہے کہ معافی مانگتے وقت انین نہ نکلے یعنی

رونا نہ آئے اور آوازِ گریہ نہ پیدا ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو جس طرح رونا اختیاری نہیں ہے مگر ورنے کی شکل بنانے سے کام چل جائے گا ایسے ہی انین یعنی رونے کی آواز نکالو، نقل کرو، نقل سے ہی کام بن جائے گا۔ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے کہ ایک شخص کا بچہ معافی مانگتے ہوئے آہ و نالے کر رہا ہے اور سکیاں بھی بھر رہا ہے تو نفسیاتی طور پر باب پ بے چین ہو جاتا ہے، جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیتا ہے کہ کہیں سکیاں بھرتے بھرتے میرے بچے کے سر میں درد نہ ہو جائے، کہیں اس کو بھارت اٹیک نہ ہو جائے وہ اس کی پیٹھ پر تھکلیاں دیتا ہے کہ میرا بچہ جلدی سے رونا بند کر دے۔ اسی طرح جو گنگہ کارندامت سے گریہ وزاری کرے گا تو حق تعالیٰ کی رحمت کی تھکلیاں اس کے دل کو محوس ہو جائیں گی۔

اب کہیں پہنچے نہ ان کو تجھ سے غم
اے مرے اشکِ ندامت اب تو کشم

تو انین کی یہ دو فتنمیں پیش کر دیں:

(۱) انین غیر اختیاری کے خود بخود دل پر کیفیت طاری ہو گئی اور اللہ میاں سے معافی مانگتے چیخ نکل گئی اور آہ و فغاں کرنے لگا اور (۲) انین اختیاری کے بعض وقت آہ و نالہ کو دل نہیں چاہتا، آہ و نالہ کا اختیاری نہیں ہوتا تو آہ و نالہ کی نقلی تو اختیاری میں ہے، آہ و نالہ کی نقل کرو جس طرح اگر رونا نہ آئے تو ان ماجہ شریف میں رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَبَا كُوْنَا أَگر رونا تمہارے اختیاری میں نہیں ہے تو ایک کام تمہارے اختیاری میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ رونے والوں کی شکل بنالو۔ تم کو بکاء غیر اختیاری سے ہم بکاء اختیاری کی طرف راستہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر انین غیر اختیاری تم کو حاصل نہ ہو تو انین اختیاری حاصل کر لو یعنی آہ و نالے کی نقل ہی کرلو، اللہ کو اپنی سکیاں سنادو۔ اللہ میاں جانتے ہیں کہ یہ اس کی اصلی سکی نہیں ہے، یہ جو آہ و فغاں کر رہا ہے اصل نہیں ہے، یہ نقل کر رہا ہے مگر وہ کریم ایسا پیار اللہ ہے کہ ہماری نقل کو بھی محرومی سے ہم آہنگ نہیں کرتا اور ہمارے اوپر فضل کر دیتا ہے۔ (تبہ کے آنسو، صفحہ ۱۵-۲۹)

حدیث نمبر ۷

﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكِّلُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

(تفسیر القرطی، ج: ۸، ص: ۳۰۳، سنن ابی داؤد، کتابِ ادب، باب ما يقول اذا اصبح)

ترجمہ: میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کر لیا، اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

کہ جو شخص صحیح و شام سات مرتبہ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُّلُّ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر گم کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ (تفیر روح الحانی، پ: ۵۳؛ ح: ۱۱)

علمی لطیفہ

اس چھوٹی سی آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہموم کے لیے کیوں کافی ہو جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ رَبُّ ہے عرشِ عظیم کا اور عرشِ عظیم مرکزِ نظامِ کائنات ہے جہاں سے دونوں جہاں کے نیچے صادر ہوتے ہیں۔ پس جب بندہ نے اپنا باطر پِ عرشِ عظیم سے قائم کر لیا تو مرکزِ نظامِ کائنات کے رب کی پناہ میں آگیا۔ پھر غموم و ہموم کہاں باقی رہ سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے۔

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری

اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

اور ابن نجار نے اپنی تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ جو شخص صحیح کو سات مرتبہ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ آخر تک پڑھ لے گا، نہیں پہنچے گی اس کو اس دن اور اس رات میں کوئی بے چینی اور نہ کوئی مصیبت، اور نہ وہ ڈوبے گا۔ (قرآن و حدیث کے انمول خزانے)

حدیث نمبر اے

﴿أَلَا وَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَالِحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبرأ للدينه، ج: ۱، ص: ۱۳)

ترجمہ: تحقیق جسم میں ایک گوشٹ کا ٹکڑا ہے جب وہ اچھا ہوتا ہے تو تمام جسم اچھا ہوتا ہے اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے انصاری صحابی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد مسلمین انصار میں یہ سب سے پہلے بچے ہیں جو تولد ہوئے۔ یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں اور کوفہ میں رہتے تھے۔ اور شام کے ایک شہر (جس کا نام حمص ہے) کے گورنر بنائے گئے اور جس وقت یہ آٹھ سال سات مہینہ کے تھے اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اور بالغ ہونے کے بعد منبر پر بیان کی جس کو صحابہ نے قبول کیا۔

مسئلہ: اس میں دلیل ہے کہ جب بچے میں عقلِ میز پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کی روایت معتبر ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ تَحْمُلِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَلِلنَّعْمَانَ ثَمَانَ سِنِينَ۔ (فتح الباری، ج: ۱، ص: ۱۲۶)

تشریح: الا وَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مِنْ جُوَادًا هُوَ وَ مِنْ جُمَلَهُ مَقْدِرٌ پُرْعَطْفٌ هُوَ جُوَادٌ هُوَ وَ هِيَ إِنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ (مضغت) قلب کو مضغتہ سے اس لیے تعبیر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جسم کے مقابلہ میں قلب بہت چھوٹا ہے لیکن قلب کی اصلاح و نساؤ قلب کے تابع ہے۔ لَاَنَّ الْقَلْبَ سُلْطَانُ الْبَدَنَ لَمَّا صَلَحَ السُّلْطَانَ صَلَحَتِ الرَّعِيَّةُ اس لیے کہ قلب جسم کا بادشاہ ہے جب بادشاہ صحیح ہو گا تو رعیت بھی صحیح ہو گی۔ (عمدة القارى)

تشریح از مرقاہ، ج: ۶، ص: ۳۶: اِذَا صَلَحَتْ اَى تَنَورَتْ بِالْإِيمَانِ وَالْعُرْفَانِ وَالْإِيْقَانِ لِيْنِي جب قلب منور ہو جائے نور ایمان، نور عرفان اور نور ایقان سے۔ صَلَحَ الْجَسَدُ اَى اَعْضَاءُ هُوَ كُلُّهُ بِالْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ لیعنی جسم کے اعضاء سے اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ اور احوالی جملہ ظاہر ہوں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ اَى اِذَا تَلَفَّتْ وَأَظْلَمَتْ بِالْجُحُودِ وَالشَّكِ وَالْكُفَرَانِ لیعنی جب قلب بر باد ہو جائے ظلمتوں سے بسبب جو داور شک اور کفر کے۔ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَى بِالْفُجُورِ وَالْعُصْبَانِ فَعَلَى الْمُكَلِّفِ اَنْ يَقْبِلَ عَلَيْهَا وَيَمْنَعُهَا عَنِ الْاَنْهَمَاكِ فِي الشَّهَوَاتِ حَتَّى لَا يُبَادِرُ إِلَى الشُّبُهَاتِ وَلَا يَسْتَعِمِلُ جَوَارِحَهُ بِإِقْتَرَافِ الْمُحَرَّمَاتِ لیعنی جسم فاسد ہو گا نافرمانی سے اور گناہوں سے۔ پس مکلف پر یعنی ہر شخص پرواجب ہے کہ قلب کی نگرانی رکھے اور اس کو روک کر کے خواہشاتِ نفسانیہ میں منہک ہونے سے یہاں تک کہ بہہاتِ معصیت سے بھی دور رہے اور اس کے جوارح نہ استعمال ہوں ارتکابِ محرمات میں۔ الا وَ هِيَ اَى الْمُضْغَةُ الْمُوْصُوفَةُ الْقَلْبُ فَهُوَ كَالْمَلِكُ وَ اَلْأَعْصَاءُ كَالرَّعِيَّةُ اس لیے کہ قلب مثل بادشاہ کے ہے اور اعضا اس کی رعایا ہیں۔ فَاهْمُ الْأُمُورِ مَرَاعِاتُهُ پس نہایت اہم امور میں سے ہے قلب کی اصلاح اور نگرانی۔

قلب کا مفہوم

قَدْ سُمِّيَ الْقَلْبُ قَلْبًا مِنْ تَقْلِيهِ
فَاحْذَرْ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ قَلْبٍ وَ تَحْوِيلٍ

جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے۔ قلب کا نام قلب اس لیے ہے کہ وہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ پس سخت اہتمام رکھو کہ قلب حق سے باطل کی طرف نہ پھر جائے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُكَثِّرُ أَنْ يَقُولُ يَا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ ثَبِّ قَلْبِيْ عَلَى دِينِكَ حَسْوِرِكَمْ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ اے دلوں کے بد لئے والے، میرے دل کو دین پر قائم رکھیے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قلب کو امیر البدن اور قلب کو اس کی رعیت فرمایا اور رعیت کی صلاح و فساد موقوف ہے امیر کی صلاح و فساد پر۔ فرماتے ہیں:

﴿لَاَنَّهُ أَمِيرُ الْبَدْنِ وَبِصَلَاحِ الْأَمِيرِ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ وَبِفَسَادِهِ تَفْسُدُ وَأَشْرَفَ مَا فِي الْإِنْسَانِ قَلْبُهُ فَإِنَّهُ الْعَالَمُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْجَوَارِحُ خَدْمُ لَهُ﴾

(ارشاد الساری لشرح البخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبرأ الدين، ج: ۱، ص: ۱۲۲)

اس حدیث سے اصلاح قلب پر استدلال

﴿سُمِّيَ الْقَلْبُ قَلْبًا لِتَقْلِيهِ فِي الْأُمُورِ وَخَاصَّ الْقَلْبُ بِذَالِكَ لَاَنَّهُ أَمِيرُ الْبَدْنِ وَبِصَلَاحِ الْأَمِيرِ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ وَبِفَسَادِهِ تَفْسُدُ وَفِيهِ تَبَيِّنُهُ عَلَى تَعْظِيمِ قَدْرِ الْقَلْبِ وَالْحَتِّ عَلَى صَلَاحِهِ﴾

(فتح الباری، کتاب الایمان، باب فضل من استبرأ الدين، ج: ۱، ص: ۱۲۸)

قلب کا نام قلب اس لیے رکھا گیا کہ وہ متقلب فی الامور ہوتا ہے اور اس نام کے ساتھ قلب کو خاص کیا گیا۔ کیونکہ قلب امیر البدن ہے امیر کی اصلاح سے رعایا کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے فساد سے رعایا کا فساد ہوتا ہے۔

اور ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اصلاح قلب کا عظیم الشان ثبوت ہے جیسا کہ صوفیائے کرام کا معمول ہے۔ اگر قلب سے گناہ سرزد ہوتے ہیں (مثلاً ڈاڑھی منڈانا، ٹخنے سے نیچے پا جامہ لٹکانا، بد رنگا ہی کرنا وغیرہ) تو یہ سب قلب کے فساد کی علامت ہے۔ اصلاح قلب کے لیے اصلاح قلب لازم ہے اور فساد قلب کے لیے فساد قلب لازم ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔

دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو
جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں

قلب سلیم کی تفسیر

جب قلب صالح ہو جاتا ہے اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ قلب سلیم کی پانچ تفسیریں علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں اس آیت کے ذیل میں:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُوْنٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

(سورہ الشعرا، آیہ: ۸۹)

ترجمہ: اس دن میں کنجات کے لیے نہ مال کام آوے نہ اولاد۔ مگر ہاں اس کی نجات ہو گی جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئے گا۔

۱۔ الَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ فِي سَبِيلِ الْبَرِّ

قلپِ سلیم وہ ہے کہ جو مال خرچ کرے نیک راستے میں۔

۲۔ الَّذِي يُرْشِدُ بَنِيهِ إِلَى الْحَقِّ

قلپِ سلیم وہ ہے جو اپنی اولاد کو نیک راستے پر لانے کی کوشش کرے۔

یہ دو تفسیر یوم لا یَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونٌ کے پیش نظر اس کے ربط کو متوظر رکھتے ہوئے کی گئیں۔

۳۔ الَّذِي يَكُونُ قَلْبَهُ خَالِيًّا مِنَ الْعَقَائِيدِ الْبَاطِلَةِ أَيْ مِنَ الْكُفُرِ وَالشِّرْكِ وَالْبَدْعَةِ.

قلپِ سلیم وہ ہے جو عقائدِ باطلہ یعنی کفر و شرک اور بدعت سے خالی ہو۔

۴۔ الَّذِي يَكُونُ قَلْبَهُ خَالِيًّا مِنَ الشَّهَوَاتِ أَتَى تُؤَدِّيُ إِلَى النَّارِ

قلپِ سلیم وہ ہے جو ان تقاضائے شہوانیہ کے غلبہ سے نجات پا جائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔

۵۔ قَالَ سُفِيَّانُ ثُوْرِيُّ الَّذِي يَكُونُ قَلْبَهُ خَالِيًّا عَمَّا سِوَى اللَّهِ

حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلپِ سلیم وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو۔

(تفسیر روح المعانی، ج: ۱۹، ص: ۱۰۱)

جیسا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ۔

دل میرا ہو جائے اک میدان ہو

تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو

اور میرے تن میں بجائے آب و گل

درد دل ہو درد دل ہو درد دل

غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر

تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر

اور۔

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی

اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی

﴿الْأَسْمُ الْأَعْظَمُ هُوَ اللَّهُ بِشَرْطٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ سِوَى اللَّهِ﴾

ترجمہ: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسمِ اعظم لفظ اللہ ہے بشرطیکہ اللہ زبان سے نکلے تو قلب غیر اللہ سے خالی ہو۔

گذرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے
مجھے تو یہ جہاں بے آسمان معلوم ہوتا ہے

علامہ حجی الدین ابو زکریانووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے اصلاح باطن پر جس کا صوفیاء اہتمام کرتے ہیں۔ هذَا الْحَدِیْثُ التَّأْكِيْدُ عَلَى السَّعْيِ فِي اِصْلَاحِ الْقُلُّ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اصلاح قلب کے حاصل کرنے پر۔ (شرح مسلم شریف، ج: ۲، ص: ۲۸، مطبوعہ دلیل)
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال کی صحت و فساد کا مدار قلب کے صلاح و فساد پر ہے۔

وَمِنِ اسْلَامٍ مِّلْ اس حدیث کی حیثیت

حدیث أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً لَّخْ كومحمد بن نے عماد الدین فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں قالَ النَّوْوَى رَحْمَةُ اللَّهِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى عَظِيمِ مَوْقَعِ هَذَا الْحَدِيْثِ وَكَثُرَةِ فَوَائِدِهِ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْأَحَادِيْثِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ اِسْلَامٍ قِيلَ هِيَ ثَالِثُ حَدِيْثِ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ وَ حَدِيْثُ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامٍ الْمُرْءِ تَرُكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ وَ هَذَا الْحَدِيْثُ۔ (مرقاۃ، ج: ۲، ص: ۳۵)

عبارت شرح مسلم للنووی، ج: ۲، ص: ۲۸ مطبوعہ دلیل:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى عَظِيمِ وَقْعِ هَذَا الْحَدِيْثِ وَ كَثُرَةِ فَوَائِدِهِ وَ إِنَّهُ أَحَدُ الْأَحَادِيْثِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ اِسْلَامٍ قَالَ جَمَاعَةً هُوَ ثُلُثُ اِسْلَامٍ وَ إِنَّ اِسْلَامَ يَدُورُ عَلَيْهِ وَ عَلَى حَدِيْثِ، الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ وَ حَدِيْثُ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامٍ الْمُرْءِ تَرُكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ۔

ترجمہ: علماء کا اجماع ہے کہ یہ حدیث عظیم الشان ہے اور کشیر الغواہ ہے اور یہ حدیث ان تین احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا مدار مدار ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ یہ حدیث ثلث اسلام ہے (یعنی اس میں تہائی اسلام ہے) وہ تین احادیث جن پر مدار اسلام ہے یہ ہیں:

۱۔ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةًالخ

۲۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِالخ

۳۔ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامٍ الْمُرْءِ تَرُكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

۱۔ ترجمہ ہو چکا۔

۲۔ اعمال کی قبولیت کا مدار اخلاص نیت پر ہے۔

۳۔ آدمی کا حسن اسلام لا یعنی اور فضول بالتوں کے ترک کر دینے سے ہے۔ (شکول معرفت، صفحہ: ۱۳۶-۱۳۷)

حدیث نمبر ۲۷

﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدُعْوَةٍ لَّيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَّلَا قَطْبِيعَةٌ رَّحِيمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا اِحْدَى ثَلَاثٍ اِمَّا اِنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ اِمَّا اِنْ يَدْخُرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَ اِمَّا اِنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا: اِذَا نُكْثِرْ ﴾
قالَ: اللَّهُ اَكْثَرُ﴾

(مشکوہ المصایب، کتاب الدعوات، ص: ۱۹۶)

قبولیتِ دعا کی صورتیں

بعض لوگ شروع میں تو خوب خشوع و خصوص سے دعا کرتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد ان کے دل میں دعا کی قبولیت کے سلسلہ میں وسو سے آنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں ہماری دعا قبول ہوتی یا نہیں، اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی بہت سی صورتیں ہیں، اگر ان کا علم نہیں ہوگا تو شیطان کے داؤ پیچ تم پر کارگر ہو جائیں گے اور شیطان تمہیں مایوس کر دے گا، پہلی صورت تو یہ ہے کہ بندہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دے دیں یعنی جو چیز اس نے مانگی وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی، ایک صورت تو یہ ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنادیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہماری جو دعا کیں دنیا میں قبول نہیں ہو کیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر انتاز یادہ اجر عطا کریں گے، ان کا انتاز یادہ بدل دیں گے کہ مونی یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہتی، لہذا دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔

تیسرا صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدله میں کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری روایات میں اور بھی صورتیں ہیں مثلاً بعض بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ اپنے عمل میں کمی کی وجہ سے اس درجہ کو حاصل نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں یا اولاد میں کوئی آزمائش دیتے ہیں اور پھر اس پر صبر کی طاقت بھی دے دیتے ہیں یہاں تک کہ اس بلا اور مصیبت کی وجہ سے وہ بندہ اس بڑے درجہ کو پالیتا ہے، لہذا مومن کو چاہیے کہ کسی صورت میں مصیبت سے نہ گھبراۓ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، مصیبت سے نجات تو مانگے لیکن اس کو اپنے لیے مفید سمجھے، اگر دعا بظاہر قبول نہ ہو تو بھی اللہ سے مانگتا رہے، دعا مانگنا خود بہت بڑا انعام ہے، اگر کسی کو مصیبت میں خدا سے تعلق زیادہ بڑھ جائے اور اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق ہو جائے، ان سے دعا کر رہا ہو، اللہ سے دور کعات صلوٰۃ الحاجت پڑھ کر مانگ رہا ہو اور اُس مصیبت کی وجہ سے بہت سے گناہ چھوٹ گئے ہوں تو جو مصیبت

اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ دے، جو مصیبت غفلت کے پردوں کو چاک کر دے وہ مصیبت نہیں نعمت ہے۔
دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی

لیکن قبولیت دعا کی صورتیں نہ جانے سے بعض اوقات بڑا دھوکا ہو جاتا ہے، آدمی کو شکایت ہو جاتی ہے کہ ہماری دعائیں دن سے قبول نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جو تم مانگتے ہو اور کبھی وہ تو نہیں ملتی لیکن آخرت میں تمہیں اس کا بدله دیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس چیز کا ملنا اللہ کے نزدیک تمہارے لیے نقصان دہ ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی برکت سے کوئی بڑی مصیبت یا بلاؤال دی جاتی ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ دعاوں کے قبول ہونے کی اتنی فقتمیں ہیں اور کسی صورت میں دعا رد نہیں ہوتی، یا تو دنیا میں مل جائے گی یا آخرت میں اس کا بدله مل جائے گا یا کوئی بلا دور ہو جائے گی یعنی دعا ہر صورت میں قبول ہوگی تو صحابہ نے کہا اداً نُکْثُرُ، اکْثَرُ يُكِثِرُ کا جمع متکلم نُکْثُرُ ہے یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تو ہم خوب دعا مانگیں گے، دعا میں خوب کثرت کریں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہُ أَكْثُرُ اللَّهَ سَمَّ تَجْنَازِ زِيَادَهْ مانگو گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، تمہارے مانگنے کی تعداد سے خدا کے دینے کی تعداد زیادہ ہے، جیسے کوئی دنیا کے کریم شخص سے ایک بول شہد مانگنے گیا اس نے دومن کی مشک دے دی، اس شخص نے کہا کہ حضور میں نے تو ایک ہی ایک بول مانگی تھی، آپ نے مشک بھر کر دے دی، اس کریم نے کہا کہ تم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنے ظرف کے مطابق دیا، میری سخاوت کا تقاضہ یہ تھا کہ میں پوری مشک دے دوں۔ معلوم ہوا کہ بندے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی شانِ کرم کے مطابق دیتے ہیں۔

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیے ہیں دُر بے بہا دیے ہیں

پانچ قسم کی دعا میں رد نہیں ہوتیں

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پانچ قسم کی دعا میں رد نہیں فرماتے
 نمبر (۱) مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔

ظلہ کرنے سے بچنا فرض ہے

اب مظلوم کون ہے؟ اس کو بھی سمجھ لو، کبھی انسان ماں باپ سے اڑ جاتا ہے تو ماں باپ مظلوم ہو گئے، ماں باپ سے بد تینی سے بات کر لی، ماں باپ کا دل دکھ گیا، بس ظلم ہو گیا، دل کا دکھانا، دل کو سٹانا

اسی کا نام ظلم ہے، اس سے ساری عبادت ناس ہو جاتی ہے۔ ایک بڑھیا رات بھر عبادت کرتی تھی اور دن بھر روزہ رکھتی تھی مگر زبان کی نہایت خراب تھی، سارا محلہ اس سے تنگ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النَّارِ يَعْوِرُتْ جَهَنَّمَ مِنْ جَانَّةِ كَيْمَانٍ، اب وَهُوَ عُورَتْ بَحْرِي اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں جو اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں اور وہ مرد بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالیں جو ذرا ذرا اسی بات پر بیویوں کو ستاتے ہیں اور اس کی آہ لیتے ہیں حالانکہ وہ بیچاری نمازی بھی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے مگر پھر بھی ستائے جا رہے ہیں، اب اگر اس کے آنسو نکل آئے تو جس قدر باب اپنی بیٹی کی مظلومیت سے غمگین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ نار اصکی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں۔ اسی طرح بیوی بھی شوہر کو نہ ستائے۔

بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک بدکار عورت نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، قریب ہی ایک کنوں تھا مگر اس میں رسی یا ڈول نہیں تھا:

﴿فَنَزَّعْتُ خُفَّهَا فَأَوْثَقْتُهُ بِخَمَارِهَا فَنَزَّعْتُ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغَفَرَ لَهَا بِذَلِكَ﴾

(صحیح البخاری، کتاب بدعه الخلق، باب اذا وقع الذباب في شراب)

اس عورت نے اپنا موزہ نکالا پھر اسے اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنوں میں ڈالا اور اس میں پانی بھر کر کتے کو پلایا جس سے وہ زندہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے اُس بدکار عورت کی مغفرت ہو گئی، دیکھو! ایک کتنے کو خوش کرنے پر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق پر اس کی مغفرت ہو گئی، آج ہمارا اپنے مسلمان بھائیوں سے کیا معاملہ ہے؟ کتنے کو پانی پلانے سے تو وہ بدکار عورت جنتی ہو گئی اور ہم اپنی بیویوں کو ستارتے ہیں، بیویاں شوہروں کو ستارتے ہیں، مسلمان بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے، کیا حال ہے ہمارا؟ اس کا خاص خیال رکھو کہ کسی پر بھی ظلم نہ کرو، میں اپنے دوستوں سے بار بار کہتا ہوں کہ نہ شوہر عورت پر ظلم کرے، نہ عورت اپنے شوہر پر ظلم کرے حتیٰ کہ چیزوں پر بھی ظلم نہ کرو، دیکھ کر چلو کہ کوئی چیونٹی میرے پیر کے نیچے تو نہیں آ رہی ہے، جان بوجھ کر کسی چیونٹی پر پاؤں نہ رکھو۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی چیونٹی پر پیر رکھتا ہے تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جو ہاتھی کے پیر رکھنے سے انسان کا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پانچ قسم کی دعا میں روہنیں فرماتے، ایک مظلوم کی دعا روہنیں فرماتے، دوسرے حاجی کی دعا روہنیں ہوتی جب تک کہ وہ گھروالیں پنہیں آ جاتا۔

فرض حج نہ کرنے پر وعید

بیہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ بعض لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ اسے ادا کرنے میں

لا پرواہی کرتے ہیں بعض مال کی محبت سے اور بعض دوسرا وجہ سے۔ تو خوب سمجھ لجیے کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ بغیر کسی عذر اور مجبوری کے حج میں تاخیر کرتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدعا فرماتے ہیں کہ یہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی سخت وعید ہے لہذا جس پر حج فرض ہو چکا ہے اسے جلدی کرنی چاہیے۔

تیسرا نمبر پر مجاہد کی دعا رہنیں ہوتی، جب تک وہ جہاد سے واپس نہیں آ جاتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نمبر ۲۔ مریض کی دعا رہنیں ہوتی، ڈاکٹروں کو مریضوں کی دعا لینے کا زیادہ موقع ملتا ہے لہذا جب وہ مریض دیکھنے جائیں تو مریض سے اپنے لیے دعا کرائیں اور اس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کوشقادے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھیں:

﴿أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ﴾

(سنن ابی داؤد، باب الدعاء للمریض عند العيادة، ج: ۲، ص: ۸۶)

اس کا مطلب ہے کہ میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عظیم سے، عرش عظیم کے رب سے کہ وہ تم کوشقادے، حدیث میں آتا ہے کہ مریض کے پاس اس کو پڑھ لیا جائے تو اگر اس کی زندگی مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد شفادے دیتے ہیں۔

میرے بیٹے مولانا مظہر میاں کو بخار تھا، مولانا ابراہم الحق صاحب ڈھا کہ میں تھے اور آخرت بھی وہیں تھا، حضرت سے میں نے عرض کیا کہ حضرت میرے بیٹے کو بخار ہو رہا ہے، حضرت نے فرمایا کہ ٹیلی فون ملاؤ، ڈھا کے سے کراچی ٹیلی فون ملایا گیا اور حضرت نے ٹیلی فون پر یہ دعا سات مرتبہ پڑھی، جب میں واپس کراچی آیا تو مظہر میاں نے کہا کہ دعا پڑھتے ہی بخار بھاگنے لگا، ڈاکٹروں کو خاص طور سے یہ دعا نوٹ کر لئی چاہیے اور مریض سے کہنا چاہیے کہ تم بھی ہمارے لیے دعا کرو کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ شفافہ پائے، مریض کی دعا پر فرشتے آئیں کہتے ہیں لہذا مریض سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اور نمبر پانچ یہ کہ اللہ تعالیٰ بھائی کی دعا بھائی کے لیے رہنیں فرماتے جبکہ وہ اس کے لیے غائبانہ دعا کرے، اس لیے ہمارے بزرگوں کا دستور ہے کہ سب سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا کیونکہ غائبانہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔

کون سی دعا جلد قبول ہوتی ہے؟

اب دعا کی ان پانچوں قسموں میں کس دعا کی رفتار زیادہ تیز ہے، دعا کی پانچ ٹرینوں کا جو تذکرہ ہوا، ان میں کون سی ٹرین منزل پر جلد پہنچتی ہے؟ اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتا ہے ہیں:

﴿إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَايَبٍ﴾
(سنن ابی داؤد، کتاب الصلوة)

بھائی کی دعا جو بھائی کے لیے غائبانہ کی جائے وہ سب سے زیادہ جلد قبول ہوتی ہے لیکن اس کا مسلمان بھائی اس کے پاس موجود نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو ایسی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اللہ والوں کے پاس کثرت سے آنا جانا رکھتا ہے تو اللہ والے اس کے لیے اپنی دعا کی رفتار اور زیادہ تیز کر دیتے ہیں کیونکہ اسے بار بار دیکھنے سے اس کی یاد اور زیادہ آتی ہے، لہذا اللہ والوں سے بھی دعا کے لیے کہتا رہے اور دوسرے لوگوں سے بھی دعا کرتا رہے، بڑے بھی اپنے چھوٹوں سے دعا کے لیے کہتے ہوئے نہ شرمائیں، اُستاد شاگرد سے، شیخ مرید سے اور باپ بیٹی سے دعا کرائے، اپنے چھوٹوں سے دعا کرانا بھی سنت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں عمرہ کراؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿أَيُّ أَخَّى أَشْرُكْنَا فِي دُعَائِكَ وَ لَا تَنْسَنَا﴾

(سنن الترمذی، ابواب الدعوات)

اے میرے بھائی! مجھے اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا، بھولنا نہیں، تو بتاؤ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کے لیے فرماتا ہے ہیں لہذا اپنے چھوٹوں سے بھی دعا کرو، سب سے جلد دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ کرے۔ (دستک آہونفان)

حدیث نمبر ۳۷

﴿اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا وَ ارْزُقْنَا جَنَاحَاهَا وَ حَبِّنَا إِلَى أَهْلِهَا وَ حَبِّ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا﴾
(حسن حسین)

دعا یے سفر کی عجیب و غریب تشریح

سفر کی جو دعا سکھائی گئی اس میں صالحین کی صحبت مانگی گئی ہے اللہم بارک لَنَا فِيهَا وَ ارْزُقْنا جَنَاحَاهَا وَ حَبِّنَا إِلَى أَهْلِهَا وَ حَبِّ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا اے اللہ! اس بستی میں برکت عطا فرمادا اور یہاں کے پھل فروٹ اور نعمتیں بھی ہم کو نصیب فرمادا اور اس بستی والوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گمر ہمارے دل میں محبت صرف صالحین کی آئے، ایسا نہ ہو کہ یہودی اور عیسائیوں کی محبت آجائے، وَ حَبِّ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا اس بستی کے جو صالحین ہیں ان کی ہمیں محبت نصیب فرمادا۔ یہ مضمون دلالت کرتا ہے کہ یہ نبی کا مضمون ہے، غیر نبی ایسی دعا مانگ سکتا ہے؟ وہ تو کہے گا کہ سب کے دل میں میری محبت

اور میرے دل میں سب کی محبت ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی کہ اس بُتی والے صالح ہوں یا غیر صالح سب کے دل میں ہماری محبت ڈال دے تاکہ وہ ہم سے قریب ہو جائیں اور وہ ہم سے دین سیکھیں اور غیروں کے دل میں بھی جب ہماری محبت ہو گئی تو ان کے شر سے محفوظ رہیں گے لیکن ہمارے دل میں صرف صالحین کی محبت ہو کیونکہ غیروں کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے۔ اور اہل اللہ کی محبت سے اہل اللہ کے قلب کا ایمان و یقین ان کے پاس بیٹھنے والوں کو آہستہ آہستہ مل جاتا ہے۔ مجھے اپنا ایک بہت پرانا شعر یاد آیا۔

وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے

اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے

(نگاہِ نبوت میں محبت کا مقام)

حدیث نمبر ۷

﴿إِنَّ الْغِنَاءَ رُقْيَةُ الزِّنَا﴾

گانے بجانے کی حرمت

اُس پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گانے بجانے کو بھی منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہیں سے گانے بجانے کی آواز آرہی تھی، آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیں اور صحابہ سے پوچھتے رہے کہ اب بھی آواز آرہی ہے یا نہیں؟ جب صحابہ نے اطلاع دی کہ اب آوازنہیں آرہی ہے تب آپ نے انگلی مبارک کو کان سے نکالا۔ آہ! جس چیز کو سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں آج اُمت رات دن اسی گانے بجانے میں غرق ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی فرماتے ہیں انَّ الْغِنَاءَ رُقْيَةُ الزِّنَا گانا سننے سے زنا کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کا قول علامہ آلوی نے تفسیر روح المعانی میں نقل فرمایا ہے کہ خدا کی قسم یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوا حَدِيثُ الْخَ گانے کے حرام ہونے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگ گانا بجانے والی لوٹنڈیوں کو خریدتے تھے اور ان سے گانے بجانے سنوا کر لوگوں کا مال لوئتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے مَنْ يَشْتَرِي كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ گانا بجانا ایسے بے ایمانی پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھلتی کو الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ کما يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ گانا بجانا ایسے بے ایمانی پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھلتی کو اگاتا ہے۔ اب اس کو عبادت اور درجہ قربِ الہی سمجھا جاتا ہے، افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ جب دین مکمل ہو گیا اور میدانِ عرفات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیت الْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ نازل ہوئی

تو جن نافرمانیوں سے سرویر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے منع فرمایا اب اُسی نافرمانی کو امت کے بعض نادان لوگ قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار ہمارے تمام اکابر نے سنے ہیں لیکن چار شرطوں کے ساتھ جو میں آگے بیان کروں گا لیکن حدود شریعت کو توڑ کر اشعار اور قولی سننا حرام ہے۔ میں نے ایک زمانہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک طرف عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور دوسری طرف قولی ہو رہی تھی، کسی نے بھی نماز ادا نہیں کی، طبلے نج رہے تھے اور بیٹھے گردن ہلا رہے تھے۔ تحقیق کی تو قریبی لوگوں نے بتایا کہ قولوں نے اس وقت شراب پی ہوئی ہے، یہ رات بھر جاگ نہیں سکتے، نہ اتنی گردن ہلا سکتے ہیں، یہ سب نشے میں ہیں۔ بتائیے! عشاء کی نماز ضروری ہے یا شرابوں سے قولی سننا ضروری ہے؟ بعض جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قولی ہو رہی ہے، پیر صاحب کو وجہ کیا جا رہا ہے اور نماز کا اہتمام نہیں۔

علامہ شامی ابن عابدین فقہ شامی میں اور سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چار شرطیں ہیں جن سے اشعار کا سننا جائز ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی حمد میں ہوں یا سرویر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں لغت شریف ہو تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ طبلہ سارنگی نہ ہو، طبلہ سارنگی یعنی موسیقی پر حمد و لغت پڑھنا بے ادبی اور اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔

چار شرائط سے سماع جائز ہے

سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار شرطوں سے سماع یعنی اشعار محبت و معرفت کے سننا جائز ہے۔ شرط اول کیا ہے؟ سماع اہل ہوئی نہ باشد، سننے والا نفس کا بندہ نہ ہو، عشقِ مجازی میں مبتلا نہ ہو ورنہ عشقِ اشعار سے اس کو اپنے معشوق یاد آئیں گے، لہذا اپنی شرط یہ ہے کہ سننے والا نفس کا غلام نہ ہو، قلب اس کا تجھی مصطفیٰ ہو، غیر اللہ سے پاک ہو چکا ہوتا کہ محبت اور عشقِ الہی کی باقوں سے اس کا قلب اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے، معشوقانِ مجازی کی طرف نہ جائے۔ نمبر ۲، مضمون خلاف شرع نہ باشد، اشعار میں جو مضمون ہو وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، آسمان وزمین کے قلابے نہ ملارہا ہو، کسی کو خدا کے برادر نہ کر رہا ہو، اولیاء اللہ کو با اختیار اور خدا کی حکومت میں شریک نہ سمجھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برطانیہ کے بادشاہ کی طرح نہ سمجھ رہا ہو کہ جہاں اصل حکومت وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے ممبر کرتے ہیں اور بادشاہ اپنا خرچ پانی لے کر صرف دستخط پر گزارہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا ملت سمجھو، سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔

خدا فرما چکا قرآن کے اندر
میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر

وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے
جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے

ہاں آپ وسیلہ مانگ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، اولیاء کرام کے وسیلے سے کہیں کہاے اللہ! تیرے جتنے اولیاء ہیں ان کے صدقہ اور طفیل میں میری دعات بول فرمائیں، مگر مانگیں گے خدا ہی سے، وسیلہ پکڑیں گے اللہ کے اولیاء سے لیکن مانگیں گے خدا سے اور تیری شرط یہ ہے کہ آلہ ہلوہ لعب نہ باشد یعنی سارگی طبلہ نہ ہو، ساز و موسیقی نہ ہو، شریعت کے خلاف چیزیں نہ ہوں۔ میں بڑے درد سے پوچھتا ہوں کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی طبلہ بجا یا؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی طبلہ بجا یا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف فرماتھے، کیا آپ کی حیات مبارکہ میں کبھی یہ کام ہوا؟ ایک صاحب نے مجھ سے بحث کی کہ قوالی سے دل میں عشق و ترپ پیدا ہو جاتی ہے، طبلہ اور سارگی کے ساتھ جب شعر ہوتا ہے تو دل میں عشق الہی میں جوش آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتائی، صحابہ نے تابعین کو نہیں بتائی اور تابعین نے تابعین کو نہیں بتائی، یہ راز بس تمہارے سینے میں آ گیا، عشق الہی کی ترپ کا راز بس آپ کو ملا، پھر اس نے توبہ کی۔ یہ بات کشمیر کے رہنے والے ایک صاحب کی ہے، ماشا اللہ یہ اور ان کا سارا خاندان بدعاں اور خلاف شرع باتوں سے تائب ہو گیا اور چوتھی شرط ہے کہ مسمع کو دک وزن نہ باشد یعنی جو اشعار سنارہا ہے وہ بے ڈاڑھی مونچھ کا لڑکا نہ ہو اور عورت نہ ہو، عورتوں اور بے ڈاڑھی مونچھ کے لڑکوں سے نعمت شریف سننا جائز نہیں ہے۔ عورت اگر قرآن شریف بھی سننا جائز نہیں ہے۔ نبی کی بیبیوں کی آواز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا لا تَخْضُعْنَ بِالْقُوْلِ کہا نے نبی کی بیبیو! اگر تم کو صحابہ سے بات کرنا پڑے تو اپنی آوازوں کی طبعی نرمی کے خلاف آواز بھاری کر کے بات کرو فیض ممتعَ الذِّي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَرَنَهُ جن کے دل میں مرض ہے ان میں طمع پیدا ہوگی اور اسی احتیاط کی وجہ سے صحابہ کو حکم ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْتَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ اَصْحَابِ رَسُولٍ! جب تم نبی کی بیبیوں سے کسی بات کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پہلی اچانک نظر تو معاف ہے لیکن خبردار! کسی کی ماں، بہن، بیٹی پر دوسری نظر مت ڈالنا یہ حرام ہے۔ کیا آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا نا! ہماری نظر صاف ہے، دل پاک ہے، ارے! تو کیا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر غیر صاف اور غیر پاک تھی؟ یہ سب نفس کی چال ہے کہ خود کو پاک صاف کہہ کر بدنظری کرتا ہے۔ (آداب عشق رسول ﷺ)

حدیث نمبر ۵۷

﴿عَنْ أَبِي ذِرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِنِيْ
قَالَ أُوصِنِيْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ أَرْبَعَ لَامْرُكَ كُلُّهُ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ عَلَيْكَ تِلَاقُهُ
الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ
عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَنِ وَعَوْنَ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ
إِيَّاكَ وَكَثْرَةِ الضَّحْكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوُجُوهِ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ
كَانَ مُرَا قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لَا تَخْفُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا إِيمَانَ قُلْتُ زِدْنِيْ قَالَ لِي حِجْزُكَ عَنِ النَّاسِ مَا
تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ﴾ (مشکوہ المصایب، کتاب الاداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، ج: ۲، ص: ۳۱۳)

حضور ﷺ کی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو سات نصیحتیں

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست نصیحت پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
حضرت ابوذر غفاری کو سات نصیحتیں فرمائیں جس میں سے ایک نصیحت یہ ہے:

﴿أُوصِنِيْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ أَرْبَعَ لَامْرُكَ كُلُّهُ﴾

کہ تقویٰ سے رہوتیرے سب کام بن جائیں گے۔ ملاعلیٰ قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے
ہیں کہ چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا، تقویٰ کی برکت سے دونوں جہان بن جاتے ہیں کیونکہ تقویٰ کی
برکت سے وہ خدا کا دوست ہو گیا اور جب خدا کا دوست ہو گیا تو خدا کا یہ جہان بھی ہے اور وہ جہان بھی ہے،
خدادونوں جہان میں اس کو راضی رکھتا ہے، جب اب راضی ہو تو پردیس میں بھی بیٹھ کوخرچہ بھیجتا ہے اور کہتا
ہے کہ اچھا کھانا کھاؤ، ایک ملازم بھی رکھو اور خوب آرام سے رہو اور وطن میں بھی اسی فکر میں رہتا ہے کہ
میرے بیٹھ کوکوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح جو اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا بلکہ ہر وقت راضی رکھتا ہے تو رب
بھی اس کو پردیس اور وطن دونوں میں آرام سے رکھتا ہے۔

اس کے بعد حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مزید نصیحت فرمائیں تو دوسرا نصیحت
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی:

﴿عَلَيْكَ تِلَاقُهُ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ﴾
تلاؤت اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کرو۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن شریف طاقوں میں جز دنوں میں
لپٹے ہوئے ہیں، قرآن پاک کو طاقوں میں مت رکھو، روزانہ تلاوت کرو، چاہے ایک ہی رکوع ہو یا صرف
دس آیتیں ہی کیوں نہ ہوں البتہ مسافر مسٹنی ہے کیونکہ بروایت بخاری شریف اس کے فرض آدھے ہو جاتے

ہیں اور مسافر کو ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ وطن میں وظیفہ پڑھتا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ کثرتِ تلاوت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوتِ قرآن پاک اور ذکر اللہ کا انعام بتارہ ہے ہیں کہ آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا فرمائیں گے۔

صحابہ کرام کی دین کی حرص

آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں سے زیادہ مسائل نہ پوچھو، اگر تم نے نماز کا پوچھا تو روزہ گلے گا دیں گے، لیکن صحابہ کی دین کی پیاس بھجتی ہی نہ تھی۔ حضرت ابوذر غفاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں قُلْثُ زِدْنِيْ ہمیں اور زیادہ نصیحت کیجیے۔ دونیخنوں کے بعد عرض کیا اور فرمائیے، واہ یہ ہے طلبِ علم! ایک کتاب کے بعد دوسرے کتاب کی طرف بھی ہاتھ لپکتا ہے، جب دنیوی کتابوں کی اتنی طلب ہے تو علم جو آخرت کی چیز ہے اس کی طلب تو اور زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آخرت بن جائے تو آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا:

﴿عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدٌ لِلشَّيْطَنِ وَعُوْنَ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ﴾

کہ اے ابوذر! تم اکثر خاموش رہا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان تم سے ڈرے گا اور تمہارے دین کے تمام معاملوں میں اس سے مدد ملے گی۔ حضرت ابوذر غفاری نے پھر عرض کیا قُلْثُ زِدْنِيْ اے اللہ کے نبی! مجھے اور نصیحت کیجیے۔ کیا حرص ہے اور کیا حریص طالب علم ہے، لیکن یہ حرص مبارک ہے، ہر لمحے بری نہیں ہوتی۔

کثرتِ محک کی شرح

چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی:

﴿إِيَّاكَ وَكُثْرَةَ الْضَّحْكِ فَإِنَّهُ يُمْيِتُ الْقُلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ﴾

کثرتِ محک سے پچھو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس سے مراد وہ بُنی ہے جو غفلتِ قلب کے ساتھ ہو، اگر دل اللہ سے غافل نہیں تو ہنسنے میں مضاائقہ نہیں لیکن اس میں بھی اتنا غلونہ کرو کہ ہر وقت ہنستے ہی رہو اور نہ اتنی کمی کرو کہ نہ سنا ہی بھول جاؤ لہذا اللہ والے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے کیونکہ یہ مقوی قلب اور مقوی اعصاب ہے، بالکل خاموشی سے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں لہذا خاموشی میں بھی غلو نہ کرو، نہ ہر وقت ہنستے رہو نہ بالکل خاموش رہو بلکہ ہر چیز اعتدال میں ہو۔

ایک مرتبہ سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضرِ خدمت ہوئے، اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سی بات پر بُنی آگئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعادی:

﴿اَضْحِكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ﴾

(صحیح البخاری، باب التبسم والضحك، ج: ۲، ص: ۸۹۹)

اے اللہ کے رسول! اللہ آپ کو ہنستا ہی رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹوں کو بھی حق ہے کہ اپنے بزرگوں کو دعا دیں جیسا کہ ایک صحابی حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر عنایت فرمائی کہ اس پر بیٹھ جاؤ تو انہوں نے وہ چادر لے کر اس کو بوسہ دے کر واپس کر دی اور آپ علیہ السلام کو دعادی:

﴿اَكْرَمَكَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا أَكْرَمْتَنِي﴾

(المستدرک، کتاب الادب، ج: ۳، ص: ۲۹۲)

اے اللہ کے رسول! اللہ آپ کو عزت دے جیسا آپ نے مجھے عزت دی۔ معلوم ہوا کہ مرید اپنے شیخ کو، شاگرد استاد کو اور بیٹا باب کو دعا دے سکتا ہے لہذا آپ علیہ السلام کے ہنسنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا دی اضْحِكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب الضحك میں موجود ہے۔ اب اس پر ایک إشكال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص برابر ہنستا ہے اور ایک سینڈ بھی اس کی بھسی نہ رکے تو ہم کو اور آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ہر وقت ہنسنے سے کیا مراد ہے؟ محمد شین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہر وقت ہنسنے کی دعا انہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے:

﴿أَيُّ آدَامَ اللَّهُ فَرُحَكَ﴾

(المرقاۃ، باب: مناقب عمر رضی اللہ عنہ، ج: ۱۰، ص: ۳۸۸)

اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ آپ کی فرحت اور خوشی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ ہمیشہ ہنسنے سے یہاں فرحت قلب مراد ہے کیونکہ جب فرحت قلب نہ ہوگی تو ہنسی کیا آئے گی تو دلالت التزامی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا دی کہ آدامَ اللَّهُ فَرُحَكَ اللَّهُ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے قلب کی فرحتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھیں۔ اسی لیے عرض کر دیا کہ بعض لوگ ایک حدیث دیکھ کر مفتی بن جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے، ہنستے نہیں تھے، دوسری احادیث ان کے مطابعے میں نہیں تو جب کسی عالم کو ہنستے دیکھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے؟ حالانکہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضرت سعد ابن وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں تھے، انہوں نے جنگِ بدر میں ایک مشرک کو تیر سے مار گرا یا، وہ ننگا ہو گیا:

﴿فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِدِهِ﴾

(صحیح مسلم، ج: ۲، ص: ۲۸۱)

آپ علیہ السلام اتنا ہنسے کہ ڈاڑھیں مبارک نظر آنے لگیں، الہذا علم پورا ہونا چاہیے، اردو کی کتابیں پڑھ کر علماء کی اصلاح مت کیجیے، مفتی نہ بینے۔

ہنسنے میں بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو

غرض ہمارے بزرگ ہنسنے بھی ہیں اور ہنساتے بھی ہیں لیکن ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک مجلس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خوب ہنسنے اور مفتی شیعیت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے پیر بھائیوں کو بھی خوب ہنسایا، بعد میں خواجہ صاحب نے پوچھا کہ سچ سچ بتائیں ہنسی کی اس محفل میں کیا آپ کے دل اللہ سے غافل تھے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بجهہ ادب کے ہم سب خاموش ہو گئے، اس پر حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمد للہ اس وقت بھی میرا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھا اور پھر یہ شعر پڑھا۔

ہنسی بھی ہے گولیوں پر ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے
مگر جو دل رو رہا ہے چیم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے
اللہ والوں کی ہنسی اور اپنی ہنسی کو برابر ملت سمجھو کیونکہ وہ اظاہر ہنس رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دل پھر بھی رو رہا ہوتا ہے۔ اس پر میرا بھی ایک شعر ہے۔

لب ہیں خندان، جگر میں ترا درد و غم

تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم

اللہ والا اگر کار و بار بھی کر رہا ہے، مخلوق میں بھی بیٹھا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے مگر اس وقت بھی وہ خدا کے ساتھ ہے، جسم کے مرتبہ میں وہ آپ کے ساتھ ہے اور روح کے مرتبہ میں وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس مضمون کو اختر نے ایک اور شعر میں پیش کیا ہے۔

دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے
یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدار ہے

حق بات کہنے کا سلیقہ

پانچویں نصیحت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی:

﴿قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرِّاً﴾

حق بات کہو اگر چہ کڑوی ہو، لیکن دوستو! حق بات بھی اگر کہنا ہو تو اس کو بھی سلیقہ سے کہو، جیسے اگر کوئی اپنی ماں

سے کہے کہ اے میرے ابا کی بیوی! ناشتہ لاؤ تو ہے تو حق مگر ظالم نے حدیث کے مفہوم کو ضائع کر دیا۔ دین ہمیں ادب کا درس دیتا ہے، بے ادبی نہیں سکھاتا۔ دیکھو! حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑنے کا پنی طرف منسوب کیا، لیکن جب دو غلاموں کی دیوار کو سیدھا کیا تو اس کا اللہ کی طرف منسوب کیا، حالانکہ تینوں کام اللہ کے حکم سے یہی تھے، لیکن جو عیب کی بات تھی اس کا پنی طرف منسوب کیا فارِد ڈٹ آئی بھائی پس ارادہ کیا میں نے کہ کشتی کو عیب دار کروں اور جب معاملہ دیوار سیدھی کرنے کا آیا تو اپنے رب کی طرف نسبت کی:

﴿فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغاً أَشْدَّهُمَا وَ يَسْتَخِرْ جَائِنَزُهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾

(سورہ الکھف، آیہ: ۸۲)

الہزادوستو! حق بات بے شک کہو، ڈٹ کر کہو مگر موقع محل دیکھ کر ادب اور سلیقہ سے کہو جیسے شکاری جس چڑیا کا شکار کرنا چاہتا ہے تو اس کی بولی بھی سیکھتا ہے ورنہ وہ بھاگ جائے گی، اگر شاعر آیا ہے تو دو تین شعر پڑھ کر اس کو اللہ کے عشق میں پھنساؤ، اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو تھوڑی سی ڈاکٹری بھی سناؤ مثلاً اس سے کہو کہ فرانس کے ڈاکٹر پاگلوں کو مساوک کرتے ہیں جس سے گندامواداں کے دماغ سے نکلتا ہے اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں حالانکہ مساوک سے نماز کا ثواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اور کھانے کے بعد انگلیاں چانے سے ایک ایسا عاب نکلتا ہے جس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کا تجربہ ہے لیکن ہم ڈاکٹروں کے تجربہ کی وجہ سے انگلیاں نہیں چانٹتے بلکہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں چانٹتے ہیں۔ بالفرض اگر ڈاکٹر منع بھی کریں تو ہم ان کی نہیں مانیں گے، اپنے نبی کی مانیں گے۔ اسی طرح کھانے کا برتن صاف کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ برتن دعا دیتا ہے کہ اے اللہ! اس کو جہنم کی آگ سے اس طرح بچا جس طرح اس نے مجھے شیطان سے بچایا، اس حدیث کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شامی جلد نمبر ۵، کتاب الحظر والاباحة میں نقل فرمایا ہے۔

راہِ حق میں طعن و ملامت سے نہ ڈریں

اور چھٹی نصیحت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی:

﴿لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا إِيمَنِ﴾

اللہ کے راضی کرنے میں کسی کی ملامت کا خوف نہ کرو، اگر کوئی ہستا ہے تو ہنسنے دو، اگر کسی آدمی کو سخت پیاس لگی ہے اور کوئی شخص اسے ٹھٹھا شربت پلائے اور یہ جگہ اور بستی ایسی ہے کہ جہاں شربت پینے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ کیا یہ پیاسا شخص لوگوں کے مذاق اڑانے کے خوف سے شربت پینا چھوڑ دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی ایسی ہی پیاس مانگو کہ سارے عالم کی ملامتیں تمہیں اللہ کی

فرماں برداری کرنے سے نہ روک سکیں۔

اگر کوئی شکاری مچھلی شکار کر کے اسے دوبارہ دریا میں چھوڑ دے تو وہ دوبارہ دریا میں جائے گی یا نہیں؟ اور وہ دوسری سمندری مچھلیوں کی نی مذاق اور طعنوں کی فکر بھی نہیں کرے گی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سمندر کے بغیر ہمیں راحت اور آرام نہیں مل سکتا، خشکی میں تو موت ہے، اس لیے وہ کسی کے لئے طعن کی پرواہ نہیں کرے گی بلکہ دوبارہ سمندر میں جانے کی کوشش کرے گی۔ اسی طرح مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے معاملہ میں مخلوق کا خوف نہیں کرتا، کسی کی لعنت ملامت سے نہیں ڈرتا، اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا، برادری اور معاشرہ سے نہیں ڈرتا، اپنے علاقے اور ملک سے نہیں ڈرتا، سارا ملک اگر ڈاڑھی منڈادے لیکن وہ تنہا شیر کی طرح ڈاڑھی رکھتا ہے۔ ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ لاکھی کی آبادی میں ایک سکھ رہتا ہے لیکن وہ کافر ہو کر بھی اپنے گروناک کی محبت میں ڈاڑھی نہیں منڈاتا۔ بھائیو! ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے ایسا ایمان مانگو کہ اگر سارا جہاں کافر ہو جائے پھر بھی اے اللہ ہم آپ کونہ چھوڑیں، اسی کو عشق کہتے ہیں۔

میں ہوں اور حشر تک اس در کی جیسی سائی ہے

سر زاہد نہیں، یہ سر سودائی ہے

اپنے عیوب کا استحضار کھیں

اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتویں اور آخری نصیحت یہ فرمائی:

﴿يُحِبِّ جِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ﴾

کہ تمہیں اپنے نفس کے بارے میں معلوم ہے کہ تم نے کتنی بد معاشریاں کی ہیں، بالغ ہونے سے لے کر اب تک اپنابحال معلوم ہے، لیکن دوسروں کا عیب نظر آتا ہے تو پہاڑ کی مانند بہت بڑا لگتا ہے اور اپنا عیب چھپر نظر آتا ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اپنے عیب کا اتنا مطالعہ کرو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ (علم اور علماء کرام کی عظمت)

حدیث نمبر ۶۷

﴿بِصَلَاتِهِنَّ وَ صِيَامِهِنَّ وَ عِبَادَتِهِنَّ الْبَسَ اللهُ وُجُوهُهُنَّ الْنُّورُ﴾

(تفسیر روح المعانی، ج: ۲۷، ص: ۱۲۶)

جنت میں مسلمان عورتوں کی شان حسن

جب مسلمان عورتیں جنت میں جائیں گی تو حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ تقریر

روح المعانی میں علامہ آلوی السید محمود بغدادی نے لکھا ہے کہ امام المومنین حضرت امام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان یویاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یویاں جنت میں حوروں سے زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی۔ امام المومنین نے عرض کیا کہ بِمَ ذَاكَ انہیں یہ فضیلت کیوں ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿بِصَلَاتِهِنَّ وَ صِيَامِهِنَّ وَ عِبَادَتِهِنَّ الْبَسَ اللَّهُ وُجُوهُهُنَّ النُّورُ﴾

اللہ اپنی عبادت کا نوران کے چہروں پر ڈال دے گا کیونکہ ہماری یویوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، بچہ جننے کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، شوہروں کی خدمت کی ہے، اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور حوروں نے نماز روزہ کیا، نہ اللہ کے لیے کوئی اور تکلیف برداشت کی اس لیے ہماری عورتیں جنت میں حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی۔

دنیا کے چند دن کے لیے اپنی کم حسین یویوں پر راضی رہو، جیسے سفر کرتے ہو تو اسٹیشن کی چائے پینتے ہو ایں یا وہاں بھی گھر والی چائے ملتی ہے؟ دنیا اسٹیشن کا پلیٹ فارم ہے، پر دلیں میں ہو جیسی یوی بھی مل جائے اس کو ساری دنیا کی حسیناًوں سے بہتر سمجھو، اگر آپ کہیں کہ کیوں صاحب اپنی یوی کو سب سے حسین کیوں سمجھیں؟ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو تقدیر میں جو یوی لکھی ہے وہی ملتی ہے، آپ لا کھ ہاتھ پیر ما رو، تعویذیں دباؤ، وظیفے پڑھو، لیکن ملے گی وہی جو قسمت میں ہے۔

میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ جب امام ابوحنیفہ سبق پڑھاتے تو نظر کی حفاظت کے لیے ان کو پیچھے بٹھایا کرتے تھے، ایک دن چراغ کی روشنی میں عبارت پڑھتے ہوئے جب ان کی ڈاڑھی ملتے دیکھی تو فرمایا اسے بھی! تمہاری تو ڈاڑھی آگئی، اب سامنے آجائو۔

لیکن اتنے حسین شخص کی جب شادی ہوئی تو یوی ایسی ملی کہ اس کے لیے حسین کا لفظ بولنا جائز نہیں تھا، اس عورت تھی، عورت کا ڈھانچہ اور اسٹرکچر تھا، حسن کا ڈسٹریپر نام کو بھی نہیں تھا، لیکن امام صاحب نے کبھی اس کو طعنہ نہیں دیا کہ میں اتنا حسین ہوں تو مجھے کہاں سے مل گئی؟ کیونکہ اللہ والے اپنی یوی کو دنیا کے تمام حسینوں سے زیادہ حسین سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے مولیٰ نے عطا کی ہے۔
(قرب الہی کی منزیلیں)

حدیث نمبر ۷

﴿إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسُرُهُ مَتُونَةً﴾

(مشکوہة المصائب، کتاب النکاح)

سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے؟

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اعظم النکاح بَرَكَةً أَيْسُرُهُ مَتُونَةً سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہوا اور سادگی ہو۔ بے جا اخراجات میں پیسہ اڑانے سے بہتر ہے کہ وہی پیسہ بچا کر اپنی بیٹی کو دے دو، داما کو دے دو، مسجد میں دری پچھوادو، کسی طالب علم کا خرچہ برداشت کر لو غرض اپنے شخ میں مشورہ کر کے کسی صحیح مصرف میں لگادو۔ دعوت و لیمة جو مسنون ہے وہ لڑکے کے لیے ہے جس کے گھر بیوی آتی ہے مگر آج اُلٹا معاملہ ہے، لڑکی والا بھی لڑکے کے ہمراہ آنے والے سینکڑوں باراتیوں کے کھلانے پلانے پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، جس کی پانچ لڑکیاں ہیں وہ چھ لاکھ کا انتظام سوچتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، رشوت لیتا ہے اور لڑکے والوں پر بھی اتنی بڑی دعوت و لیمة کرنا ضروری نہیں کہ شامیانہ لگے، دس ہزار آدمی آئیں اور لاکھوں روپے کھلانے میں خرچ ہوں، پانچ آدمی سے بھی و لیمة ہو سکتا ہے، اگر کسی خاندان والے کو کوئی نہ بلائے تو اس کوشکایت کا حق نہیں ہے۔

صحابہ کرام اور اکابر کے نکاح میں سادگی

کراچی تو بہت بڑا شہر ہے مدینہ شریف کی چھوٹی سی بستی میں سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دعوت و لیمة میں نہیں بلایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر خوبیوں کا پیلارنگ لگادیکھ کر اندازہ لگایا اور پوچھا کہ شاید تم نے نکاح کر لیا لیکن آپ کو ذرا بھی ناگواری نہیں ہوئی کہ تم نے ہمیں دعوت و لیمة میں کیوں نہیں بلایا۔

میرے شیخ شاہ ابرار الحنفی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بہت بڑے اور معزز خاندان میں اپنی بیٹی دی۔ پروفیسر حکیم عرفان اللہ صاحب مجلس شوریٰ دیوبند کے ممبر اور طبیبیہ کالج علی گڑھ کے بہت بڑے حکیم تھے، حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو نا اور ایک بچہ اور لے آنا یعنی علی گڑھ سے ہر دوئی تین آدمی سے زیادہ نہ آئیں، بس اباجان آئیں، میٹا جو داماد بننے والا ہے اور ایک بچہ اور لاسکتے ہیں چوتھا آدمی نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں سادگی لیکن آج کہتے ہیں کہ سادگی اختیار کرنے سے ناک کٹ جائے گی، ارے ناک تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر سادگی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری عزت ہوتی۔

نکاح میں اسراف کا وبا

جب سے اُمت شادی بیاہ کے موقع پر خرافات اور تکلفات میں بمتلاع ہوئی ہے اس وقت سے مقرض ہونے، سودی قرضے اور رشوت لینے جیسی برا یوں میں بمتلا ہو گئی اور ان برا یوں کی جڑ یہی فضول خرچی اور اسراف ہے۔ جب نکاح کی برکت کم خرچ کرنے میں ہے تو امت برکت کیوں نہیں لیتی، کیوں زیادہ خرچ کر کے نام و نہود کر کے برکت سے محروم ہوتی ہے۔ (بے پروگری کی تباہ کاریاں)

حدیث نمبر ۸

فَلَمْ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ

(صحیح البخاری، کتاب تفسیر القرآن)

حدیث حُبِّبَ إِلَى الْخَلَاءُ پر ایک وجد آفرین علم

حُبِّبَ إِلَى الْخَلَاءُ (رواہ البخاری) دال بر محبوبیت خلوت ہے اور خلوتِ محضہ محلِ اعمال ولایت ہے کہ مناجات و تاؤہ و تضرع و رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَغَيْرُ ذَالِكَ انعامات و ثمرات قرب محتاج و موقوف بر تخلی مع الحق ہیں۔ مثل ذالک وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ دال بر مشقت نفس فی الجلوت ہے اگرچہ تبلیغ و دعوت الی اللہ و تزکیہ نفس عباد و غیر ذالک من اعمال ضروریہ موقوف و محتاج جلوت ہیں اور بواسطہ خدمتِ خلق باعثِ ترقی و قرب ہیں لیکن طبعاً رؤیتِ محبوب بلا واسطہ الہ ہے رؤیت بواسطہ مرآۃ سے وَلِذَالِكَ كَانَتِ الْخَلُوَةُ أَحَبَّ إِلَيْهِ لَا يَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَلُوُّ كَانَتْ شَاقَّةً عَلَى نَفْسِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا يَدْلُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاصْبِرْ نَفْسَكَ الخ۔

تسهیل از مرتب: بخاری شریف کی حدیث حُبِّبَ إِلَى الْخَلَاءُ نبوت ملنے سے پہلے مجھے خلوت محبوب کر دی گئی خلوت کی محبوبیت پر دلالت کرتی ہے اور خلوت ہی اعمال ولایت کا محل ہے کہ مناجات و دعا و آہ و زاری وغیرہ جملہ انعامات قرب خلوت مع الحق ہی پر موقوف ہیں۔ اور اسی طرح آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ نفس پر جلوت کے شاق ہونے کی دلالت کرتی ہے اگرچہ تبلیغ و دعوت اور بندوں کے نفس کا تزکیہ وغیرہ جیسے ضروری اعمال جلوت کے محتاج ہیں اور خدمتِ خلق کے واسطے سے ترقی و قرب کا باعث ہیں لیکن عاشق کو طبعاً دیدار محبوب بلا واسطہ زیادہ مرغوب والذ ہوتا ہے بہ نسبت دیدار بواسطہ آئینہ کے اور اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلوت زیادہ محبوب تھی جیسا کہ حدیث مذکور دلالت کرتی ہے اور جلوت آپ پر شاق تھی جیسا کہ آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ دلالت کرتی ہے۔) نیز یہی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مودید اور شاہد تھی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد حُبِّبَ

إِلَيْ الْخَلَاءُ كَـ۔ حَالَانِكَه آپ نے اپنے ارشاد پر کوئی دلیل بیان نہ فرمائی تھی لیکن حق تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول حُبِّ إِلَيْ الْخَلَاءُ وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ میں منصوص و مدلل و مُؤید بالقرآن فرمادیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ محوبیت و رفتہ قرب کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا لطف اس مثال سے واضح ہو سکتا ہے کہ کوئی عاشقِ دعویٰ کرے کہ میں خلوتِ معِ المحبوب کو حبِ سمجھتا ہوں پھر اس کا محبوب اس دعویٰ کی تائید میں دلیل بیان فرمائے، عاشقوں کے لیے یہ مقام وجد ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا خَصَّنِيَ اللَّهُ تَعَالَى شَانُهُ بِالْطَّفْلِ۔

تسهیل از مرتب: آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہاے نبی اگرچہ آپ کو خلوت میں ہمارے ساتھ مشغول ہونا مرغوب ہے لیکن صحابہ کو خوشبوئے محمدی میں بسانے کے لیے ان کے درمیان بیٹھنے میں اپنے نفس پر مشقت برداشت کیجئے۔ اس طرح یہ آیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد حُبِّ إِلَيْ الْخَلَاءُ کی تائید کرتی ہے حالانکہ آپ نے اپنے ارشاد پر کوئی دلیل بیان نہیں فرمائی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے حُبِّ إِلَيْ الْخَلَاءُ کی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ سے تائید فرمائکر اس کو قرآن پاک سے منصوص و مدلل کر دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ محوبیت اور مقامِ قرب کی رفتہ کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا لطف اس مثال سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کوئی عاشقِ دعویٰ کرے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کو بہت محبوب رکھتا ہوں پھر اس کا محبوب اس دعویٰ کی تائید میں دلیل بیان فرمائے کہ میرے عاشق کی محبت کی یہ دلیل ہے تو عاشقوں کے لیے یہ مقام وجد ہے۔)

اس حدیث مذکور اور آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ جلوت کے دینی کاموں میں جس قدر مسرور رہتے ہوں اور خلوت میں ذکر و شغل و تصویرِ محبوب میں دل اس قدر نہ مسرور ہوتا ہو تو یہ علامت ہے کہ اس شخص کی روح بقصدِ ادق دال کہ روح خوشی غبی ندید ہے مقامِ ولایت اتباع سنت کی برکت سے جس قدر مقربِ الی النبوت ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کو خلوتِ الذار جلوتِ اشق ہونے لگتی ہے لیکن تعمیلِ ارشاد و اصبر کے تحت ترکِ جلوت سے بھی احتراز کرتے ہیں کہ اختیارِ جلوت ہی میں بقاء دین بواسطہ مشاورت و اصلاح و دعوة الی اللہ موقف و مخصوص ہے و لنعم ما قال العارف الرومي في هذا المقام يؤيد هذا الحديث

بہر ایں کر دست منع آں با شکوه

از ترھب و زشن خلوت بکوہ

تانہ گردد فوت ایں نوع التقاء

کاں نظر بخت است و اکسیر بقا

مشورہ کن از گروہ صالحان
بر پیغمبر امر حم شوری بدال
یک زماں زیں قبلہ گر ذاہل شوی
سخرہ ہر قبلہ باطل شوی
چوں شوی تمیز ده رانا سپاس
بمحبد از تو خطرہ قبلہ شناس

(تسهیل از مرتب: اس حدیث مذکورہ اور آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ جلوت کے دینی کاموں میں تو مسرور رہتے ہیں لیکن جلوت میں ذکر و اذکار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے میں ان کا دل زیادہ مسرور نہیں ہوتا یہ علامت ہے کہ اس شخص کی روح ابھی مقامِ قرب سے نآشنا ہے۔ کسی کا مقامِ ولایت اتباع سنت کی برکت سے ذوقِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر تریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کو جلوت محبوب اور جلوت شاق ہونے لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ارشاد و اصیل نفسم کی تعمیل میں جلوت کو بھی ترک نہیں کرتے کیونکہ دین کی بقاء، تبلیغ و اصلاح اور دعوت الی اللہ کے ذریعہ جلوت اختیار کرنے ہی پر موقوف ہے۔) (خواجہ شریعت و طریقت، ص: ۲۸)

حدیث نمبر ۹۷

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ وَالْعَيْشَ بَعْدَ الْمَوْتِ﴾
(شعب الایمان للسیھقی)

حدیث صحبت کی عجیب تشریح

حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی جو دعا بارگاہِ حق میں عرض کی ہے اللہمَّ انِّي اسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ وَالْعَيْشَ بَعْدَ الْمَوْتِ تو اس ترتیب میں خاص علوم ہیں۔ صحبت کے بعد ہر لفظ کو صحبت سے خاص تعلق ہے۔ ہر مقصود بعد صحبت جو مذکور ہے صحبت کا موقوف علیہ ہے چنانچہ صحبت کے لیے عفت ضروری ہے، غیر عفیف اکثر یہاں ہو جاتا ہے اور عفت کے لیے امانت ضروری ہے۔ امانتِ چشم و صدر خاص طور سے اہم ہے اور امانت نام ہے مالک کے عطا فرمودہ اعضاء کو اور ان کی قوتیں کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ پس امانت کے خلاف استعمال سے صحبت کو نقصان اس وجہ سے بھی پہنچتا ہے کہ خیانت معصیت ہے اور ہر معصیت قلب کو بے سکون کرتی ہے اور بے سکونی قلب صحبت کو خراب کرتی ہے خواہ کتنی ہی عمده غذا کھائے، اسی طرح حسنِ خلق سے

صحت کو نفع ہوتا ہے۔ اگر مغلوب الغضب ہو یا مغلوب الشہوت ہو یا بے صبر ہو یا حریص ہو یا قانع نہ ہو یا توکل نہ ہو تو ہر خلق کی خرابی سے تشویش پیدا ہوتی ہے۔ غضب سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور عدم توکل و بے صبری سے ضعف ہو کر بلڈ پریشر ضرورت سے زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رضا بالقدر پر یعنی فیصلہ الٰہی پر راضی نہ رہنے سے دل پریشان رہتا ہے جس سے صحت کو تقصیان ہوتا ہے، کوئی غذا جسم کو نہیں لگتی، آدمی صاحبِ فراش ہو جاتا ہے اور عیش بعد الموت رضا بالقضاء کے لیے معین ہے ورنہ آدمی افلاس یا کسی تکلیف میں ہو تو مستقبل اور وطن کی راحت کی امید پر سفر کی صعوبت کا تخلی آسان ہو سکتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ محمد ابراہیم صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) نے اس تقریر کو بہت پسند فرمایا اور ڈاکٹروں کے اجتماع میں احقر سے خطاب کرایا تھا۔ (خواہن شریعت طریقت ج: ۲۷)

شرح حدیث بعنوانِ دُکر حدیث دعاء صحت کی الہامی تشریع

فرمایا کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے لیے یوں دعا فرمائی ہے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَافَةَ وَالْأُمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَ الرِّضَا بِالْقُدْرِ وَالْعِيشَ بَعْدَ الْمَوْتِ﴾ یہ بلاغتِ کلامِ نبوت ہے کہ الفاظ کی اس ترتیب میں خاص علوم ہیں، صحت کے بعد ہر لفظ کو صحت سے خاص تعلق ہے یعنی ہر مقدمہ بعد صحت جو مذکور ہے صحت کا موقوف علیہ ہے چنانچہ صحت کے لیے عفت (پاکدامنی) ضروری ہے، غیر عفیف اکثر بیمار ہو جاتا ہے اور عفت کے لیے امانت ضروری ہے اور امانت نام ہے مالک کے عطا فرمودہ اعضاء اور ان کی قوتیں کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اور سب سے اہم امانت دو ہیں۔ (۱) امانتِ چشم، (۲) امانتِ صدر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے یَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَ مَا تَخْفِي الصَّدُورُ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ کی خیانت اور دل کی خیانت سے باخبر ہیں۔ امانت کے خلاف استعمال کو خیانت کہتے ہیں۔ پس جو شخص امین ایمن اور امین الصدر ہو گا وہ اعضاء کی جملہ قوتیں کو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا اور امانت کے خلاف استعمال سے صحت کو اس وجہ سے بھی نقصان پہنچتا ہے کہ خیانت معصیت ہے اور ہر معصیت قلب کو بے سکون کرتی ہے اور قلب کی بے سکونی صحت کو خراب کرتی ہے خواہ کتنی ہی عمدہ غذا کھائے اور امانت کے لیے حسن خلق ضروری ہے مثلاً جس میں صبر ہو گا وہ شہوات خلاف شریعت کو ترک کرے گا اور قلب و نظر کو خیانت سے بچائے گا۔ پس حسن خلق سے بھی صحت کو نفع ہوتا ہے۔ اس کے برکت اگر مغلوب الغضب ہو یا مغلوب الشہوت ہو یا بے صبر ہو یا حریص ہو قانع نہ ہو یا توکل وغیرہ نہ ہو تو ہر خلق کی خرابی سے تشویش پیدا ہوتی ہے جو مضر صحت ہے مثلاً بے جا غصب سے ہائی بلڈ پریشر ہو کر فال ہجھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عدم توکل اور بے صبری سے ضعف اور دورہ قلب ہو سکتا ہے اور حسن خلق موقوف ہے رضا بالقدر پر کیونکہ جو قدر یہ پر راضی ہو گا وہ مخالف حالات میں بھی راضی بردار ہے گا اور اطمینان قلب صحت کے لیے ضروری

ہے اور فیصلہ الٰہی پر راضی نہ ہونے سے دل پر بیشان رہتا ہے جس سے محنت کو نقصان پہنچتا ہے اور کوئی غذا جسم کو نہیں لگتی یہاں تک کہ آدمی صاحبِ فراش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اعیش بعد الموت جو فرمایا یہ رضا بالقصنا کے لیے معین ہے کیونکہ جس طرح مستقبل میں وطن کی راحت کی امید پر سفر کی صعوبتوں کا تخلی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح وطن اصلی کی راحت کی امید پر دنیا کی تکالیف کا تخلی آسان ہو جاتا ہے۔

میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحسن صاحب نے اس تقریر کو بہت پسند فرمایا تھا اور بمبئی میں ڈاکٹروں کے اجتماع میں خطاب کرایا تھا۔

حدیث نمبر ۸۰

﴿خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ﴾

(صحیح البخاری، فضائل القرآن)

احادیث میں مذکور دو عظیم الشان خیر

مندرجہ ذیل تقریر احرقر نے بمبئی میں دعوۃ الحج کے ایک جدید مدرسہ تعلیم القرآن کے افتتاح پر بحکم حضرت مرشدنا ہردوئی دامت برکاتہم کی تھی۔ احرقر نے عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں وارد ہے:

﴿خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ﴾

تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں۔ حاصل یہ کہ قرآن سیکھنے سے خیر نہ ہو گے جب تک سکھاؤ گے بھی نہیں لیکن قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ہر شخص کو موقع کہاں نہ ہر شخص کے پاس اتنا وقت ہے، نہ تمام خلق اس میں لگ سکتی ہے۔ پس اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تعلیم قرآن دینے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جائے، خادم معلمین قرآن بن جائے اس طرح سے کہ ان کی تنخوا ہوں کی فکر رکھے، ان کی راحت و فراغت کا خیال رکھے اور تعلیم کے لیے بچوں کو اور ان کے وارثین کو ترغیب دے، قرآن پاک کے مکاتب کی تعمیر میں حصہ لے تو ان شاء اللہ یہ بھی علّمه میں داخل ہو جائے گا۔

ترمذی شریف کی روایت ہے:

﴿خَيْرٌ كُمْ مَنْ ذَكَرَ كُمْ بِاللّٰهِ رُوْيَتْهُ وَ زَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ رَغَبَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ﴾
پہلی حدیث میں تعلیم و تعلم قرآن کی جو خیر مذکور ہے اس کے ساتھ طلباء کرام اور اساتذہ کرام دوسری خیر بھی حاصل کریں کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کی وضع قطع سے یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کی باتوں سے علم میں اضافہ ہو اور ان کے عمل سے آخرت کی رغبت پیدا ہو۔ چنانچہ ہردوئی کے طلباء کرام کی

وضع قطع ایسی ہے کہ دورہی سے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، الہذا ضروری ہے کہ مدارس کے طلباء کو ادعا یہ مسنونہ کے بعد وسری ضروری تعلیمات بھی زبانی یاد کرنا ایں مثلاً کھانے پینے کی سنتیں اور خصوصی سنتیں وغیرہ اور منورات و مظلومات یعنی اخلاق حسنہ و اخلاق رذیلہ وغیرہ اور جلوسوں میں مسلمانوں کی جماعت کے سامنے ان سے زبانی کھلایا جائے تاکہ ان کے کلام سے امت کے علم میں اضافہ ہو چنانچہ ہر دوئی کے طلبائے کرام میں اس کا ماشاء اللہ بہت خوب اہتمام ہے۔

اسی طرح تدبیلِ ارکان سے نماز کی مشق کرائی جائے تاکہ ان کے عمل سے آخرت کی رغبت پیدا ہو چنانچہ ایک اہل ثروت نے ہر دوئی کے ایک طالب علم کو دیکھ کر جس نے ظہر کی چار سنتیں سات منٹ میں ادا کیں، بمبی سے ہر دوئی بذریعہ تاراپنے بچوں کے داخلہ کی درخواست کی کیونکہ وقت کم رہ گیا تھا اور مددتِ داخلہ اختتام پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں کے بچے ایسی عمدہ نماز پڑھتے ہیں وہاں تربیت دینے والے بڑوں کا کیا مقام ہوگا۔ (جزاں شریعت و طریقت، ص: ۸۱)

حدیث نمبر ۸۱

﴿الْخَلْقُ عَيَالُ اللَّهِ فَاحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ﴾

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الادب، باب الشفقة و الرحمۃ)

حدیث الْخَلْقُ عَيَالُ اللَّهِ لِنَحْنِ كَيْ أَيْكَ جَدِيدًا وَرَتْشَرَح

ارشاد فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ **الْخَلْقُ عَيَالُ اللَّهِ فَاحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ** مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے۔ جو اس کی عیال کے ساتھ بھلانی اور احسان کرتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں کسی کو بُری نظر سے دیکھنا ایدل میں اس کے لیے بُرے خیال لانا بتائیے! کیا یہ مخلوق کے ساتھ احسان ہے؟ اگر کسی کے اہل و عیال کو کوئی بُری نظر سے دیکھے تو کیا اس کو اچھا لگتا ہے یا اگر اس کا بس چلے تو اس کو کچا چجا جائے گا۔

میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایک شخص میری بیٹی کو جو برقعہ میں تھی بار بار دیکھ رہا تھا تو میرا بھی چاہتا تھا کہ اس کو گولی مار دوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جو کسی کو بُری نظر سے دیکھتا ہے اس فعل پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے۔ جب ایک باپ اپنی اولاد کو بُری نظر سے دیکھنے والے کو اپنا دوست نہیں بنائے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ماں باپ سے زیادہ تعلق ہے وہ ایسے شخص کو اپنا دوست کیسے بنائیں گے۔ چنانچہ جس لمحہ، جس سیکنڈ، جس ساعت میں بد نظری ہوتی ہے اسی لمحہ اور اسی سیکنڈ میں دل معدب ہو جاتا ہے۔ بد نظری کا نقطہ آغاز اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نقطہ آغاز ہے۔ کیونکہ جیسے ہی نظر ناپاک ہوتی ہے

ویسے ہی دل پلید ہو جاتا ہے اور مقام لید پر خیال پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کے قرب کی عید کیسے مل سکتی ہے اور اگر تو نہیں کرے گا تو ساری زندگی مُعَذَّب رہے گا۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشقِ مجازی عذابِ الہی ہے۔ وہ انہائی ظالم گدھا اور بیوقوف ہے، جو غیر اللہ کے نمک پر مرتا ہے وہ عذابِ الہی خریدتا ہے۔ دنیا کی مارکیٹِ دو قسم کی ہے۔ اسی دنیا کی مارکیٹ میں لوگ مولیٰ کو یاد کر کے، اشکبار آنکھوں سے گناہوں سے توبہ کر کے ولی اللہ بن رہے ہیں اور جنت خرید رہے ہیں اور اسی دنیا میں بعض لوگ غیر اللہ پر مردوز خ خرید رہے ہیں۔ یہی دنیا ولی اللہ بننے کی مارکیٹ بھی ہے اور دوزخی زندگی خریدنے کی مارکیٹ بھی ہے۔ (خزانہ شریعت و طریقت، ص: ۲۸۱)

حدیث نمبر ۸۲

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَصْدَّعَ عَنِّي وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

(المعجم الكبير للطبراني)

ذوقِ عاشقانہ نبوتِ صلی اللہ علیہ وسلم

ارشاد فرمایا کہ اگر دوامِ تقویٰ کی نعمت حاصل نہیں ہے تو حسن تحریر اور حسن تحیر اور مخلوق کی تعریف سے دھوکا نہ کھاؤ، کسی کی تعریف سے کیوں مست ہوتے ہو۔ یہ دیکھو کہ ہمارا کوئی لمحہ ایسا تو نہیں ہے جو اللہ کی ناراضگی میں گزرتا ہو۔ اسی غم میں چیزوں اور اسی غم میں مرد و کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے خوش ہو گا یا نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَصْدَّعَ عَنِّي وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ قیامت کے دن جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیں۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانِ پاکِ نبوی کے ذوقِ عاشقانہ کی عتماًز ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ بیٹے کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیں تو اس بیٹے کو جو اپنے ماں باپ کا عاشق ہے کس قدِ رغم ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف و غم ہونا ذوقِ عاشقانہ نبوت ہے۔

یہ دعا سرورِ عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ مبارک کے خوف کو ظاہر کرتی ہے باوجود اس کے کہ حق تعالیٰ کی ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممتنع اور محال ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاء بِ لَا تُخْزِنِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ کی تفسیر میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فِيهِ خَوْفُ الْأَنْبِيَاءِ مَعَ عِصْمَتِهِمْ وَ امْتِنَاعُ الْكُفُرِ عَلَيْهِمْ فَكَيْفَ يَصْحُ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَغْتَرَّ بِصَلَاحِهِ اس دعائیں انبیاء علیہم السلام کے خوف کا ظہور ہے باوجود اس کے کہ انبیاء

معصوم ہوتے ہیں اور کفر ان پر ممتنع اور حمال ہے پھر بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جن پر حق تعالیٰ کی جلالت و عظمت شان منکشf ہو گئی ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت لرزائ و ترسائ رہتے ہیں۔ پس غیر نبی کے لیے کیسے جائز ہو گا کہ وہ اپنی صاحبیت کے دھوکے میں بنتا ہو۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ دعا مانگ کر سو ری عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امّت کو تعلیم دے دی کہ حق تعالیٰ کی عظمت شان کو بیچانو اور قیامت کے دن اللہ کے چہرہ پھیر لینے یعنی ناراضی حق سے پناہ مانگو۔ (خزانہ شریعت و طریقت، ص: ۲۸۸)

لفظِ مُبَشِّر کا نزول

ارشاد فرمایا کہ یہ آیت إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا پر زندگی میں پہلی بار ذہن منتقل ہوا کہ بشارت دینے کے لیے لفظِ مبشر آیا ہے، بَشِّيرًا بھی نازل ہوا ہے مگر مبشر میں رحمت کا ظہور زیادہ ہے اور قرآن پاک میں اگر ایک جگہ بھی کوئی لفظِ مستزاد ہے اور دوسری جگہ اس کا تبادل لفظ آئے جو مستزاد نہ ہو تو اس کے معانی مستزاد سے مقید ہو جائیں گے۔ اس لیے جہاں بَشِّير نازل ہوا ہے وہ معنی میں مبشر کے ہو گا۔ قاعدہ ہے انَّ كَثُرَةَ الْمُبَانِي تَدْلُّ عَلَى كَثُرَةِ الْمَعَانِي جب بناء میں حروف زیادہ ہو گے تو معانی کی کثرت ثابت ہو جاتی ہے لہذا مبشر کے الفاظ کی بناء میں تعدد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ظہور میں تعدد فرمایا کہ ہماری تبیشیر اذار سے زیادہ ہے۔ اس لیے مبشر نازل ہوا ہے کہیں مُنَذِّرًا نازل نہیں ہوا جو دلیل ہے کہ ہماری رحمت زیادہ ہے ڈرانے سے۔ اس کی مسوید یہ حدیث قدسی بھی ہے:

﴿سَبَقَتْ رَحْمَتُى غَصِّى﴾

(صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول الله بل هو قوله مجيد، ج: ۲، ص: ۱۱۲۷)

میری رحمت میرے غصب پر سبقت لے گئی۔ تو لفظِ مُبَشِّرًا بتاتا ہے کہ ہماری رحمت کی خوشخبری کو اذار پر غالب رکھو۔ اس لیے مبلغ دین کو چاہیے کہ رحمت کی خوشخبری کو زیادہ بیان کرے بہ نسبت ڈرانے کے ورنہ بعض لوگ زیادہ ڈرانے سے اعتدال سے نکل گئے اور ہمیں مریض ہو گئے۔ (خزانہ شریعت و طریقت، ص: ۲۸۹)

حدیث نمبر ۸۳

﴿دُعَاءُ الْمَرِيضِ كَدُعَاءِ الْمَلِئَكَةِ﴾

(کنز العمال، ج: ۹، ص: ۳۲، دارالکتب العلمیہ)

اسلام کی صداقت کی ایک دلیل

ارشاد فرمایا کہ میرے دوستو! اسلام کی صداقت اور اسلام کی عظمت کی ایک دلیل آج بیان کرتا ہوں کہ اسلام سچا مہب ہے۔ کافر اگر بیمار ہو جائے تو اس کو توبہ ہاوس میں داخل کر دیتے ہیں

جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی عزیز واقارب نہیں ہوتے، بے چارے گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ بعضوں کو مار فیا کا نجکشنا لگا دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو کچھ پیسہ دیا کہ بڑے صاحب کو چلتا کرو، خود سے نہیں جاتے تو انہیں چلتا کرو۔ اب اسلام کی سننے کے اسلام مریضوں کو کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہو جائے تو کافر تو اس کو بالکل کندم ناقابلِ ریغیر بندم سمجھتا ہے یعنی کچھ نہیں سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن میرا سوال ہو گا کہ میں یہاں ہوا تو تم مجھ کو دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ بندہ کہہ گا کہ اے اللہ آپ تو یہاں سے پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب میرے خاص بندے یہاں ہوئے تھے تو تم دیکھنے کیوں نہیں آئے، وہیں میں بھی تم کوں جاتا۔ اسلام نے یہ عزت مریضوں کو بخشنی۔ مریض کو ساری دنیا کے لوگ حقیر سمجھتے ہیں مگر اسلام نے یہ عزت اور شرف سمجھا کہ یہاں آدمی کو کوئی تحریر نہ سمجھنے پائے، جو حقیر سمجھے گا وہ احمد ہے کیونکہ اس کے پاس اللہ ملے گا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس مریض کو دیکھنے آتے تو وہیں تو میں بھی تھا، میں اپنے خاص بندوں کے پاس ہوتا ہوں اور اپنی نعمت خاص سے ان کو نوازتا ہوں۔

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھی وہاں اللہ کا قرب ملتا ہے چلو وہیں بیٹھ جائیں، رات دن وہیں بیٹھے رہیں، قرب کو چھوڑنا کہاں جائز ہے؟ خوب دیریک بیٹھو تو اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا کہ دیریک نہ بیٹھو، تھوڑے سے قرب پر راضی رہو، وہ قرب لے کر چلے آؤ، وہ قرب ہمیشہ رہے گا، فنا نہیں ہو گا، اللہ کا قرب فنا نہیں ہوتا۔ اس لیے تھوڑی دیری بیٹھ کر چلے آؤ کیونکہ اس کو اگر پیش اب پاخانہ لگ گیا تو مریض کیا کرے گا؟ تمہاری رعایت سے بے چارہ بیٹھا رہے گا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، عیادت کی سنت ہے کہ ہلکی ہلکی عیادت کرو، زیادہ دیری مریض کے پاس مت بیٹھو۔ پس اسلام نے مریض کو یہ عزت دی کہ اس کے قرب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب بیان کیا کہ میں تمہیں اس مریض کے پاس ملوں گا۔ اب اس کے بعد کوئی مریض کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ جو مریض کو حقیر سمجھے گا تو گویا اللہ کو حقیر سمجھنا لازم آئے گا اس لیے مریض کو محترم سمجھ کر جائے گا اور دعا کرانے گا کیونکہ دوسرا حدیث میں ہے:

﴿دُعَاءُ الْمَرِيْضِ كَدُعَاءِ الْمُلِئَّكَةِ﴾

(کنز العمال، ج: ۹، ص: ۸۳، دارالکتب العلمیہ)

مریض کی دعا مثل فرشتوں کی دعا کے ہے۔ مریض کی دعا ایسی ہے گویا فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریض کا رتبہ مثل فرشتوں کے رکھ دیا، مریض کی عظمت بڑھادی کہ جاؤ اس سے دعا کراؤ، اس کی دعا مثل فرشتوں کی دعا کے ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ آج تائب صاحب کے دعائیہ اشعار سن کر بعض لوگ ترس کھا کر کہیں رات بھرنہ روئیں کہ ارے اختر یہاں پڑ گیا۔ ارے یہ یہاں سب اللہ کی طرف سے ہے، دعا تو

ضرور کرنا چاہیے، دعا پر کوئی اعتراض نہیں مگر مریض کو اللہ کے حکم پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کا حکم ہے میں اس پر راضی ہوں مگر جلدی سے آزمائش کی گھٹری گزار دیجئے، آزمائش کو لمبی نہ کیجئے کیونکہ ہم ناتوان اور کمزور ہیں، زیادہ لمبی آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے۔ (خواہ شریعت و طریقت، ص: ۳۸۳)

حدیث نمبر ۸۲

﴿لَا يَكُونُ لَأَحَدٍ كُمْ ثَلَاثٌ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثٌ أَخْوَاتٍ فَيُحِسِّنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾

(سنن الترمذی، ابواب البر والصلة ج: ۲، ص: ۱۳)

﴿مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثٌ أَخْوَاتٍ أَوْ إِبْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ﴾

(سنن الترمذی، ابواب البر والصلة ج: ۲، ص: ۱۳)

قرآن و حدیث میں بیٹیوں کی فضیلت

ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہیں کیونکہ ان کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: **لَا يَكُونُ لَأَحَدٍ كُمْ ثَلَاثٌ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثٌ أَخْوَاتٍ فَيُحِسِّنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ** کسی کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں پس وہ ان کے ساتھ بھلائی کرے یعنی پرورش کرے، دین سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہو گا اور دوسری روایت میں ارشاد ہے مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثٌ أَخْوَاتٍ أَوْ إِبْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ جس کے تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے اداء حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈر تار ہے اُس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور بعض روایات میں آپ نے تین بیٹیوں اور دو بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی تو کسی نے عرض کیا کہ اگر کسی کے ایک ہی لڑکی ہے تو آپ نے اس کو بھی جنت کی بشارت دی۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتیں تو ان پر جنت کا وعدہ نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہ سببِ نزولِ رحمت ہیں لہذا جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں وہ خوش ہو جائے، ہرگز دل چھوٹا نہ کرے اور ان کو نعمت سمجھے۔ جن کی وجہ سے جنت مل جائے وہ نعمت نہ ہوں گی؟ پس بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر جس کے چہرہ پر غم آ جائے یہ شعاعِ کافرانہ ہے یعنی کافروں جیسا کام ہے کیونکہ کافرنیوں کی خبر سن کر غمگین ہو جاتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو لعنت سمجھتے تھے کہ داما دھونڈنا پڑے گا اور اپنی بیکی سمجھتے تھے۔ اسی لیے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے شقی القلب اور جانور تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا:

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۚ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۚ﴾

(سورة التکویر، آیہ: ۸-۹)

جب زندہ دُن کی جانے والی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ ان بیٹیوں ہی سے تو انسان پیدا ہوتے ہیں، ان کو حقیر سمجھنا علامتِ کافرانہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَهُبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَيَهُبُ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّكُورُ﴾

(سورة الشوریٰ، آیہ ۳۹)

اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے (ترجمہ از بیان القرآن) اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیٹیوں کو مقدم فرمایا جس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہے جس کے پیٹ سے پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

﴿إِنَّ مِنْ يُمْنِنِ الْمَرْأَةَ تَبَكِيرُهَا بِالْأُنْثِي قَبْلَ الدَّكَرِ﴾

(تفسیر قرطی، ج: ۸، ص: ۳۸)

اور روح المعانی میں حضرت قادہ سے مردی ہے:

﴿مِنْ يُمْنِنِ الْمَرْأَةَ تَبَكِيرُهَا بِالْأُنْثِي﴾

(تفسیر روح المعانی، ج: ۲۵، ص: ۵۲)

لہذا بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خبر سن کر مسکراو اور خوش ہو جاؤ اور سمجھو کہ گھر میں برکت نازل ہو گئی۔ اسلام نے بیٹیوں کو کیا عزت دی ہے اس لیے بیٹیوں کو نعمتِ عظیم سمجھو۔ ان ہی سے تو اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں عالم میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور وجہِ تخلیقِ کائنات ہیں ان کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا۔ اگر بیٹیاں مبارک نہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے بنی کا نسب بیٹی سے نہ چلاتا۔ معلوم ہوا کہ بیٹیاں بہت مبارک ہیں، اس لیے ان کو حقیر نہ سمجھو۔ بیٹے تو بیٹیاں لاتے ہیں اور بیٹیاں بیٹے یعنی داماد لاتی ہیں۔ بعض وقت داما دایسا لائق مل گیا جو بیٹیوں سے بھی زیادہ خدمت گزار لکا۔ البته اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعائیں میں کوئی حرج نہیں۔ اس نیت سے بیٹا مانگو کہ اسے عالم اور حافظ بناؤں گا تاکہ وہ اللہ والا بن جائے، دین کا کام کرے اور ہمارے دینی اداروں کو چلائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ (خواہ شریعت و طریقت، ج: ۲۲۳)

حدیث نمبر ۸۵

﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صُبُورًا وَاجْعَلْنِي شُكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا﴾

(کنز العمال، رقم الحدیث: ۳۶۷۵)

شرح حدیث اللہم اجعلنی صبورا..... الخ

اے اللہ! مجھے صبر عطا فرمائے ہم نیک اعمال پر قائم رہیں اور مصیبت میں آپ پر اعتراض نہ کریں

کہ کیوں ہم کو یہ مصیبت ملی۔ مصیبت سے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا درجہ بلند کرتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ ماں میل کچیل چھڑاتی ہے تو پچھے چلاتا ہے مگر بعد میں چمک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو مصیبت دے کر ان کی خطائیں معاف کرتے ہیں اور صبر کی برکت سے نسبت مع اللہ کا اعلیٰ مقام دے دیتے ہیں اور الصبر عن المعصیة بھی دیجئے کہ نافرمانی کے تقاضوں کے وقت ہم صابر ہیں اور نہ فرمانی نہ کریں اور نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا لیں اس کا نام الصبر عن المعصیة ہے۔ اس دعا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی اقسامِ ثالثہ مانگی ہیں یعنی:

- ۱۔ **الصَّابِرُ عَلَى الطَّاعَةِ** یعنی یک اعمال پر قائم رہنا اور
- ۲۔ **الصَّابِرُ فِي الْمُصِبَّةِ** مصیبت میں صابر رہنا اور
- ۳۔ **الصَّابِرُ عَنِ الْمُعْصِيَةِ** گناہوں سے بچنے کی تکلیف اٹھانا

حقیقی شکر کیا ہے؟

آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں وَاجْعَلْنِي شَكُورًا اور ہمیں شکر نعمت کی توفیق دیجئے اور اس کی حقیقت تقویٰ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اصل شکر گذار بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نار ارض نہیں کرتا۔ اس کی دلیل سن لو میں تصوف بلا دلیل پیش نہیں کرتا۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اے صحابہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدرا میں تمہاری مدد کی ہے وَأَنْتُمْ أَذْلَّةُ اور تم سخت کمزور تھے فاًلَقَوَ اللَّهُ أَنْتُمْ تَقُوَّى سے رہا کرو اور ہم کو نار ارض مت کرو لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم حقیقی شکر گذار بن جاؤ۔ یہ تھوڑی ہے کہ منتخب بوئی کھا کر کہہ دیا کہ یا اللہ تیر اشکر ہے اور گناہ سے باز نہ آئے اس طرح شکر کا حق ادا نہیں ہوا۔ زبان سے شکر کی سنت تو ادا ہوئی لیکن جب گناہ سے بچو، نظر بچا و عینا، قلبًا و قالبا حسینوں نمکینیوں سے دور رہو تب سمجھ لاوب شکر حقیقی نصیب ہوا۔ تو وَاجْعَلْنِي شَكُورًا کے معنی کیا ہے ائی وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَّقِينَ یہ ترجمہ حکیم الامت کا ہے کہ مجھے متqi بنا دیجئے۔ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گذار ہو جاؤ، نافرمانی کرنے والا حقیقی شکر گذار نہیں ہے۔ اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا:

﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا﴾

اے اللہ! میری نظر میں آپ مجھ کو چھوٹا کھائیے اور مخلوق کی نظر میں آپ مجھ کو بڑا کھائیے میری نظر میں مجھ کو صغر کھئے لیکن بندوں کی نظر میں کبیر کر دیجئے تاکہ ہم جب کوئی دین کی بات پیش کریں تو وہ سر آنکھوں پر قبول کر لیں۔ اس لیے دین کے خادموں کو یہ دعا ضرور مانگی چاہیے کیونکہ اُمت میں اگر ان کی عزت و قدر و منزلت نہیں ہوگی تو پھر ان کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی لہذا جب مخلوق تعریف کرے تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے

یہ دعا قبول فرمائی کی مخلوق میں ہمیں بڑا کھار ہا ہے لیکن اپنے کو بڑا سمجھنا حرام ہے۔ اس لیے روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اے اللہ! میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المآل کیونکہ ابھی معلوم نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہونا مقدر ہے۔

ہم اپنے کو طریقہ خان نے سمجھیں، خرم خان تو رہ مگر طرم خان نہ سمجھو و فی اعینِ النّاسِ کَبِيرًا مخلوق کی نظر میں ہم کو بڑا دکھا دتھے لہذا جب مخلوق عزت کرے تو شکر ادا کرو کہ یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو حسنہ کی چھٹی تفسیر ہے شاء خلق کہ مخلوق میں تمہاری تعریف و نیک نامی ہو لیکن تم اپنی تعریف نہ کرو نہ اپنے کو بڑا سمجھو۔ یہ ثناء خلق حسنہ کی تفسیر ہے۔ لیکن جو صوفی علم دین نہیں جانتا وہ ایسے موقع پر ڈر جاتا ہے کہ میرا تو سب ضائع ہو گیا۔

حدیث نمبر ۸۶

﴿مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَادِهِ مَلَأَ اللَّهُ تَعَالَى قَلْبَهُ أَمْنًا وَ إِيمَانًا﴾

(جامع صغیر، ج: ۲، ص: ۱۷۹)

ترجمہ: جس شخص نے غصہ کو ضبط کر لیا ہوا جو دیکھے وہ غصہ نافذ کرنے پر قادر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان اور سکون سے بھردے گا۔

یعنی جس شخص کو کسی پر غصہ آگیا اور وہ اس پر پورا غصہ جاری کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مانع نہیں ہے لیکن اللہ کے خوف سے اپنے غصہ کو پی جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و ایمان سے بھردے گا، امن کے معنی ہیں سکون۔ غصہ ضبط کرنے کا یہ انعام عظیم ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص غصہ کا تلنگ گھونٹ پی لیتا ہے یعنی غصہ کو ضبط کر لیتا ہے تو وہ غصہ سب کا سب نور بن جاتا ہے۔

اور ساتھ ساتھ غصہ کی ایک اور تفسیر بیان کی کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کے اجراء کے لیے اور اللہ کے لیے جو غصہ آئے وہ مستثنی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکرات اور اللہ کی نافرمانی پر اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا کَانَ الرُّمَانَ عُصْرَ عَلَى وَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جیسے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر انارنچوڑ دیا گیا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر غصہ آنا ہی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے غصہ کو ضبط کر لیا در آنحال یکہ وہ اس کے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلا کیں گے اور اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اپنی پسند سے انتخاب کر لے۔ (ابوداؤد، ج: ۲، ص: ۳۰۳)

غصہ ضبط کرنے کے بارے میں ایک اور حدیث ہے لِيَقُومُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَجْرٌ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو فلا یَقُولُ إِلَّا

إِنْسَانٌ عَفَاٰ پَسْ كُوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ جس نے دنیا میں کسی کی خطاؤں کو معاف کیا ہوگا۔

(روح المعانی، ج: ۳، ص: ۵۸)

جنہوں نے یہ دولت کمائی ہوگی اور معاف کرنے والا عمل کیا ہوگا وہ اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو شخص یہ بات پسند کرے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں اور اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں اس کو چاہیے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے اور جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کر دے اور جو اس سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ (روح المعانی، ج: ۳، ص: ۵۸)

بعض خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ لاکھ نیکیاں کرتے رہو وہ کبھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے لیے حکم ہے:

﴿صِلْ مَنْ قَطَعَكَ﴾

(جامع صغیر، ج: ۲، ص: ۳۳)

وہ تو قطع رحمی کریں مگر آپ ان سے جڑے رہیں اور ان کو معاف کرتے رہیں۔ اس حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بربان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ فرمایا کہ جنت میں اس کا شاندار مکان ہوگا اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ البتہ اگر کسی رشتہ دار سے ناقابل برداشت مسلسل اذیت پہنچ رہی ہے جس سے دین یاد نیا کا ضرر ہو تو علماء سے مشورہ کریں۔ اس کے لیے دوسرے احکام ہیں۔ تین حدیثیں غصہ کے بارے میں اور سنا تا ہوں۔ پہلی حدیث ہے:

﴿إِنَّ الْغَضَبَ لِيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصِّبْرُ الْعُسْلَ﴾

(مشکوٰۃ المصایح، ص: ۳۳۲)

ترجمہ: غصہ ایمان کو ایسا خراب اور بر باد کر دیتا ہے جیسا کہ ایلو شہد کو خراب کر دیتا ہے۔

ایلو ایک نہایت کڑوی دوا ہے اگر کوئی دور سے بھی کوٹ رہا ہو تو حق کڑوا ہو جاتا ہے۔ ایک من شہد میں ذرا سا ڈال دیجئے سارا شہد کڑوا ہو جائے گا۔ اسی طرح غصہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو کڑوا کر دیتا ہے یعنی غصہ والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ، عبادات کا مزہ، تلاوت کا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ غصہ نے اس کے ایمان کے کمال اور نور کو خراب کر دیا۔ دوسری حدیث ہے:

﴿مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾

(مشکوٰۃ المصایح، ص: ۳۳۲)

ترجمہ: جو شخص اپنے غصہ کو روک لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے۔

ظاہر بات ہے کہ غصہ روکنے میں تکلیف ہوتی ہے اور اس نے اللہ کے لیے یہ تکلیف اٹھائی لہذا اس مجاہدہ پر اتنا بڑا انعام ہے۔ (علام الغضب، صفحہ: ۸-۲)

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کُنُثٌ أَصْرِبُ غُلَامًا لِيٌ میں اپنے ایک مملوک غلام کی پٹائی کر رہا تھا فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتاً میں نے اپنی پیچھے کے پیچھے سے ایک آواز سنی۔ وہ کیا آواز تھی؟ إِعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ اللَّهُ أَقْدِرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ۔ (صحیح مسلم، ج: ۲، ص: ۵۱)

یہ کلامِ نبوت کی بلاغت ہے کہ چند ضمیروں میں دو سطر کا مضمون بیان فرمادیا۔ اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو ڈیڑھ دو سطر ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اے ابا مسعود اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے اس قدرت سے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے جس کو تو پیش رہا ہے، فرماتے ہیں فَالْفَقِيرُ میں نے متوجہ ہو کر دیکھا کہ کہاں سے یہ آواز آئی فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ آپ کی آواز تھی۔

جی اُٹھے مردے تری آواز سے

یہ آوازِ نبوت تھی جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل زندہ ہوتے تھے، امراض کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے صحبتِ نبوت کے فیضان کی برکت سے فوراً ہدایت عطا فرمادی۔ جو اللہ والوں کی صحبت سے قلب میں اعمال صالح کی ایک زبردست قوت و ہمت اور توفیق پیدا ہو جاتی ہے۔ چالیس چالیس سال سے انسان جس گناہ کو چھوڑنے کی طاقت نہ پاتا ہو واللہ والوں کے پاس چند دن رہ کر کر دیکھے کہ کیا ہوتا ہے۔

(علام الغضب، ص: ۹)

مبارک وہ بندہ ہے، بہت ہی مبارک بندہ ہے وہ جو اللہ والوں سے تعلق کر لے، جو اللہ کے دوستوں سے دوستی کر لے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ہماروں کا ہمارا ہے، یہ ہمارے دوستوں کا دوست ہے۔ لہذا اس پر بھی فضل فرمادیتے ہیں اور اس کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں جو اللہ والوں کی صحبت سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

﴿هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيلُهُمْ﴾

(صحیح بخاری، ج: ۲، ص: ۹۳۸)

اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہ سکتا۔ اس کی شقاوت کو سعادت سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ یہ لمبی حدیث ہے جس کا ایک جو یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں ایک شخص غیر مخصوص تھا وہ وہاں اللہ کے لیے نہیں بیٹھا تھا کسی ضرورت سے جارہا تھا کہ وہاں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میرے بندے کیا کر رہے ہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو توبہ معلوم ہے لیکن اپنے بندوں پر فخر و مبارکات فرمانے کے

لیے پوچھتے ہیں۔ آخری جو اس بُجی حدیث کا یہ ہے کہ اے فرشتو! گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ وہاں ایک بندہ ذکر کے لیے نہیں بیٹھا تھا اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ وَكَسْي حاجت سے جارہا تھا دیکھا کہ کچھ اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا کیونکہ میں اپنے مقبول بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتا۔ **هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيلُهُمْ** اس کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ جَلِيلَهُمْ يَنْدَرِجُ مَعَهُمْ فِي جَمِيعِ مَا يَتَفَضَّلُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ﴾

(فتح الباری، ج: ۱۱، ص: ۲۱۳)

اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مندرج کر لیتا ہے ان تمام انعامات میں جو اللہ والوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آگے مفعول لہ بیان ہو رہا ہے **إِنَّمَا لَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ مِمَّا كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ** دوستوں کا اکرام فرماتے ہیں۔

جب اولیاء اللہ کی صحبت کا یہ انعام ہے کہ ان کی صحبت کے فیض سے شقاوتوں سعادت سے تبدیل ہو جاتی ہے اور قلب میں اعمال صالحہ کی زبردست ہمت و توفیق عطا ہو جاتی ہے تو صحبت نبوت کے فیضان کا کیا عالم ہوگا؟ حالت ایمان میں جس پرنبوت کی نگاہ پڑ گئی وہ صحابی ہو گیا اور دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی ایک ادنیٰ صحابی کے رتبہ کوئی نہیں پاسکتا۔ چنانچہ صحبت نبوت کے فیضان سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو فوراً تنیہ ہو گئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو حُرُّ لِوَجْهِ اللَّهِ اس غلام کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا اس خطا کی تلافی میں۔ معلوم ہوا کہ خطاؤں کی تلافی بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتُكَ النَّارُ أَوْ لَمَسْتُكَ النَّارُ﴾

(صحیح مسلم، ج: ۲، ص: ۵۱)

اگر تو ایسا نہ کرتا اور غلام پر یہ رحمت نہ دکھاتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسادیتی اور جلا کے خاک کر دیتی۔ یہ کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں۔ آج کس ظالم کامنہ ہے جو کہہ کہ میں اتنا تہجد پڑھتا ہوں، صوفی ہوں، اتنا ذکر و فکر کرتا ہوں، میرے غصہ پر کوئی کپڑنہیں ہو گی۔ ذرا سوچئے، یہ بات سوچنے کی ہے یا نہیں کہ اپنی عبادت پر اتنا نازک کہ ہم نے تہجد پڑھی ہے لہذا مسلمانوں کو اور بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بیویوں کو جس طرح چاہو ستاؤ کوئی قانون نہیں۔ دیکھئے! صحبت یافتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم نے رحمت نہ کی تو یاد کھو قیامت کے دن دوزخ کی آگ تم کو لپٹ جائے گی۔ اب کس صوفی کامنہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا غصہ میرے لیے کچھ مضر نہیں۔

میری تو اتنی عبادت ہے، اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں، میرے غصہ پر کوئی پکڑنیں ہوگی۔ حضرت ابو مسعود سے زیادہ آپ مقبول ہیں؟ صحابی سے گویا بڑھ گیا یہ صوفی جو ایسی بتیں کرتا ہے، یہ گویا دعویٰ کر رہا ہے کہ صحابی سے نعوذ باللہ اس کا درجہ بڑھ گیا۔

میرے دوستو! لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مصلح کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھئے صحابی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ لیکن مربی مصلح کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں؟ جب حضرت صدیق اکبر کو مربی کی ضرورت تھی جو انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں تو ہم لوگوں کا کیا منہ ہے کہ ہم اپنے کو تربیت کا محتاج نہ سمجھیں۔

آگ جب لگتی ہے تو پانی ہی سے تو بچھتی ہے۔ یہ حدیثوں کے علاج ہیں کہ جس پر غصہ چڑھے وضو کر لے اور اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اس طرح وہ انتقام لینے سے دور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مارنے کے لیے کھڑے ہو کر دوڑنا آسان تھا اور اب جب بیٹھ گیا تو انتقام سے ایک درجہ دور ہو گیا۔ اب بیٹھ کر دوبارہ اٹھنے سے تھوڑی سی تو کامی لگے گی اور اگر لیٹ گیا تو انتقام سے تین درجے نیچے آ گیا۔ کہے گا کہ لیٹ کر بیٹھوں اور بیٹھ کر کھڑا ہوں اور پھر دوڑوں مارنے کے لیے۔ چلو جانے دو۔

(کنز العمال، ج: ۳، ص: ۸۲۸)

حدیث کی ترتیب دیکھئے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں اور وضو کا بھی حکم فرمادیا تاکہ مزاج ٹھنڈا ہو جائے اور اللہ کے عذاب کو سوچے کہ جتنا غصہ مجھے اس پر آ رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میرا کہاں ٹھکانہ ہے اور جتنی طاقت مجھے اس پر ہے اس سے زیادہ طاقت و قدرت خدا کو مجھ پر ہے، اس وقت خدا کو یاد کرے اگر اس وقت خدا یاد نہیں آتا اور غصہ کی حالت میں خدا کا عذاب، خدا کی پکڑ کسی کو یاد نہیں رہتی اور غصہ والا کہتا بھی یہی ہے کہ صاحب ہمیں تو کچھ یاد نہیں رہتا یہی دلیل ہے کہ اس وقت وہ شیطان کے قبضہ میں چلا گیا چاہے سید صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، صوفی صاحب ہوں، حالت غصب میں سوچے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار تو بنے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن خدا ہمیں اپنی رحمت سے بخشن دے لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر حرم کرنا نہیں آ رہا ہے، یہاں ہم بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی ذرا ستا دے تو بغیر انتقام لیے چین نہیں آتا۔ علامہ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الْوَلَىٰ لَا يَكُونُ مُنْتَقِمًا وَ الْمُنْتَقِمُ لَا يَكُونُ وَلِيًّا﴾

اللہ کا ولی انتقام لینے والا نہیں ہوتا اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔

جو اللہ کے بندوں پر رحم کرنا نہیں جانتا وہ کس منہ سے اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمادی کہ اگر تم اپنی مغفرت چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے میری رحمت چاہتے ہو تو میرے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دو۔

لیکن اگر کسی سے بار بار غلطی ہو جاتی ہے تو مایوس ہرگز نہ ہو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ غصہ اُترنے کے بعد فوراً اس کی تلافی کرے۔

حضرت حکیم الامت مجدد الملک مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک صاحب کو جو غصہ سے بار بار مغلوب ہو جاتے تھے یہ علاج تحریر فرمایا کہ جب غصہ اُتر جائے تو جس پر غصہ کیا ہے مجمع عام میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑئے، اس کے پاؤں پکڑئے بلکہ اس کے جوتے اپنے سر پر رکھئے، ایک دوبار ایسا کرنے سے ہی نفس کو عقل آجائے گی اور پھر یہ غلطی نہیں کرے گا۔ (علاج الغضب)

حدیث نمبر ۸

﴿أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَاءٍ هُمْ﴾

(مشکوٰۃ المصایح، ص: ۲۸۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کامل الایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے برتاوا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اخلاق کا معیار یہ ہے کہ جس کا سلوك اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔

علام آلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی (ج: ۵، ص: ۱۳۷) میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر کریم ہوتے ہیں ان پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ غالب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تیز با تین کر لیتی ہیں، نازخرے دکھادیتی ہیں کیونکہ ان کو نازدیک ہانے کا بھی حق حاصل ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ! جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے اور جب روٹھی ہوتی ہے تو مجھے پہتے چل جاتا ہے۔ عرض کیا کہ آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ فرمایا کہ جب تو مجھ سے خوش رہتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے رب کی قسم اور جب روٹھی ہوتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ اِبْرَاهِيمَ اِبْرَاهِيمَ کے رب کی قسم۔ (صحیح بخاری، ج: ۲، صفحہ: ۷۸۷)

معلوم ہوا کہ عورتوں کو تھوڑا سارو ٹھنے کا حق ہے، یہ ان کا ناز ہے لہذا اس کی بھی شریعت نے رعایت رکھی ہے۔ دیکھئے حدیث میں فرمایا یَعْلَمُنَّ كَرِيمًا يَعْلَمُنَّ لَئِيمًا یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں کریم شوہر پر وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمُمْ اور جو لوگ بد اخلاق ہیں وہ ان پر ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کر کے غالب آ جاتے ہیں۔

بعض علاقوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ پہلی رات عورت کو رعب میں لانے کے لیے بڑی پٹائی کرتے ہیں۔ استغفار اللہ کیا جہالت اور ظلم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاحْبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا مِنْ مَحْبُوبٍ رَكْتَاهُوں کے میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہو وَ لَا أَحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَيْئِمًا غَالِبًا اور میں بد اخلاق ہو کران پر غلبہ نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ اور بخاری کی روایت ہے (ج: ۲، ص ۹۷) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے۔ دیکھئے ٹیڑھی پسلیاں کام دے رہی ہیں یا نہیں، ان کو سیدھی کرو گے تو نٹ جائیں گی۔ لہذا ان کے ساتھ شفقت محبت اور رحمت سے معاملہ کیا جائے تو زندگی جنت کی ہو جاتی ہے۔

حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے سالن میں نمک تیز کر دیا تھا اس کے شوہرنے اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا کہ اے خدا ہاتھ ہی تو ہے نمک تیز ہو گیا۔ اگر میری بیٹی نمک تیز کر دیتی تو میں یہی چاہتا کہ داما داس کو معاف کر دے۔ لہذا اے خدا میں آپ کی رضا کے لیے اس کو جو میری بیوی ہے لیکن آپ کی بندی بھی ہے، اس کی نسبت آپ کے ساتھ بھی ہے، اس کو معاف کرتا ہوں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بے غیرت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی سفارش و عاشروہنَ بالمعروفِ کو رد کرتے ہیں۔ ابھی ایک ڈی آئی جی یا کمشنز سفارش لکھ دے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھنا۔ توبتائیے کہ ہم لوگ کتنا خیال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سفارش نازل فرمائے ہیں کہ ان سے بھلانی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہاں ہمارا کیا معاملہ ہے اور کیا ہونا چاہیے ہر شخص اپنی حالت پغور کر لے۔

لہذا اس شخص نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا اور بیوی کو معاف کر دیا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میاں معاملہ تو بڑا خطرناک تھا۔ بڑے گناہوں کا معاملہ پیش ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایک بندی نے جس دن سالن میں نمک تیز کر دیا تھا اور تم نے میری اس بندی کی خطاط معاف کر دی تھی جاؤ اس کے صلہ میں آج تم کو معاف کرتا ہوں۔

حدیث نمبر ۸۸

﴿مَنْ عَشَقَ وَكَتَمَ وَعَفَ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ﴾

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الجنائز، باب عبادۃ المريض)

حدیث مَنْ عَشَقَ وَكَتَمَ.....الخ کی تشریع

اچاک نظر پڑنے سے اگر کسی سے دل لگ گیا تو اس پر سبر کرو، اس پر بھی ظاہرنہ کرو کہ ایک نظر تم

پر پڑی تھی اس وقت سے تمہارے لیے دل بے چین ہے۔ عشق حرام کا اظہار بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے اور یہ حدیث حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التشریف فی احادیث التصوف میں بھی لکھی ہے کہ مَنْ عَشَقَ جُوسِیٰ پر عاشق ہو گیا، ایک ہی نظر میں گھائل ہو گیا اور قصد آدیکھا بھی نہیں، کہیں جاتے ہوئے نظر پڑگئی، نظر ڈالی نہیں پڑگئی مگر ایک ہی نظر میں اسے عشق ہو گیا لیکن وَکَتَمَ اس نے اپنے عشق کو چھپایا، نہ خط لکھا، نہ اس کا ہاتھ پکڑا، نہ اس کی گلی میں گیا، نہ آنکھوں سے دوبارہ دیکھا، نہ کانوں سے اس کی بات سنی، نہ اس کی گلیوں کا چکر لگایا کیونکہ جانتا تھا کہ یہ وہ لعنتی گلیاں ہیں جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، جو ان گلیوں میں گیا اس کو ساری زندگی سر دھننا پڑے گا، رونا پڑے گا، عذاب الہی میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ یہ گلیاں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے لیکن کردیتا ہوں تاکہ ان کی حقیقت معلوم رہے ورنہ کبھی دھوکہ لگ جائے گا کہ شاید یہ گلی والے بھی کوئی اونچا مقام رکھتے ہیں، یہ سب نیچا مقام رکھتے ہیں۔ اے! جو نیچے مقامات کی تلاش میں رہتے ہیں وہ نیچے لوگ ہیں۔

مفتقی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بعدتی سے مناظرہ ہوا۔ بعدتی نے کہا کہ میں نے آپ کو نیچا دکھا دیا۔ حضرت مفتقی صاحب صدر مفتقی دیوبند تھے فرمایا، جی ہاں! ہم نے آپ کا نیچا دکھا دیا۔ اللہ والوں کی حاضر جوابی ملاحظہ کیجئے۔ سارے مجمع میں شور ہو گیا اور وہ بعدتی ایک ہی جملے سے ہار کے بھاگ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

﴿مَنْ عَشَقَ وَكَتَمَ وَعَفَ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ﴾

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الحجائز، باب عبادۃ المریض)

کہ جس کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا و یا عف اور پاک دامن رہا، نہ جسم سے حرام لذت لی، نہ دل میں اس معشووق کا خیال پکایا ثُمَّ مَاتَ پھر اُسی گھٹن اور مجابرہ میں مر گیا تو وہ شہید ہے۔

شرح حدیث بعنوانِ دُگر

﴿مَنْ عَشَقَ فَكَتَمَ وَعَفَ فَمَا تَمَّ فَهُوَ شَهِيدٌ﴾

(الجامع الصغیر، رقم الحديث: ۱۳۲۷۳)

حدیث من عشق فکتم کی تشریح

اگر کوئی ایسا عاشق مزاج ہے کہ اس کو کسی کا عشق لگ گیا، التشریف فی احادیث التصوف میں بھی یہ حدیث ہے مَنْ عَشَقَ فَكَتَمَ وَعَفَ جو عاشق ہو گیا اور اپنے عشق کو چھپایا، کسی پر ظاہر نہیں کیا، نہ اس معشووق سے زبان سے کہا، نہ ہاتھ سے اشارہ کیا، نہ اس کو خط لکھا کہ میں آپ کے عشق میں بے چین ہوں، اپنے عشق کو دل میں پوشیدہ رکھاوَ عَفَ اور پاک دامن رہا، نہ آنکھوں سے اسے دیکھا، نہ پاؤں سے اس

کے پاس چل کر گیا، نہ ہاتھ سے اس کو چھوا، نہ زبان سے اس سے باتیں کیں، نہ کان سے اس کی باتیں سنیں، پوری ہمت سے کام لیا کہ نہ جسم کو اس کے قریب کیا نہ دل میں اس کا خیال پکایا فماث پھر اسی گھن اور شدت غم سے مر گیا فہم شہید تو وہ شہید ہو گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نبوت ہے۔ لہذا جو اس حدیث پاک کا مصدق ہو گا وہ یقیناً شہید ہے۔ اس میں کتنی بڑی بشارت ہے ان عاشق مراجوں کے لیے جو باوجود انتہائی عاشقانہ مزاج کے عفیف اور پاک دامن رہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اے بسا زندہ شہیدے معتمد

اے لوگو! بہت سے آدمی زندہ ہیں مگر شہید ہیں کیونکہ اپنی خواہشات کا خون کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ زندہ ہیں مگر شہید ہیں کیونکہ اللہ کی راہ میں اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون پینا سیکھا ہے۔

لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو بھی غم آئے اس کو نعمت سمجھوتا کہ قیامت کے دن کہہ سکو کہ ہم آپ کے راستے میں اتنا غم اٹھا کر آئے ہیں اور گناہ کے تقاضوں کو روکنے میں چاہے آدمی جان ہو جاؤ چاہے بے جان ہو جاؤ مگر ہمت سے کام لو۔ ہمتِ مردار مدد خدا۔ ہمت سے جو کام لیتا ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ چھوڑنے کی طاقت پا جاتا ہے۔ ہمت سے کام لو، بزدلی اور تیجڑا پن مت دکھاو، اللہ کے سامنے اور مژیانہ چالیں مت چلو، اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اللہ کے لیے گناہوں کے چھوڑنے میں پوری ہمت صرف کردو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوڑنے میں ایسا مزہ آئے گا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوا اور دنیا میں بھی عزت ملے گی لیکن دنیا کی عزت کے لیے گناہوں کو مت چھوڑو، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑو، عزت تو خود گتی اور خادمہ بن کر آئے گی۔ عزت بھی اللہ والوں کے لیے ہے:

﴿وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

(سورہ المنافقون، آیت: ۸)

مگر عزت کی نیت مت کرو، رب العزت کی نیت کرو کہ عزت کا رب مل جائے، وہ راضی ہو جائے۔ اور غم سے مراد وہ مشقت بھی ہے جو نیک اعمال کرنے میں ہوتی ہے اور یہ بھی غم ہے جیسے نماز پڑھنے کی مشقت، زکوٰۃ دینے کا غم، حج کی مشقت، روزوں کی مشقت۔ (پردیس میں تذکرہ وطن، ص: ۳۷۵)

حدیث نمبر ۸۹

﴿مَنْ طَوَّلَ شَارِبَةً عُوْقَبَ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ لَا يَجِدُ شَفَاعَتِي وَلَا يَشْرَبُ مِنْ حَوْضِي وَيَعْذَبُ فِي قَبْرِهِ وَرَيَّثَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمُنْكَرُ وَالنَّكِيرُ فِي غَضَبٍ﴾

(الجز المصالک الى مؤطمالک، باب ما جاء في السنة في الفطرة، ج: ۱۲، ص: ۲۳۳)

جو بڑی بڑی موچیں رکھے گا قیامت کے دن میری شفاعت نہیں پائے گا، نہ ہی اسے میرے

حوضِ کوثر پر آنے دیا جائے گا، قبر میں اس کے پاس مکر نکیر غصہ کی حالت میں بھیجے جائیں گے اور اسے دردناک عذاب دیا جائے گا اور موچھوں کا حکم یہ ہے کہ اگر بالکل برابر کرو تو یہ اعلیٰ درجہ ہے اور اگر کھنی ہی ہے تو کم از کم اوپر والے ہونٹ کا کنارہ کھلا رکھیں تو بھی ان شاء اللہ پاس ہو جائیں گے لیکن اگر موچھہ اتنی بڑھ گئی کہ اوپر والے ہونٹ کا کنارہ ڈھک گیا تو سمجھو پھر اسی عید کا خطرہ ہے جو حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ڈاڑھی کا بچھ جو نیچے والے ہونٹ کے نیچے ہے اسے بھی منڈاتے ہیں، یاد رکھیں اس کا رکھنا بھی واجب ہے، یہ ڈاڑھی کا بچھ ہے، اگر تمہارے بچے کو کوئی قتل کر دے تو کیا تم خوش ہو گے؟ کتابوں میں لکھا کہ اس کا منڈا نا بھی جائز نہیں ہے، رکھنا ضروری ہے تو ڈاڑھی تینوں طرف سے ایک ایک مشت رکھیں یعنی ایک مشت دائیں طرف سے ایک مشت سامنے سے اور ایک مشت باہیں طرف سے پھر ڈاڑھی میں تیل لگا کر کنگھی کر کے دیکھو کہ کتنی خوبصورت لگے گی۔ (اویاء اللہ کی پیچان، ص: ۲۵)

حدیث نمبر ۹۰

﴿اللَّهُمَّ بَا عَدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ حَطَّايَاتِي كَمَا بَا عَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ﴾

(صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب ما يقول بعد النکیر)

اے اللہ! میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیجیے جتنا مشرق اور مغرب میں ہے۔ دیکھئے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی کیا بلاغت ہے کہ جتنا مشرق میں جاؤ مغرب دور ہوتا جائے گا اور جتنا مغرب میں جاؤ مشرق دور ہوتا جائے گا۔ مشرق اور مغرب کا فاصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مانگا؟ تاکہ گناہ کرنا محال ہو جائے چونکہ مشرق اور مغرب کا مانا محال ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مانگا کہ خطاؤں کو ہمارے لیے محال کر دیجیے، ایسا ایمان دے دیجیے کہ جان دینا آسان ہو جائے آپ کو نار ارض کرنا ناممکن ہو جائے۔ جب زیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ دی کہ اگر میرے ساتھ گناہ نہ کرو گے تو تمہیں جیل خانہ میں ڈلوادوں کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مقامِ نبوت نے اعلان کیا:

﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾

(سورہ یوسف، آیت: ۳۳)

اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس بات سے کہ میں گناہ کروں۔

توجب زیخا نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جانِ نبوت نے وہاں بیٹھ کر دعا نہیں کی بلکہ وہاں سے فوراً بھاگے۔ اس لیے گناہ سے فوراً بھاگو۔ گناہ سے بھاگنا بھی کی سنت ہے۔ اپنے تقویٰ پر ناز

نہ کرو ورنہ بڑے بڑے متفقیوں کا منہ شیطان کالا کر دیتا ہے۔ گناہ سے اتنا دور بھاگ جاؤ کہ اس کے دائرہ کشش سے نکل جاؤ، پھر اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ توبہ کرو اور مرد مانگو، گناہ کے دائرة کشش میں نہ رہو ورنہ گناہ پھر کھٹک لے گا۔ بس گناہ سے توبہ کرو اور گناہوں کو زہر قاتل سمجھو، جیسے زہر قتل کر دیتا ہے ویسے ہی گناہ تمہارے ایمان کو قتل کر دے گا۔

گناہ سے نچنے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اپنا ولی بنالیتا ہے ورنہ ہزاروں تہجد، اشراق، اوّابین نفلوں پر غلیں، رات بھر تلاوت کا نور ایک گناہ بتاہ کر دیتا ہے۔ بس اللہ کو راضی کرو، قیامت کے دن اللہ ہی کام آئے گا، یہ حسین کام نہیں آئیں گے، حسین مرد ہو یا عورت کچھ دن میں ان پر بڑھا پائے گایا نہیں؟ کیا یہ ہمیشہ حسین رہیں گے؟ آج سولہ سال کی جو لڑکی پاگل کر رہی ہے یہ بڑھی ہونے کے بعد ایسے ہی پاگل کرے گی؟ اسی طرح اگر لڑکے کا حسن کسی کو پاگل کر رہا ہے تو جب یہ اسی برس کا ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، بارہ نمبر کا چشمہ لگ جائے گا تب کیا کرو گے اور کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے ڈرو، جہنم کا پیٹ بھرنے کا سامان نہ کرو، جس کو جوانی میں آج پاگل کی طرح دیکھ رہے ہو لیکن اس کے بڑھاپے میں کیا کرتے ہو۔

میر کا معتوق جب بدھا ہوا
بھاگ نکلے میر بدھے حسن سے

خدا کے لیے منہ کالا کرنے والے اعمال سے بچو، بہت بچو، بہت بچو۔ ان سے عزت نہیں ملتی، خود معتوق یا معتوقہ کی نظر میں آدمی ذلیل ہو جاتا ہے چاہے کتنی بڑی ڈاڑھی ہو اور سن کی تی بھی اور سفید بھی ہو۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ با یزید بسطامی کی شکل میں یہ نگ یزید کہاں سے آگیا۔ گناہوں میں عزت نہیں ہے، ذلت ہی ذلت ہے اور پریشانی ہی پریشانی ہے۔ (پردیس میں تذکرہ وطن، ص: ۱۱۹)

حدیث نمبر ۹۱

﴿الْتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْل﴾

شعب الایمان للبیهقی، فصل فی فضل العقل

الْتَّوَدُّدُ بِأَبْتَغَى تَفْعَلُهُ، بِأَبْتَغَى تَفْعَلُ مِنْ تَكْلِيفٍ كَا خَاصَّهُ هِيَ لِعْنَى أَكْرَدُ لَنْ بَھِي چَا هِيَ تَبْ بَھِي مَحْبَتُ كَرُو، دَلْ چَا هِيَ پَرْ مَحْبَتُ كَرُنَا كَمَالُ هِيَ، كَمَالُ يِهِ هِيَ كَدَلْ نَهْ چَا هِيَ پَھِرْ بَھِي مَحْبَتُ كَرُو، دَوْسَتُ هِيَ نَهِيَّنْ دَشْمَنْ سَبَھِي بَهْ تَكْلِيفُ مَحْبَتُ كَرُو كَيْوَنَهْ دَوْسَتُ سَمَّ مَحْبَتُ كَرُنَا كَمَالُ هِيَ، دَشْمَنْ سَمَّ مَحْبَتُ كَرُنَا كَمَالُ هِيَ كَيْوَنَهْ اس سَمَّ مَحْبَتُ كَرُنَا كَوْدَلْ نَهِيَّنْ چَا هِتَا اس بَهْ تَكْلِيفُ مَحْبَتُ كَرُنَا كَوْضُور صَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَاتَ ہِيَ کَهْ يَآ دَھِي عَقْل

ہے یعنی تمام عقل کا اگر آدھا کردیا جائے تو آدھی عقل التَّوْذُّدُ إِلَى النَّاسِ ہے یعنی لوگوں سے بہ تکف محبت کرنا۔ باب تفعل اسی لیے استعمال فرمایا کہ بعض لوگوں سے مناسب نہیں ہوتی ان سے محبت سے پیش آنے کو جی نہیں چاہتا مگر ان کو بھی دیکھو تو بہ تکف کہو کہ آہا السلام علیکم بھائی مزاج اچھے ہیں! تو دد دین تو ہے ہی دنیا کی بھی راحت ہے کیونکہ دل خوش رہتا ہے۔ (پدیں میں تذکرہ وطن، ص: ۱۵۳)

التَّوْذُّدُ بَابٌ تفعل اس لیے استعمال فرمایا کہ محبت کرنے کو دل نہیں چاہتا پھر بھی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، مناسبت نہیں ہے وحشت ہوتی ہے، محبت نہیں معلوم ہوتی پھر بھی اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر بہ تکف محبت سے پیش آتا ہے، ملاقات ہوتی ہے تو خیر و عافیت معلوم کر لیتا ہے۔ اس لیے دل کے غلام نہ بتوال اللہ کے غلام بنو۔ باب تفعل میں تکلف کا خاصہ ہے یعنی بہ تکف محبت کرو اگرچہ دل نہیں چاہتا اور إِلَى النَّاسِ میں الف لام استغراق کا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں سے محبت کرو یہاں تک کہ کافر سے بھی محبت کرو عقولاً تو دشمنی رکھو کہ یہ میرے اللہ کا دشمن ہے لیکن اس حیثیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے وہ آئے تو خیر و عافیت پوچھ لواور اگر تھہرا مہمان ہے تو با دل ناخواستہ چائے پانی بھی کر دو تاکہ وہ سمجھے کہ مسلمان ایسے اخلاقِ عالیہ کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ دیکھو کہ ایک کافر آیا جو اپنی قوم کا سردار تھا، آپ نے اپنی چادر بچھادی کہ بیٹھو۔ چادر بیوت پر ایک کافر بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کی اس لیے عزت کی کہ اگر وہ اسلام لے آیا تو اس کے اسلام لانے سے اس کی قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ آنِزلُوا النَّاسَ بِقَدَرٍ مَنَازِلُهُمْ جس مرتبہ کا آدمی آئے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو، بظاہر اکرام کرو لیکن دل میں اس کافر کی عزت نہ ہو، دل میں بغرض رکھو، یہ اسلام ہے کہ باوجود دل میں بغرض ہونے کے اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دے رہا ہے تاکہ اس تو دد کی برکت سے اسلام پہلیے۔

حدیث التَّوْذُّدُ إِلَى النَّاسِ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مشکلات حل فرمادیں۔ جس سے دل نہ ملے اس بھی محبت کرنے کو آپ نے آدھی عقل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جو بے وقوف ہے وہ مخلوق سے محبت نہیں کرتا اور اس وجہ سے مخلوق کو قابو میں نہیں رکھتا۔ محبت کرنے والے سے سب لوگ قابو میں آ جاتے ہیں۔ اگر دل نہیں بد لے گا تو کم از کم نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ وہ احسان سے دبارے ہے گا، شرم آئے گی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے محسن کے ساتھ بھی بد تیزی کرتا ہے۔ اس لیے دشمن کے ساتھ بھی محبت کرو۔

(پدیں میں تذکرہ وطن، ص: ۱۵۶)

حدیث نمبر ۹۲

﴿إِذَا رَأُوا ذِكْرَ اللَّهِ﴾

(تفسیر روح المعانی، سورۃ یونس، آیت: ۳)

اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے۔

حدیثِ اِذَا رَأُوا ذِكْرَ اللَّهِ کی تشریف

حضرت والا کھانا تناول فرمانے کے بعد ٹھہنٹنے کے لیے مدرسہ کے ہال میں تشریف لائے۔ تھوڑی دیر چہل قدمی فرمائ کر سی پر تشریف فرماء ہوئے۔ ایک صاحب کو دیکھ کر مخاطب فرمایا کہ یہ آنسکریم بناتے ہیں، میں ان کی آنسکریم کا چاچا ہوں، ان کو جب دیکھتا ہوں تو آنسکریم یاد آتی ہے تو اللہ والوں کو دیکھ کر اللہ یاد آنے میں کیا اشکال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لانا تو فرض ہے، اِذَا رَأُوا ذِكْرَ اللَّهِ اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے۔ میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر چیز اس کے والوں سے ملتی ہے، آلو والے ہیں تو ان سے آلو ملے گا، کتاب والے سے کتاب ملے گا، امر و دوالے سے امر و دملے گا، کپڑے والوں سے کپڑا ملے گا اسی طرح اللہ والوں سے اللہ ملے گا۔ اس کی دلیل قرآن شریف میں ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

(سورۃ التوبۃ، آیت: ۱۱۹)

اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کر کے گناہ چھوڑ کر تم اللہ کے دوست بن جاؤ لیکن کیسے بنو گے؟ جو میرے دوست ہیں جو تقویٰ میں چے ہیں ان کے پاس رہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ بے مثل ہیں، عظیم الشان ہیں، پاک ہیں لیکن اپنے ناپاک بندوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور میرے دوست بن جاؤ کیونکہ میرے دوست صرف تقویٰ والے ہیں اُنْ أُولَيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔

(پر دیں میں تذکرہ وطن، ص: ۲۳۹)

حدیث نمبر ۹۳

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ عَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَ لَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ﴾

(جمع الزوائد و منبع المؤائد، کتاب الاذکار)

حدیث شوقاً الی لقاءک کی شرح

ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا غم ہمیشہ گرم رہتا ہے اس کے علاوہ دنیا کے سارے ہنگامے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ آج جو بچہ ہے کل دلوہا بنا پھر بابا ہو گیا پھر دادا ہو گیا پھر قبر میں لیٹ گیا۔ سب ہنگامے سرد ہو گئے۔

زیں سب ہنگامہ ہا شد گل ھدر
باشد ایں ہنگامہ ہر دم گرم تر

بس اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہنگامہ ہر دم گرم تر رہتا ہے، باقی سارے ہنگامے فانی ہیں۔ شادی بیاہ کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پھر بچوں کی پیدائش پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں کل کوئی ہورہی ہے، جن کے ہاتھوں سے آؤ بھگت ہو رہی تھی انہی ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں، جس بیوی کے لیے ہر وقت بے چین رہتے تھے اس بیوی کے دانت ٹوٹ گئے اور آنکھوں پر بارہ نمبر کا چشمہ لگ گیا، کمر جھک گئی تو ناز کی اُس کمر کی کہاں گئی؟ بس یہی ہے دنیا بیاہ کی ہر چیز فانی ہے۔ اس لیے دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک وقت ہے کہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے پھر بابا بن جاتا ہے اور بعض لوگ پر داد بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے اس لیے یہ دعا کیجیے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَ لَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ﴾

یا اللہ میں آپ سے ملاقات کا شوق طلب مانگتا ہوں، یہ مطلوب نبوت ہے، دنیا والے مرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہائے میرا مکان، ہائے میری کار، ہائے میری شاندار مرسد زین ہائے یہ کون لے گا؟ یہ کہاں جائے گی اور اللہ والے کس طرح مرتے ہیں شوقاً إِلَى لِقَائِكَ اللَّهُكَ ملاقات کی ترپ لے کر جاتے ہیں۔ مگر وہ طلب ایسی ہے جو مطلوب بشرط شی ہے غیر ضراءٍ مضرَّةٍ اللَّهُا نی ملاقات کا شوق دے مگر وہ ایسا ہو جو مضرنة ہو، ایسا نہ ہو کہ شوق میں ہم بیمار ہو جائیں یاد ماغی تو ازاں کھو بیٹھیں۔ ایسا شوق ہو جو ہمارے جسم کو نقصان نہ دے وَ لَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اور رسولوں کو بھی نقصان نہ دے یعنی اس سے کوئی فتنہ گراہی کا نہ پیدا ہو اور فتنہ گراہی کیسے پیدا ہو گا کہ ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ آپ کہاں ملیں گے اور سب بیوی بچوں اور کار و بار کو چھوڑ کر جنگل کو نکل گئے تو یہ دوسروں کے لیے بھی فتنہ ہے۔ یا غلبہ شوق میں زیادہ آسودہ شوق ہو کر کوئی بدعت ایجاد کر دی جو شریعت میں جائز نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، مثلاً غلبہ شوق میں گانے بجانے لگے تو ایسا شوق فتنہ بن گیا، گمراہی کا سبب بن گیا۔ دیکھئے یہ کلام نبوت کا اعجاز ہے کہ شوق ملاقاتِ الہی کو مقید کر دیا کہ ایسا شوق عطا ہو جو ہمارے لیے بھی مضرنة ہو اور دوسروں کے لیے بھی مضر اور گمراہی کا باعث نہ ہو۔ (پردیس میں تذکرہ، طن، ص: ۳۶۲)

حدیث نمبر ۹۲

﴿الْمَرْأَةُ كَالْضِلَّعِ إِنْ أَقْمَتَهَا كَسَرْتَهَا وَ إِنْ أَسْتَمْتَعْتَ بِهَا أَسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَ فِيهَا عِوَجٌ﴾

(صحیح البخاری، باب المداراة مع النساء، ج: ۲)

بیویوں کے ساتھ نرمی کیجیے

حضر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے اگر اسے سیدھا کرنے

کی کوشش کی توٹ جائے گی اور اگر اس سے ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھایا تو فائدہ پہنچائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو مار مار کر سیدھی کر دیں گے، جو اپنی بیوی کو مار مار کر سیدھی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی پسلی سیدھی کرے، اگر لوگ ہسپتال میں جا کر اپنی پسلی سیدھی کرائیں گے توٹ جائے گی یا نہیں؟ آج کتنے گھر انہی لڑائیوں کی وجہ سے بر باد ہو گئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ تو خوب ہنسنے بولتے ہیں مگر جب بیوی کے پاس پہنچتے ہیں تو آنکھیں لال ہوتی ہیں، فرعون بنے ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ بازیزید بسطامی بنے آنکھیں بند کیے شیخ پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دونوں عمل سنت کے خلاف ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے اور فرماتی ہیں۔

لَنَا شَمْسُ وَ لِلْآفَاقِ شَمْسٌ
وَ شَمْسِيُّ حَيْرٌ مِّنْ شَمْسِ السَّمَاءِ
فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ
وَ شَمْسِيُّ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ

یہ کس کا شعر ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہم سب کی ماں ہیں، یہ ان کا شعر ہے کہ ایک سورج میرا ہے اور ایک سورج آسمان کا ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل و بہتر ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آسمان کا سورج بھر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ (اویاء اللہ کی بیچان، ص: ۲۲)

حدیث نمبر ۹۵

﴿الْتَّجَافِيُّ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْحُلُودِ وَ الْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ﴾
(مشکوٰۃ المصایب، کتاب الرفق، ص: ۲۲۶، روح المعانی، ج: ۸، ص: ۲۲)

شرح صدر کی علامات

اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اور اپنا نور اس کے دل میں ڈالتا ہے تو اس پر تین علامات ظاہر ہو جاتی ہیں نمبرا:

﴿الْتَّجَافِيُّ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ﴾

دنیا سے اس کا دل اچھا ہو جاتا ہے، سب حسین مردہ نظر آتے ہیں، تھی ہی خوبصورت عورتیں سامنے ہوں

سمجھتا ہے کہ سب قبر میں جانے والی ہیں، ساری دنیا اس کو مُدر از نظر آتی ہے، دنیا دھوکہ کا گھر ہے، جب قبر میں جنازہ اُترتا ہے تو کسی کی بیوی ساتھ جاتی ہے؟ کاروبار، موڑ، ٹیلی فون کیا قبر کے اندر جاتا ہے؟ اس لیے اس کا دل سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب چند روز کے دوست ہیں، زمین کے نیچے میر اللہ ہی کام آئے گا، اس لیے وہ اللہ کی محبت کو اپنے اوپر بیوی بچوں سے بھی زیادہ غالب رکھتا ہے، کاروبار سے بھی زیادہ غالب رکھتا ہے، موڑ اور کار سے بھی زیادہ غالب رکھتا ہے اور ساری دنیا، ساری کائنات بلکہ سورج اور چاند سے بھی روشن ہو جاتا ہے۔

خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر
تو اپنا بوریہ بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا

اور

تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی
ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے مرے آنسو
تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی
دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن
جو عالم بے فلک ہوتا جو دنیا بے زمیں ہوتی

جب ہم اللہ کی یاد میں تڑپ کر اپر جاتے ہیں تو ہم کو آسمان روکتا ہے، نیچے تڑپ کے آتے ہیں تو زمین روکتی ہے، ایک اللہ والے کا شعر ہے۔

نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے
دل بے تاب کی صد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی

اہل اللہ سے بدگمانی کرنے والوں لوکہ خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی زندگی کس طرح گذرتی ہے۔

پتہ چلتا کہ غم میں زندگی کیوں کر گزرتی ہے
ترے قابل میں کچھ دن کو مری جان حزیں ہوتی

کسی اللہ والے کی جان تمہارے جسم میں ڈال دی جائے تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنی توارکھاتے ہیں، ہرگناہ سے بچتے ہیں، اللہ کے لیے ہر وقت غم اٹھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو عورتوں سے نظر بچائے گا، برے برے گندے تقاضوں کا خون کرے گا، بری خواہش پر اللہ

کے حکم کا چاقو چلائے گا وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کافر سے لڑ کر گردن پر جو تلوار چلتی ہے اس خون کو دنیادیکھتی ہے لیکن جواندہ ہی اندر تقویٰ کے لیے اپنی برخ خواہشات کا خون کر رہے ہیں اس خون کو صرف اللہ کیھتا ہے۔ دیکھ لو تفسیر بیان القرآن میں ہے کہ سالکین اور جہاد اکبر یعنی نفس کا مقابلہ کر کے جو لوگ گناہ چھوڑتے ہیں اللہ ان کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔

شرح صدر یعنی سینہ کھلنے کی دوسری علامت ہے:

﴿إِلَاءِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ﴾

ہندو سادھو بھی التّبَاجِفِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ پر عمل کر لیتا ہے مگر آخرت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا اس لیے دوسری شرط لگا دی وَالْأَنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ اس کو ہر وقت آخرت کی یاد رہتی ہے جیسے اگر مجھلی پانی سے نکالی جائے تو اسے ہر وقت پانی ہی کی یاد رہتی ہے ایسے ہی انہیں بھی ہر وقت آخرت کی یاد رہتی ہے اور شرح صدر کی آخری علامت ہے:

﴿وَالْإِسْتِعْدَادُ لِلْمُوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ﴾

موت کے آنے سے پہلے قضا نماز، قضا روزے ادا کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کا بقایادے دیتے ہیں، اپنی فائل درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

نه جانے بلے پیا کس کھڑی
تو رہ جائے تکنی کھڑی کی کھڑی

(اویاء اللہ کی پیچان، ص: ۲۲)

حدیث نمبر ۹۶

﴿يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الدُّنُوبُ وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ فَاغْفِرْلَى مَالًا يَضُرُّكَ وَهَبْ لِمَا يَنْقُصُكَ﴾

(شعب الایمان للبیهقی)

حدیث یا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الدُّنُوبُ الخ کی انوکھی شرح

فوما یا کہ دعا مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿أُذْعُونُنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

(سورة الغافر، آیہ: ۲۰)

مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَعْضَبْ عَلَيْهِ﴾

(سنن الترمذی، کتاب الدعوات)

جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے خوب مانگو، بغیر مانگے نعمتوں کا انتظار نہ کرو جیسے کوئی کریم کہے کہ میری کھڑکی کو ٹھکھٹاؤ تو میں عطا کروں گا۔ پھر اگر کوئی نہیں ٹھکھٹاتا تو یہ نعمت کی نادری ہے اور کریم سے استغنا ہے پھر محروم رہے تو کیا تعجب ہے اور اس اعتبار سے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ابھی دل میں عطا فرمائی کہ جیسے اس زمانہ میں کارڈ ملتا ہے کہ بینک میں ڈالا اور پیسہ لے لوایسے ہی دعا کا کارڈ ڈالا اور قبولیت کا پیسہ لے لو۔

اور یہ بھی نہ سوچو کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی۔ بس ایک بار دل سے خوب توبہ کر کے پھر گناہوں کو یاد بھی نہ کرو کہ ہمارا پالا ارحم الراحمین سے ہے، اس کی رحمت سے امید رکھو، گناہوں کو اور گناہوں کی تباہ کاریوں کو یاد نہ کرو کہ

مصر بودیم و یکے دیوار ماند

ہم دین کا ایک شہر تھے، گناہوں سے ہم نے پورے شہر کو تباہ کر لیا، اب ہم صرف ایک دیوار رہ گئے۔ اے اللہ اگر یہ دیوار بھی گرگئی تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ ہو گا لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر شیطان وہ دیوار بھی گرا دے تو اے اللہ آپ دوبارہ شہر آباد کر سکتے ہیں۔ شیطان کی منتها یہ تخریب کو آپ اپنے ارادہ تعمیر کے نقطہ آغاز سے درست فرماسکتے ہیں لہذا مایوس نہ ہو، ان کی چوکھٹ باقی ہے ہماری پیشانی باقی ہے، ان کا در باقی ہے ہمارا سر باقی ہے۔

بڑھ کے مقدار آزماس بھی ہے سنگ در بھی ہے

اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا تُنْفِصُهُ الْمُغْفِرَةُ فَاغْفِرْلِي مَالًا يَضُرُّكَ وَهَبْ لِي مَا يَنْقُصُكَ﴾ پکارنے کا کیا پیارا انداز ہے اور پکارنے والا بھی کیسا پیارا ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کیسا پیارا ہے کہ پیاروں کا پیارا ہے۔ اے وہ ذات جو اپنی ذات و صفات میں غیر محدود ہے، اس لیے ہمارے گناہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ نقصان ہمیشہ محدود میں ہوتا ہے، غیر محدود میں نقصان نہیں ہوتا اور ہمارے گناہ خواہ کتنی ہی اکثریت میں ہوں محدود ہیں کیونکہ ان پر عدد کا اطلاق ہو سکتا ہے اور جس چیز پر عدد کا اطلاق ہو جائے وہ محدود ہے اور ہر محدود محدود ہے اور غیر محدود محدود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پر عدد کا اطلاق اور فتنگ نہیں ہو سکتی۔ لیں ہمارے محدود گناہ آپ کی عنظمت غیر محدود کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ ہماری طاقت محدود آپ کی طاقت غیر محدود تک پہنچ بھی نہیں سکتی جبکہ آپ کی ایک ادنیٰ مخلوق سورج پر اگر ساری دنیا مل کر تھوک کے تو تھوک الثان کے منہ پر آئے گا، سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب آپ کی مخلوق کا یہ

حال ہے تو آپ کی شان تو فہم و ادراک سے بالاتر ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَى شَانَهُ عُلُوًّا كَبِيرًا اور مضرارع استعمال فرمایا کہ حالانہ استقبالاً ہمارے گناہ آپ کو مطلق نقصان رسائی نہیں ہو سکتے اور الذنوب میں الف لام استغراق کا ہے کہ گناہ کا کوئی فرد اس سے خارج نہیں یعنی گناہ کے جملہ انواع و اقسام آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ اور اے وہ ذات جو ہمارے گناہوں کی محدود اکثریت کو اگر معاف فرمادے تو اس کے غیر محدود خزانۃ مغفرت میں کوئی کمی نہیں آسکتی اور لا داخل ہونا دلیل ہے کہ مغفرت لامحدود ہے، یہاں بھی عدوف نہیں ہو سکتا کیونکہ کمی اور نقصان مستلزم ہے عد کو اور محدود مستلزم ہے محدود کو جیسے اگر کسی جھیل میں نوکروڑن پانی ہے اور اس میں سے دس ہزار روٹن پانی نکال لیا تو کہتے ہیں کہ جھیل میں پانی کم ہو گیا۔ تو جس طرح کسی چیز پر عدد کافٹ ہو جانا دلیل ہے کہ وہ محدود ہے اسی طرح جس چیز پر منفی اور مائننس لگ جائے وہ بھی محدود ہے، غیر محدود پر کمی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت پر نہ عدوف ہو سکتا ہے، نہ منفی اور مائننس اور کمی کا اطلاق ہو سکتا ہے کیونکہ غیر محدود ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کی جملہ صفات غیر محدود ہیں مثلاً صفت رِزاقیت۔ جب بابا آدم علیہ السلام اور مائی حوالیہ السلام دنیا میں آئے تو روئے ز میں پردو انسان تھے اور ان کے لیے چار روٹیوں کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے تھے اور آج ارب ہارب آدمی ہیں اور سب کو رزق مل رہا ہے اور ہر زمانے میں رزق کی کمی کمی نہیں ہوئی اس لیے فیملی پلانگ والے بے وقوف ہیں جو رزق کی کمی کے ڈر سے آبادی کم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں دوپچے سب سے اچھے۔ یہ سب حق ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں:

﴿وَ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوْعَدُونَ﴾

(سورة الداريات، آیہ: ۲۲)

تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو چونکہ اللہ کی ہر صفت غیر محدود ہے اور ہماری ہر صفت محدود ہے اسی لیے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں فَأَغْفِرْلَى مَا لَا يَضُرُّكَ اے اللہ! ہمارے گناہ اگرچہ کثیر ہیں لیکن محدود ہیں اور آپ کی ذات غیر محدود ہے۔ پس ہمارے گناہوں کی محدود اکثریت آپ کی غیر محدود ذات کو کمی نقصان نہیں پہنچا سکتی لہذا ہمارے ان گناہوں کو بخشن دیجئے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے وہب لی مالا يَنْقُصُكَ اور ہمیں اپنی وہ مغفرت بخشن دیجئے جو غیر محدود ہے اور ہمارے محدود گناہوں کو بخشنے سے جس میں کمی نہیں آتی۔

لیکن شیطان گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے خزانۃ مغفرت سے بڑا دکھا کر ما یوس کرتا ہے کہ تم تو

گناہوں کی آلو دیگیوں اور گندگیوں میں بنتا ہو، تم اللہ کے قرب کی فالو دیگیوں کو کیسے پاسکتے ہو، تم اللہ کے راستے کے قابل ہی نہیں ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے غیر محدود راستے و منازل و مسالک کے قابل کون ہو سکتا ہے۔ قابل تو وہ ہی ہو سکتا ہے جو غیر محدود ہوا اور اللہ کے سوا کوئی غیر محدود نہیں۔ انبیاء بھی محدود ہیں، مخلوق ہیں۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ﴾

(تفسیر ابن سعود)

اے اللہ! ہم آپ کو پہچان نہ سکے، جیسا کہ آپ کو پہچانے کا حق تھا اور آپ کی عبادت نہ کر سکے جیسا کہ آپ کی عبادت کا حق تھا کیونکہ آپ کا نبی بھی مخلوق ہے اس لیے محدود ہے اور محدود غیر محدود ذات کی معرفت و عبادت کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے۔ پس اللہ کے راستے کے قابل کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کا راستہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور ان کے جذب سے طے ہوتا ہے۔

یہ کرم ہے اُن کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر
کوئی زخم ہے جگہ پر غم شام ہے سحر پر
میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبل کر
مرا غم خشی سے بہتر مرا خار گل سے خوشن
مری شب قمر سے انور غم دل ہے دل کا رہبر
غم رہنمایا کا منظر
ذرا دیکھنا سنبل کر

لہذا ہرگز مایوس نہ ہوں، یہ راستہ مایوسی کا نہیں ہے، امیدوں کے سینکڑوں آفتتاب یہاں روشن ہیں۔ جس دن جذب عطا ہوگا آپ اپنے ارادوں کی پستیوں، ہمتیوں کی بر بادیوں اور گناہوں کی تباہ کاریوں کو بھول جائیں گے۔ پھر آپ کو خود تعجب ہوگا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے کہ دنیا بھر کی دلکشیاں اور رنگینیاں مجھے اپنی طرف نہیں کھینچ پا رہی ہیں۔ غیر محدود طاقت کا کھینچا ہوا سارے عالم کی محدود طاقت اور محدود جذب اور محدود دلکشیوں سے کیسے کھینچ سکتا ہے۔ جذب جاذب کے اختیار میں ہے مخذوب کے اختیار میں نہیں ہے، کھینچ ہوئے کے اختیار میں کھینچنا نہیں ہوتا لہذا یہ نہ کسی اور طرف کھینچ سکتا ہے اور نہ کسی اور کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اللہ کا کھینچا ہوا اللہ ہی کا ہو کر رہتا ہے۔ بس کوشش کرو، اللہ کا ہونے کے لیے جان کی بازی لگادو اور رورو کے اللہ کا جذب مانگو۔

کسی ہی حالت ہو، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رہو۔ ناامیدی اسی لیے کفر ہے کہ اس شخص نے حق تعالیٰ کی غیر محدود ذات و صفات کو اپنی احتمانہ عقل کے دائرہ میں محدود سمجھ کر عظمت غیر محدود کی ناقداری کی اور حق تعالیٰ کے دائرہ مغفرت کی غیر محدودیت کو اپنے محدود گناہوں کی اکثریت سے چیخنے کیا کہ میرے محدود گناہوں کی اکثریت کو معاف کرنے پر آپ کی مغفرت نعوذ باللہ قادر ہے حالانکہ ہر محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود کے سامنے اقلیت میں ہوتا ہے اور دنیا کے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق بھی کسی اقلیت کو حق نہیں کہ اکثریت کو چیخ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ناامیدی کو کفر قرار دیا کہ یہ شخص اپنے گناہوں کی محدود اکثریت سے اللہ تعالیٰ کی غیر محدود صفت مغفرت کو لکار رہا ہے اور غیر محدود مغفرت کو اپنے محدود گناہوں کے لیے ناکافی سمجھ رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ لا تَنْفَطُوا فرمائے ہیں اور میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ناامیدی کو کفر قرار دینے میں بھی حق تعالیٰ کی انتہائی رحمت پوشیدہ ہے کہ ڈرادھکا کر اور دوزخ کا ڈنڈا کھا کر اپنی رحمت کا امیدوار بnar ہے ہیں جیسے پچاگر بap سے ناامید ہو کر بھاگنے لگے تو بap اس کو پکڑ کر کہتا ہے کہ نالائق کہاں بھاگتا ہے میں تیرا بap ہوں مجھ سے کیوں ناامید ہوتا ہے۔ اگر ناامید ہو تو میں ڈنڈے سے تیری پٹائی کروں گا۔ پس حق تعالیٰ فرمائے ہیں کہ خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا ورنہ دوزخ میں ڈال دوں گا۔ بتاؤ کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ اگر سزا دینے میں اللہ تعالیٰ کو دلچسپی ہوتی تو ناامیدی کو کفر قرار نہ دیتے بلکہ فرماتے کہ اچھا مر نے دو، مجھے کیا سب کو دوزخ میں ڈال دوں گا لیکن ناامیدی کو کفر قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی رحمت بے پایاں سے نواز ہے۔

(خواص شریعت و طریقت، ص: ۲۸۹)

حدیث نمبر ۹

﴿كَلِمَاتٍ حَبِيبَاتٍ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَاتٍ عَلَى اللِّسَانِ تَقِيلَاتٍ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ﴾
 صحیح البخاری، کتاب التوحید، ج: ۲، ص: ۱۱۲۹

ترجمہ: دو کلمے اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہیں، زبان پر ملکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں،۔ وہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ہیں۔

بخاری شریف کی آخری حدیث کلمات حبیبات (لئے کی انوکھی تشریح) اخلاقِ رذیلہ کی اصلاح، مخلوق میں محبو بیت یعنی شاء خلق اور مخلوق کی نگاہوں میں عظمت یہ تین نعمتیں اس حدیث سے ثابت ہوں گی جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرماتے ہیں کہ ﷺ حَبِيبَتَنِ إِلَي الرَّحْمَنِ دُوْلَةُ اللَّهِ كَوْبِهٗ بُهْتَ مُحْبُوبٌ ہیں۔ اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ جیسی عظیم الشان ذات کو محبوب ہیں تو وہ کلمے بھاری ہوں گے، کوئی لمبا چوڑا اونٹیفہ ہو گا۔ اس لیے آگے فرمایا کہ خَفِيفَتَانِ عَلَى الْلِسانِ اللَّهُ كَوْپِیارے تو ہیں مگر یہ نہیں دیکھا کہ سرویر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی کس صفت کی طرف نسبت کی ہے؟ صفتِ رحمٰن لائے ہیں یعنی شانِ رحمٰت کی وجہ سے یہ کلمے محبوب ہیں، شانِ رحمٰت کا تقاضا یہ ہے کہ پرچہ آسان کر دیں لہذا یہ کلمے بھاری نہیں زبان پر ہلکے ہیں کیونکہ بوجھ حق تعالیٰ کی رحمٰت کے یہ کلمے اللہ کے یہاں محبوب ہیں اس لیے خَفِيفَتَانِ ہیں یعنی ہلکے ہیں، کوئی مضمون ان میں مشکل نہیں۔ لیکن ایک اشکال پھر پیدا ہوتا ہے جب زبان پر ہلکے ہیں تو قیامت کے دن کہیں ترازو میں بھی ہلکے نہ ہو جائیں تو جواب دے دیا یقیناً فی الْمِيزَانِ کہ ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ دفعِ دخل مقدر ہر جملہ کے اندر موجود ہے کہ یہ کلمے کیوں محبوب ہیں؟ رحمٰن کا لفظ بتا رہا ہے کہ بوجھ شانِ رحمٰت کے، اور زبان پر ہلکے کیوں ہیں؟ بتقا ضائے شانِ رحمٰت کے کہ بندوں کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو لیکن اشکال ہوتا تھا کہ جب زبان پر ہلکے ہیں تو میزان میں بھی کہیں ہلکے نہ پڑ جائیں تو **ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ** سے اسے دفع کر دیا۔

اس کے بعد سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ کا ترجمہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ سُبْحَانَ اللَّهِ کے معنی کیا ہیں؟ آئی أَسْبَحُ اللَّهَ عَنِ النَّقَائِصِ گُلّہا میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام نقائص سے، لیکن نقائص سے پاکی بیان کرنا یہ جامع نہیں ہے، صرف مانع ہے اور کلامِ نبوت جامع و مانع ہوتا ہے لہذا سرویر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگلے جملہ سے اس کو جامع فرمادیا وَبِحَمْدِهِ آئی مُشْتَمِلاً بِالْمَحَمِيدِ گُلّہا میں اس طرح سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ تمام خوبیوں کو بھی یہ شامل ہو۔ اگر کوئی بادشاہ کی تعریف اس طرح کرے کہ اس ملک کا بادشاہ کانا نہیں ہے، لنگڑا بھی نہیں ہے، لولا بھی نہیں ہے تو کیا یہ تعریف جامع ہے؟ نقائص سے تو بری کر دیا لیکن جب یہ کہو گے کہ دیانت و امانت کے ساتھ حکومت کرنا جانتا ہے، عادل بھی ہے، رحم دل بھی ہے تو یہ تعریف جامع ہوگی۔ پس اللہ تعالیٰ کی تعریف میں خالی سُبْحَانَ اللَّهِ کافی نہیں جب تک الْحَمْدُ لِلَّهِ بھی نہ کہے یعنی وہ تمام نقائص سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے خاص ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کا عربی میں کیا ترجمہ ہوا؟ آئی أَسْبَحُ اللَّهَ عَنِ النَّقَائِصِ گُلّہا مُشْتَمِلاً بِالْمَحَمِيدِ گُلّہا یہ ترجمہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے کیا ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام نقائص سے جو مشتمل ہے تمام محمد اور تعریفوں پر اور مولا ناروی سُبْحَانَ اللَّهِ کے بارے میں حکایۃ عن الحق فرماتے ہیں۔

من نہ گردم پاک از تستحق شان
پاک ہم ایشان شوند و درفشاں

یعنی جب بندہ سجحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو پاک ہوں ہی، تمہارے سجحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا بلکہ روئے زمین پر جو سجحان اللہ پڑھتے ہیں، میری پاکی بیان کرتے ہیں، میں اپنی پاکی بیان کرنے کے صدقے میں، سجحان اللہ کہنے کے طفیل و برکت سے ان کو ایک انعام دیتا ہوں کہ ان کو پاک کر دیتا ہوں۔

مذکورہ حدیث کے متعلق ایک منفرد علم عظیم

اس حدیث کے پڑھنے والے کو تین نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی۔ تو سننے سُبْحَانَ اللَّهِ كَهْنَے سے کیا ملے گا؟ ان شاء اللہ اخلاق کی پاکیزگی عطا ہوگی اور بِحَمْدِهِ سے کیا ملے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتا ہے اللہ مخلوق میں اس کو محسود کرتے ہیں۔ جو حامد ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کو دلوں میں محسود کر دیتا ہے یعنی مخلوق کی زبان پر اس کی تعریف، اللہ جاری کر دیتا ہے۔ لیکن بندہ کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ غیر اللہ ہے۔ مخلوق میں محسود اور پیارا ہونے کے لیے اللہ کو نہ چاہو، اللہ کے لیے اللہ کو چاہو، آپ اس کی فکر ہی نہ کریں بس ان کے ہو جاؤ۔

نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا
انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں

اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ ثناء خلق کی دولت آپ کو دے دیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھادی کہ حَسَنَةً ہم سے مانگو، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ نیک بیوی تم کوں کول جائے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ نیک اولاد تم کوں کول جائے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ مخلوق تمہاری تعریف کرے بلکہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اس کی اور تذلیل ہوتی ہے۔ اللہ سے حَسَنَةً مانگو، اللہ جب دے گا تب اصلی چیز ملے گی اور غیب سے ملے گی اور بے خطر ہوگی۔ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو نعمت کی اور نعمت پانے والے کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور جو اپنی تعریف خود کرتا ہے، بلا مانگ بلا دعا جو کام کرتا ہے وہ کام اچھا نہیں ہوتا۔ تو مجھہ سے کیا ملے گا؟ آپ محسود ہو جائیں گے۔ چونکہ بِحَمْدِهِ سے آپ حامد ہوئے اور جب حامد ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس حمد کی برکت سے آپ کو محسود کر دے گا یعنی ثناء خلق کی نعمت سے اور حَسَنَةً کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔

اور آگے سرو رِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ پڑھو سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اس کا اصطلاحی ترجمہ سن لوائی اُسَبِّحُ اللَّهُ عَنِ النَّقَائِصِ گُلِّهَا عَلَى حَسْبِ شَانِ عَظُمَتِهِ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان

کرتا ہوں تمام نقائص سے اس کی شانِ عظمت کے شایانِ شان۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جزاً آئَ وَ فَاقَ اللہ تعالیٰ کی جزاً موافق، عمل ہے یعنی اللہ تعالیٰ عمل کے موافق جزادیتا ہے۔ تو تم جب اللہ کی عظمتِ شان بیان کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تمہاری عظمتیں دوسرے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا مگر یہ نیت نہ کرو کہ ہم بندوں کے دلوں میں عظیم ہو جائیں۔ اسی لیے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی:

﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا﴾

(کنزُ العمال)

اے اللہ! مجھے میری نظر میں صغیر فرمائیں مگر بندوں کی نظر میں مجھے حقیر نہ فرماء، بندوں کی نظر میں مجھے کبیر کر دے کیوں کہ اگر دوسرے حقیر سمجھیں گے تو مجھ سے دین کیسے سمجھیں گے۔ معلوم ہوا کہ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا کی دعا مانگنا تو جائز ہے لیکن عظیم بنے کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی عمل اس نیت سے نہ کرو کہ ہم مخلوق کی نظر میں کبیر ہو جائیں اور مخلوق ہماری خوبی عزت کرے بلکہ ہمیں اللہ مخلوق کی نظر میں بڑا اس لیے دکھائے تاکہ جب ہم ان کو دین کی بات پیش کریں تو بوجہ عظمت کے ہماری بات ان کو قبول کرنا آسان ہو۔ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا کی دعا کا مقصد اپنی ذات کے لیے، دنیوی عزت کے لیے بڑائی مانگنا نہیں ہے۔ اگر دنیوی عزت کی نیت ہے تو وہی عمل طلب جاہ اور ریا ہو جائے گا۔ نیت پر ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیوی عزت و جاہ کی نیت نہیں سکھائی بلکہ یہ سکھایا کہ اے اللہ آپ اپنے بندوں میں مجھے بڑا تو دکھائیے مگر ایک شرط سے کہ جب آپ مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا دکھائیں تو میری نظر میں مجھے چھوٹا دکھائیے۔ پہلے آپ مجھے میری نظر میں مٹا دیجئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فِي عَيْنِي صغیرًا مانگا تاکہ اللہ مجھے میری نگاہوں میں حقیر رکھے تاکہ جب اللہ تعالیٰ مجھے فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا بنائیں اور جب لوگوں کی طرف سے مجھے عظمتیں ملیں تو اس کَبِيرًا کا ضرر مجھے نہ پہنچ۔ یہاں فِي عَيْنِي صغیرًا دافعِ ضرر ہے فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا کا تاکہ جب مخلوق کی نظر میں آپ مجھے بڑا دکھائیں تو میں اپنی نظر میں پہلے ہی حقیر ہو چکا ہوں کیوں کہ جب اپنی نظر میں حقیر ہوں گا تو مخلوق کی تعریف میں آ کر اپنے کو بڑا نہیں سمجھوں گا اور مردود ہونے سے نجگ جاؤں گا کیوں کہ شیطان اپنے کو بڑا سمجھنے ہی سے مردود ہوا۔ پس اگر آپ نے کبیر بننے کی نیت کر لی تو صغیر بننے کی جو دعا ہے وہ رائیگاں ہو گئی۔ آپ تو اس کبیر بننے کے شوق میں خود ہی کبیر ہو گئے اسی لیے پہلا جملہ فِي عَيْنِي صغیرًا ہے۔ معلوم ہوا کہ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا وہی ہوں گے، جو فِي عَيْنِي صغیرًا ہوں گے، اپنی نگاہوں میں جب ہم حقیر ہوں گے تب اللہ تعالیٰ اس کی

برکت سے بندوں کی نگاہوں میں ہمیں کبیر کرے گا اگر کبیر بننے کی نیت کر لی کہ نماز اس لیے پڑھو، امامت اس لیے کرو کہہ ہماری خوب تعریف ہو، مخلوق ہمارے ہاتھ پاؤں چوئے، ہماری خوب عزت ہو تو یہ تو اپنے نفس کے لیے کبیر بننا پہلے ہی ہو گیا اسی لیے تواضع پر رفتہ کا شرہ جو ہے اس کے نقش میں اللہ لگا ہوا ہے مَنْ تَوَاضَعَ اللَّهُ جَوَ اللَّهُ كَلِمَةُ اللَّهِ كَاللَّهِ اس کو بلندی دے گا لیکن جو اس نیت سے تواضع کرے اور سب کی جوتیاں سیدھی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بلندی دے دے تو اس کو رَفَعَةُ اللَّهِ نہیں ملے گا کیوں کہ یہ اللہ نہیں رہا۔ یہ نقش میں اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داخل فرمایا کہ تواضع اللہ کے لیے ہو، شرہ پر نظر نہ ہو کہ اللہ تواضع کے صلہ میں ہمیں بلندی دے دے۔ بلندی کے لیے تواضع نہ کرو اللہ کا حکم سمجھ کر کرو۔ رفتہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ اللہ اس کو بلندی دے گا جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا مگر جو رفتہ کی نیت سے تواضع کرے گا تو اس کی تواضع قبول ہی نہیں ہو گی کیونکہ یہ تواضع اللہ نہیں ہے۔ لام تخصیص کے لیے ہے کہ تواضع اللہ کے لیے خاص کرو، اپنے نفس کو مٹاو پھر جو چاہے اللہ دے دے۔ مزدوری کرو لیکن مزدوری کی اجرت اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو جو چاہے آپ دے دیں۔ ہم رفتہ کی نیت نہیں کرتے۔ آپ کی رضا کی نیت کرتے ہیں۔ شرہ تو ملے گا مگر بعض ثمرات ایسے ہیں کہ نیت سے وہ خراب ہو جاتے ہیں یعنی بری نیت سے۔ بعض ثمرات ایسے ہیں کہ اگر ان کی نیت کر لی جائے تو نیت اللہ نہیں رہے گی۔ مَنْ تَوَاضَعَ کے نقش میں اللہ اس لیے داخل کیا تاکہ اللہ کی عظمت کے سامنے دب جاؤ، اپنے کو اللہ کے سامنے مٹا دو کہ ہم کچھ نہیں ہیں تو ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ سے تزکیہ اخلاق نصیب ہو گا۔ بِحَمْدِهِ سے آپ کو شاء خلق یعنی حسنۃ کی تفسیر مل جائے گی اور عظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم فرمائیں گے مگر عظمت کی نیت نہ کرنا اپنے کو مٹا دو۔

میرے شیخ فرماتے تھے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت تصوف کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ آپ جیسے عالم فاضل کو مجھ بسی طالب علم کیا بتا سکتا ہے لیکن جو اپنے بڑوں سے سنائے اسی کی تکرار کرتا ہوں کہ تصوف نام ہے اپنے کو مٹا دینے کا۔ اس کو مولا ناروی نے فرمایا کہ دیکھو چاند کا نور ذاتی نہیں ہے، سورج کے نور سے مستنیر ہے یعنی قمر مستنیر اور مشن منیر ہے، چاند مستفید ہے اور سورج مفید ہے لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ جب زمین کا گولہ نقش سے ہٹ جائے تب چودہ تاریخ کا چاند روشن ہو گا۔ جتنا جتنا زمین کا گولہ آتا ہے چاند اندر ہیرا ہوتا جاتا ہے ایسے ہی جس کے نفس کا گولہ جتنا اللہ اور دل کے درمیان آتا ہے اتنا ہی نفسانیت اور اخلاقی رذیلہ سے اس کا دل اندر ہیرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کے دل کے اوپر اللہ کے درمیان میں پورا نفس آ گیا اس کا دل بالکل اندر ہیرا ہو گیا اور جس نے نفس کو پورا

مٹا دیا اس کا دل بد رہنی کی طرح روشن ہو گیا۔ پھر اس کی تقریر میں بھی نور کامل ہو گا اور اس کے لباس میں بھی نور کامل ہو گا اور جو شخص جتنا نفس نہیں مٹائے گا اس کے دل کا اتنا حصہ اندھیرا ہو گا مثلاً بارہ آنے مٹایا اور چار آنے نہیں مٹایا تو چار آنے اندھیرا ہے گا اس کی تقریر میں، تحریر میں، قلم میں اور زبان میں۔ بس میں نے اپنے بڑوں سے جو سناتھا وہ آپ کو سنادیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

اب دعا کرو کہ جتنے حافظ ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ عالم بھی بنادے اور جتنے عالم ہیں ان کو باعمل بنا دے اور آخرت کو، میری اولاد و ذریات کو، میرے احباب حاضرین کو، احبابِ غائبین کو، میرے طلباء کرام کو، میرے حفاظ کرام کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے اساتذہ کرام کو اور حاضرین عوام کو کسی کو بھی محروم نہ فرماء، ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں جہان دے دے، ہم سب کو اپنا در دل بخش دے، اپنی محبت دے دے۔
اے اللہ! اولیاء اللہ کی نسبت نصیب فرمادے۔ ہم سب کو اپنا مقبول اور اپنا محبوب بنالے۔

(تقریب ختم قرآن مجید و بخاری شریف، صفحہ: ۳۲-۳۵)



نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں

وہ فانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں
نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں
رہ عشق میں باوفا ہو رہے ہیں
ہم اب اہل صدق و صفا ہو رہے ہیں
مٹا کر خودی باخدا ہو رہے ہیں
نئے باب الفت کے وا ہو رہے ہیں
کرم ان کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں
کہ سلطان ہو کر گدا ہو رہے ہیں

جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے ہیں
وہ خمر کہن تو قوی تر ہے لیکن
کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر
خوشی اپنی اُن کی خوشی پر لٹا کر
کبھی پی رہے ہیں لہو آرزو کا
تجھے ہوں مبارک یہ اشک ندامت
یہ شانِ کرم ہے کہ نالائقوں پر
محبت کی آخرت کرامت تو دیکھو

﴿شیخ العرب و الحجج عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم﴾